

یہ کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ملک مقیم ہیں
مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔



منجانب۔

سبیل سکینہ

یونٹ نمبر ۸ لطیف آباد حیدرآباد پاکستان



جلد دوم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِیْنَ

کمال الدین (جلد دوم)

باب (۳۳) غیبت امام قائم علیہ السلام کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام کے
ارشادات

[شیخ فقیہ ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی رحمہ اللہ اس کتاب کے مؤلف عرض کرتے ہیں کہ

۱۔ بیان کیا مجھ سے حسین بن احمد بن ادریس نے ان سے ان کے والد نے ان سے ایوب بن نوح نے ان سے محمد بن سنان نے ان سے صفوان بن مہران نے اور ان سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمام ائمہ کا اقرار کرے اور مہدی کا انکار کرے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انبیاء علیہم السلام کا اقرار کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ کسی نے آپ سے پوچھا: فرزند رسول آپ کی اولاد میں مہدی کون ہیں؟ فرمایا: ساتویں کا پانچواں (فرزند) جو قہاری نظروں سے غائب ہوگا اور قہارے لئے اس کا نام لینا جائز نہیں ہوگا۔

۲۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد اور محمد بن حسن نے ان سے سعد بن عبد اللہ نے ان سے حسن بن علی زینبونی اور محمد بن احمد بن ابی قتادہ نے ان سے احمد بن ہلال نے ان سے امیہ بن علی نے ان سے ابی ہشیم بن ابی حبیب نے ان سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب ان تین ناموں کے اشخاص ایک کے بعد ایک آجائیں محمد و علی و حسن علیہم السلام) تو ان کا جو تھا قلیبم ہوگا۔

۳۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن ابراہیم بن اسحاق نے ان سے ابو علی محمد بن ہمام نے ان سے احمد بن ماہداز نے ان سے احمد بن ہلال نے ان سے امیہ بن علی قیس نے ان سے ابی ہشیم تمیمی نے ان سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ تین نام محمد و علی و حسن (علیہم السلام) آجائیں تو جو تھا قائم ہوگا۔

۴۔ بیان کیا مجھ سے علی بن احمد بن محمد دقاق نے ان سے محمد بن عبد اللہ کوفی نے ان سے موسیٰ بن عمران نطنزی

نے ان سے ان کے چچا حسین بن یزید نوقلی نے ان سے مفصل بن عمر نے کہ میں اپنے آقا جعفر بن محمد علیہما السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مولا کیا آپ اپنے بعد کسی امام کے لئے ہم سے عہد لیں گے؟ آپ نے فرمایا اے مفصل میرے بعد میرا بیٹا موسیٰ امام ہوگا اور آخری امام منتظر م ر ح م و ابن حسن بن علی بن محمد بن علی موسیٰ علیہم السلام ہے۔

۵۔ بیان کیا مجھ سے علی بن احمد بن عبداللہ بن ابو عبداللہ برقی نے ان سے ان کے والد نے ان سے ان کے جد احمد بن ابی عبداللہ نے ان سے ان کے والد محمد بن خالد نے ان سے محمد بن ستان اور ابو علی زرّاد نے ان سے ابراہیم کوفی نے کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو اس وقت بچے تھے تشریف لائے پس میں ان کے احترام میں اٹھا ان کے بوسے لئے اور اپنی جگہ پر آکر بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا۔ اے ابراہیم یہ میرے بعد تمہارے صاحب (امور) ہیں۔ ان کے بارے میں (امرا امت میں) کئی لوگ گمراہی میں پڑ کر ہلاک ہو جائیں گے۔ اور کئی بدلت پائیں گے۔ پس اللہ کی لعنت ہو ان کے قاتل پر اور اس کے لئے دو گنا عذاب ہو۔ ان کے سلب سے اللہ ایک زمانے میں بہترین شخص کو ظاہر کرے گا۔ جس کا نام ہمارے جد کے نام پر ہوگا وہ آنجناب کے علم و احکام و فضائل کا وارث ہوگا۔ وہ امامت کا معدن۔ اس الحکمہ ہوگا وہ بنو فلان کے جابروں کو قتل کرے گا اس کے فضائل سے لوگ حسد کریں گے لیکن اللہ اپنے امر کو پورا کرے گا چاہے مشرکین کو یہ بات ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ اللہ اس کے سلب سے بارہ ائمہ کی تکمیل امام مہدی کو ظاہر کرے گا۔ اس کو اپنی کرامت سے مخصوص کرے گا اور اس کے لئے مقام مقدس کو حلال کرے گا۔ بارہویں امام کا انتظار کرنے والا ایسا ہے جیسے رسول اللہ کی طرف سے تدار چلائے اور آپ کا دفاع کرے۔

ابراہیم کہتے ہیں اتنے میں ہنزامیہ کا ایک حلیف آپ کی خدمت میں آیا پس آپ نے اپنی گفتگو منتطیع کر دی۔ اس کے بعد میں امام کی خدمت میں گیا رہ مرتبہ حاضر ہوا کہ امام اپنا کلام مکمل کریں مگر ایسا موقع پھر حاصل نہ ہوسکا۔ کافی عرصہ کے بعد جب میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا اے ابراہیم وہ (امام قائم علیہ السلام) شیعوں کے طویل کرب و پریشانی اور خوف و غم میں ہتک رہنے کے بعد ظہور کرے گا۔ پس طوبیٰ ہے ان لوگوں کے لئے جو ان کے زمانے کو پائیں۔ اے ابراہیم اتنا جہارے لئے کافی ہے۔ ابراہیم کہتا ہے اس دن جو کچھ میں لے کر واپس لوٹا وہ میرے دل کے لئے مسرت کا باعث اور آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوا اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔

۶۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن یحییٰ اور محمد بن موسیٰ بن متوکل نے ان سے محمد بن یحییٰ عطار نے ان سے محمد بن حسن صفار نے ان سے ابو طالب عبداللہ بن الصلت قمی نے ان سے عثمان بن عیسیٰ نے ان سے سماء بن مہران نے کہا کہ میں ابو بصیر اور امام محمد باقر علیہ السلام کا غلام محمد بن عمران مکہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ محمد بن عمران نے کہا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں ہم بارہ ہادی ہیں۔ ابو بصیر نے اس سے کہا کہ اللہ

کی قسم کھاؤ کہ تم نے ایسا جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا۔ میں اس نے ایک یا دو مرتبہ قسمیہ کہا کہ میں نے ایسا سنا ہے۔ ابو بصیر بولے لیکن ایسا میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا ہے۔

اسی طرح کی ایک حدیث محمد بن حسن بن احمد بن ولید نے بیان کی ہے ان سے محمد بن حسن صفار نے ان سے ابو طالب عبداللہ بن العطلت قمی نے ان سے عثمان بن عیسیٰ نے اور ان سے سماعہ بن مہران نے۔

۷۔ بیان کیا مجھ سے حسین بن احمد بن ادریس نے ان سے ان کے والد نے ان سے محمد بن حسین بن یزید الزیاتی نے ان سے حسن بن موسیٰ خضاب نے ان سے ابن سماعہ نے ان سے علی بن حسن بن رباط نے ان سے ان کے والد نے ان سے مفضل بن عمر نے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کو خلق کرنے سے جو وہ ہزار سائے پہلے جو وہ نور خلق کئے اور یہ ہماری ارواح تھیں۔ کسی نے پوچھا: مولا یہ جو وہ کون ہیں۔ آپ نے فرمایا: محمد و علی و فاطمہ حسن و حسین اور حسین کی اولاد میں سے ائمہ جن میں آخری قائم ہوگا۔ جو نبوت کے بعد قیام کرے گا اور وہاں کو قتل کرے گا۔ اور زمین کو ظلم و جور سے پاک کرے گا۔

۸۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے ان سے سعد بن عبداللہ نے ان سے محمد بن حسین بن ابوالقتاب نے ان سے حسن بن محبوب نے ان سے علی بن رباب نے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفساً ایمانہا لم تکن امننت من قبل (سورۃ النعام آیت ۱۵۸) جس دن آئے گی ایک نشانی تیرے رب کی تو جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا اب اس کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو امام نے فرمایا: اس میں آیات سے مراد ائمہ ہیں اور آیت منظرہ امام قائم (علیہ السلام) ہیں کہ ان کے قیام بالسیف کے بعد کسی کا ایمان لانا فائدہ مند نہ ہوگا۔ اگرچہ کہ وہ پہلے ان کے آباء پر ایمان رکھتا ہو۔

۹۔ بیان کیا مجھ سے احمد بن حسن قطن، علی بن احمد بن محمد دقاق، علی بن عبداللہ وراق، عبداللہ محمد صالح اور محمد بن احمد شیبانی رضی اللہ عنہم نے ان سے احمد بن یحییٰ بن زکریا قطن نے ان سے بکر بن عبداللہ بن حبیب نے ان سے حمیم بن بہلول نے ان سے عبداللہ بن ابی الہذیل نے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ وہ کون لوگ ہیں اور ان کی کیا علامات ہیں جن کے لئے امامت واجب ہے۔ آپ نے فرمایا: امامت پر دلیل اور مسلمانوں پر حجت وہ فرد ہے جو امور مسلمین کا قائم کرنے والا ناطق بالقرآن اور احکام کا عالم ہے (ان میں پہنلا فرد) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ان کی امت پر ان کے خلیفہ اور وصی اور ولی ہیں۔ ان کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا ہے جیسے ہارون کو موسیٰ سے نسبت تھی۔ ان کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح فرض کیا ہے۔ یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم (سورہ نساء آیت ۵۹) "اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا حکم مانو رسول کا اور صاحبان امر کا جو تم میں سے ہوں" نیز ارشاد ہوا

انما وليکم اللہ و رسوله والذین امنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوٰۃ
وہم راکعون (سورۃ مائدہ آیت ۵۵) "بے شک جہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول اور جو ایمان والے ہیں جو کہ
قائم ہیں نماز پر اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں" کہہ کر ان کی ولایت کی طرف دعوت دی گئی ان کی
امامت کو غدیر خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ثابت کیا، کیا میں جہارے نفوس پر حاکم نہیں
ہوں؟ سب نے کہا بے شک۔ آپ نے فرمایا نہیں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اے اللہ اس سے محبت رکھ
جو اس سے محبت رکھے اس سے دشمنی رکھ جو اس سے دشمنی رکھے۔ اس کی مدد کر جو اس کی مدد کرے۔ اس کو چھوڑ دے
جو اس کو چھوڑ دے۔ اس کی اعانت کر جو اس کی اعانت کرے۔ یہ علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، امام المستقین، قائد
اعز النجلیین و افضل الوصیین، رسول اللہ کے بعد تمام خلق میں بہترین ہے۔ ان کے بعد حسن پھر حسین فرزند ان رسول
اور جناب فاطمہ الزہرا (صلوٰۃ اللہ علیہا) کے دل بند ہیں پھر علی بن حسین پھر محمد بن علی پھر جعفر بن محمد پھر موسیٰ بن
جعفر پھر علی بن موسیٰ پھر محمد بن علی بن محمد پھر حسن بن علی پھر ابن حسن بن علی صلوات اللہ علیہم۔ ہمارے اس
دن تک ایک کے بعد ایک۔ یہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی عمرت ہیں جن کے لئے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم) کی وصیت ہے۔ امام ہر زمانے ہر دور اور ہر وقت کے لئے ہے۔ یہ "عروۃ الوثقی" ہیں۔ یہ ائمہ ہدیٰ ہیں۔ یہ
اہل دنیا پر اللہ کی حجت ہیں کیونکہ اللہ نے زمین اور جو کچھ اس پر ہے اسکا انہیں وارث قرار دیا۔ پس جس نے ان کی
مخالفت کی وہ گمراہ ہوا اور حق و ہدایت کو چھوڑ بیٹھا۔ یہ ہی قرآن کی تعمیر اور حضور کے احکام کو بیان کرنے والے ہیں۔
یہ وہی شخصیات ہیں کہ جن کی معرفت کے بغیر کوئی مرجائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ انہی میں تقویٰ و
عفت و صدق و صلح اور اجہاد کی صفات ہیں یہی امانت کو اس کے اہل کی طرف لوٹاتے ہیں چاہے وہ نیک ہو یا فاجر۔
یہ ہی سجدے کو طویل اور رات کو قیام کرتے ہیں۔ یہ ہی محارم سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہ کشادگی و دقت کا صبر کے ساتھ
انتظار کرتے ہیں۔ ان کی صحبت اور ان کی ہمسائیگی بہتر ہے۔ پھر تمیم بن بہلول کہتے ہیں کہ ایسی ہی حدیث محمد سے ابو
معاویہ نے بھی بیان کی ان سے اعمش نے اور ان سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔

۱۰۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد اور محمد بن حسن نے ان سے سعد بن عبد اللہ اور عبد اللہ بن جعفر حمیری نے ان سے
ابراہیم بن ہاشم نے ان سے محمد بن خالد نے ان سے محمد بن سنان نے ان سے منقل بن عمر نے ان سے حضرت امام
جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے مقرب بندے وہ ہیں اور اللہ ان بندوں سے راضی ہوتا ہے کہ جب
اللہ کی حجت ان کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو جائے اور وہ اس کے مقام کو جانتے بھی نہ ہوں مگر ان کو اس کا یقین
ہوتا ہے کہ اللہ کی حجت کبھی باطل نہیں ہوتی (بہت ناخوش) وہ صبح و شام اس کا انتظار کرتے ہیں۔ اور اللہ کا غضب اپنے ان
دشمنوں پر شدید ہوتا ہے کہ جب اللہ کی حجت ان کی نظروں سے غائب ہو جائے تو وہ شک اور انکار میں مبتلا ہو جاتے ہیں

اللہ جانتا تھا کہ اس کے خاص بندے اس سلسلے میں شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوں گے اور اگر ایسی بات ہوتی تو وہ اپنی بخت کو ایک لمحہ کے لئے بھی ان سے پوشیدہ نہیں رکھتا۔ یہ ہی لوگ شریک لوگوں کے سردار ہوتے ہیں۔

۱۱۔ انہی اسناد سے مفصل بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں مرے کہ وہ امام زمانہ کی آمد کا منتظر ہو تو اس کا مرتبہ ایسا ہے جیسے وہ اس امام کے ساتھ ان کے خیمہ میں قیام پذیر تھا۔ نہیں بلکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تلوار سے جہاد کیا۔

۱۲۔ بیان کیا مجھ سے علی بن احمد بن دقاق نے ان سے محمد بن ابو عبد اللہ کوفی نے ان سے سہل بن زیاد آدمی نے ان سے حسن بن محبوب نے ان سے عبد العزیز عبدی نے ان سے عبد اللہ بن ابی یعفور نے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے میرے آباء کرام علیہم السلام اور میری اولاد میں سے (تمام کی) امامت کا اقرار کیا اور میرے بیٹے مہدی کی امامت کا انکار کیا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انبیاء کی نبوت کا اقرار کیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا۔ میں نے پوچھا مولا آپ کی اولاد میں سے مہدی کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہماری (نسل سے) ساتویں پشت سے پانچواں جو قہاری نظروں سے غائب ہوگا۔ اور جس کا نام لینا تمہارے لئے جائز نہ ہوگا۔

۱۳۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن ابراہیم بن اسحاق طالقانی نے ان سے احمد بن محمد ہمدانی نے ان سے ابو عبد اللہ عاصمی نے ان سے حسین بن قاسم بن ایوب نے ان سے حسن بن محمد بن سماع نے ان سے ثابت صالح نے ان سے ابو بصیر نے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم بارہ ائمہ میں سے مہدی ہوگا۔ چھ ائمہ آچکے اور چھ ائمہ باقی ہیں۔ (ان باقی چھ ائمہ میں) چھٹے کے ذریعہ اللہ وہ امور ظاہر کرے گا جو وہ چاہے گا۔

۱۴۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن ابراہیم بن اسحاق نے ان سے احمد بن محمد ہمدانی نے ان سے ابو عبد اللہ عاصمی نے ان سے حسین بن قاسم بن ایوب نے ان سے حسن بن محمد بن سماع نے ان سے وہیب نے ان سے ذریعہ نے ان سے ابو حمزہ نے ان سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ہم بارہ (ائمہ) میں سے مہدی ہوگا۔

۱۵۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن ابراہیم بن اسحاق نے ان سے احمد بن محمد ہمدانی نے ان سے جعفر بن عبد اللہ نے ان سے عثمان بن عیسیٰ نے ان سے سماع بن مہران نے کہ میں، ابو بصیر اور محمد بن عمران جو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے غلام تھے، مکہ میں ایک گھر میں تھے۔ محمد بن عمران نے کہا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا۔ (آپ نے فرمایا) ہم بارہ مہدی ہیں۔ ابو بصیر نے دو مرتبہ قسم اٹھاتے ہوئے کہا کہ میں نے بھی یہ بات جنتاب امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنی ہے۔

۱۶۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے اور محمد بن حسن نے ان سے سعد بن عبداللہ نے ان سے احمد بن محمد بن عیسیٰ نے ان سے محمد بن خالد برقی نے ان سے محمد بن سنان نے ان سے مفصل بن عمر نے ان سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے مقرب بندے وہ ہیں اور اللہ ان بندوں سے راضی ہوتا ہے کہ جب اللہ کی جنت ان کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو جائے اور وہ اس کے مقام اور مکان کو جانتے بھی نہ ہوں (کہ اس جنت تک پہنچ سکیں) مگر انہیں اس کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی جنت کبھی باطل نہیں ہوتی اور وہ صبح اور شام اس کا انتظار کرتے ہیں۔ اور اللہ کا غضب اس کے ان دشمنوں پر شدید ہوتا ہے کہ جب اللہ کی جنت ان کی نظروں سے غائب ہو جائے تو وہ شک اور انکار میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ (اللہ) جانتا تھا کہ اس کے خاص بندے اس سلسلے میں شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوں گے اور اگر ایسی بات ہوتی تو وہ اپنی جنت کو ایک لمحہ کے لئے بھی ان سے پوشیدہ نہیں رکھتا۔ اور اس میں شک و شبہ برے لوگوں کے دل و دماغ پر سوار ہوگا اور یہ ہی لوگ شر پسند لوگوں کے سردار ہو جاتے ہیں۔

۱۷۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے اور محمد بن حسن نے ان سے سعد بن عبداللہ اور عبداللہ بن جعفر حمیری نے ان سے احمد بن محمد بن عیسیٰ نے ان سے حسن بن محبوب نے ان سے محمد بن نعمان نے بیان کیا ہے کہ مجھ سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے مقرب بندے وہ ہیں اور اللہ ان بندوں سے راضی ہوتا ہے کہ جب اللہ کی جنت ان کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو جائے اور وہ اس کے مقام و مکان کو جانتے بھی نہ ہوں۔ (کہ اس جنت تک پہنچ سکیں) مگر انہیں اس کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی جنت کبھی باطل نہیں ہوتی اور وہ صبح اور شام اس کا انتظار کرتے ہیں۔ اور اللہ کا غضب اس کے دشمنوں پر شدید ہوتا ہے کہ جب اللہ کی جنت ان کی نظروں سے غائب ہو جائے تو وہ شک اور انکار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ (اللہ) جانتا تھا کہ اس کے خاص بندے اس سلسلے میں شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوں گے اور اگر ایسی بات ہوتی تو وہ اپنی جنت کو ایک لمحہ کے لئے بھی ان سے پوشیدہ نہ رکھتا۔

۱۸۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد اور محمد بن حسن نے ان سے سعد بن عبداللہ نے ان سے مصلیٰ بن محمد بصری نے ان سے محمد بن جمہور وغیرہ نے ان سے [محمد بن ابی عمیر نے ان سے عبداللہ بن سنان نے ان سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قائم کے لئے موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی ایک خصوصیت ہے میں نے پوچھا وہ کیا آپ نے فرمایا۔ ولادت کا مٹھی ہونا اور اپنی قوم سے غائب ہونا۔ میں نے عرض کی۔ جناب موسیٰ بن عمران علیہ السلام اپنی قوم سے کتنے عرصہ غائب رہے۔ آپ نے فرمایا اٹھائیس سال۔

۱۹۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن موسیٰ بن متوکل نے ان سے محمد بن یحییٰ عطار نے ان سے احمد بن محمد بن عیسیٰ نے ان سے عمر بن عبدالعزیز نے ان سے ہمارے علماء میں سے کئی افراد نے ان افراد سے داؤد بن کثیر برقی نے ان سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت الذین یؤمنون بالغیب (سورۃ بقرہ آیت ۳) جو کہ یقین

کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا۔ کے بارے میں فرمایا: (یہ آیت ان لوگوں کے لئے ہے) جنہوں نے ہمارے قائم کے ظہور کو حق جانا۔

۲۰۔ بیان کیا مجھ سے علی بن احمد بن محمد دقاق نے ان سے احمد بن ابی عبد اللہ کوئی نے ان سے موسیٰ بن عمران نعیمی نے ان سے ان کے چچا حسین بن یزید نے ان سے علی بن ابو حمزہ نے ان سے یحییٰ بن ابوالقاسم نے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان آیات کے بارے میں دریافت کیا "الم O ذلک الکتاب لاریب فیہ ہدی للمنتقین O الذین یؤمنون بالغیب (سورۃ بقرہ آیات ۱۲۸ تا ۱۳۰) الم۔ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں۔ متقی لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور جو لوگ غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا: متقیوں سے مراد حضرت علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں اور غیب سے مراد امام غائب ہیں۔ اس کی دلیل میں یہ ارشاد رب العزت ہے۔

ویقولون لولا انزل علیہ آیت من ربہ فقل انما الغیب للہ فانتظر وا انی معکم من المنتظرین (سورۃ یونس آیت ۲۰) اور کہتے ہیں کیوں نہ اتری اس پر ایک نشانی اس کی رب سے۔ سو کہہ دو کہ غیب کی بات اللہ ہی جانے سو منتظر رہو۔ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

۲۱۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے ان سے عبد اللہ بن جعفر حمیری نے ان سے احمد بن بلال نے ان سے عبد الرحمن بن ابی نجران نے ان سے فضالہ بن ایوب نے ان سے سدر نے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قائم کی مثال یوسف علیہ السلام جیسی ہے۔ میں نے عرض کیا: گویا آپ ان کے بارے میں یا ان کی غیبت کے بارے میں کچھ فرما رہے ہیں۔ پس مجھ سے فرمایا: اس امت کے سؤروں سے مشابہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ یقیناً برادران یوسف پیغمبروں کی اولاد میں سے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ سوا اور معاملہ کیا وہ ان کے بھائی تھے مگر ان کو نہ پہچانا یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ظاہر کیا کہ میں یوسف ہوں تو یہ امت کیوں انکار کرتی ہے کہ خدا اپنی حجت کو جس وقت چاہے لوگوں سے پوشیدہ کر دے۔ بے شک حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر تھے اور ان کے اور ان کے باپ کے درمیان اٹھارہ روز کی راہ تھی اگر خدا چاہتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام پر ظاہر کر دیں تو وہ اس پر قادر تھے۔ خدا کی قسم حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے فرزند خوش خبری کے بعد صحرا کی راہ سے نو روز میں مصر پہنچے تو یہ امت کیوں انکار کرتی ہے کہ حق تعالیٰ اپنی حجت کے بارے میں وہ کر دے گا جو کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں اس نے کیا کہ وہ لوگوں کے پاس سے باز رہے اور فرس پر ان کے ساتھ بیٹھے اور وہ لوگ ان کو نہ پہچانے جب تک کہ خدا نے اجازت نہ دی کہ وہ اپنے کو پہچانیں جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اجازت دی جس وقت کہ انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا قال

جل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیہ اذ اتمت جاملون ○ قالوا انک لانت یوسف
 قال انا یوسف و هذا اخی (سورۃ یوسف آیت ۸۹ / ۹۰) کہا کچھ تم کو خبر ہے کہ کیا، کیا تم نے یوسف اور
 اس کے بھائی کے ساتھ۔ جب تم کو کچھ نہ تھی۔ بولے کیا تو ہی یوسف ہے؟ کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔
 ۲۲۔ بیان کیا مجھ سے احمد بن محمد بن یحییٰ عطار نے ان سے ان کے والد نے ان سے ابراہیم بن ہاشم نے ان سے
 محمد بن ابو عمیر نے ان سے صفوان بن مہران جمال نے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: خدا کی قسم تم
 سے تمہارا مہدی غیبت اختیار کرے گا یہاں تک کہ جاہل کہہ اٹھیں گے کہ اب اللہ کو آل محمد علیہم السلام کی ضرورت
 نہیں۔ پھر وہ ظاہر ہوگا جیسے شہاب ثاقب ظاہر ہوتا ہے۔ اور دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھروسے گا جس طرح
 وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔

۲۳۔ بیان کیا مجھ سے عبدالواحد بن محمد بن عبدوس عطار نے ان سے علی بن قتیبہ نیشاپوری نے ان سے حمدان
 بن سلیمان نے ان سے محمد بن اسماعیل بن بزیغ نے ان سے حیان السراج نے ان سے سید بن محمد میری نے ایک
 طویل حدیث میں بیان کیا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ فرزند رسول ہم تک آپ
 کے آباء علیہم السلام کی احادیث غیبت اور اس واقعہ کے صحیح ہونے کے بارے میں پہنچی ہیں۔ آپ اس بارے میں کچھ
 بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا: میری اولاد میں چھٹے (امام) کے لئے غیبت واقع ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم کے بعد ائمہ ہدی میں بارہواں فرد ہوگا۔ ان میں کا پہلا فرد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اور
 آخری قائم بالحق ہیں۔ جو زمین پر بقیۃ اللہ ہیں اور صاحب زمان ہیں۔ خدا کی قسم اگر امام غیبت میں بسنے عرصے میں جتنے
 عرصہ نوح اپنی قوم میں رہے تو بھی اللہ اس دنیا کو اس وقت تک شتم نہیں کرے گا جب تک آپ ظاہر نہ ہو جائیں۔
 پس آپ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔

۲۴۔ بیان کیا مجھ سے احمد بن محمد بن یحییٰ عطار نے ان سے سعد بن عبداللہ نے ان سے احمد بن محمد بن عیسیٰ
 نے ان سے عثمان بن عیسیٰ کلابی نے ان سے خالد بن یحییٰ نے ان سے زرارہ بن اعین نے بیان کیا ہے کہ میں نے
 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارے قائم (علیہ السلام) کے لئے قیام سے پہلے غیبت ہے
 میں نے پوچھا وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا: دشمنوں کے خوف سے اور آپ نے اپنے بطن مبارک کی طرف اشارہ کیا پھر فرمایا:
 اے زرارہ وہ منتظر ہے اس دن اور اسے مجھے بارے میں لوگ شک کریں گے کچھ لوگ کہیں گے کہ اس کا حمل قرار پایا تھا
 کچھ سال پہلے پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ غیبت کے ذریعہ شیعوں کا امتحان لے گا اور باطل پرست شک کریں گے۔ زرارہ کہتے ہیں
 میں آپ پر فدا۔ اگر میں اس زمانہ غیبت میں موجود ہوں تو کون سا عمل میرے لئے بہتر ہوگا۔ آپ نے فرمایا: اے
 زرارہ اگر تم اس زمانہ غیبت میں ہو تو ہر وقت یہ دعا پڑھو۔

اللَّهُمَّ عَرَّفْنِي نَفْسَكَ ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ فَبَيْكَ ، اللَّهُمَّ
عَرَّفْنِي رَسُولَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ ، اللَّهُمَّ عَرَّفْنِي
حُجَّتَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي (اے اللہ تو مجھے اپنی معرفت عطا کر
کیونکہ میں نے تیری معرفت حاصل نہیں کی تو تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں گا۔ اے اللہ مجھے اپنے رسول
کی معرفت عطا فرما کیونکہ اگر میں تیرے رسول کی معرفت حاصل نہ کر سکا تو تیری ہجت کو نہیں پہچان سکوں گا۔ اے اللہ
مجھے اپنی ہجت کی معرفت عطا فرما کیونکہ اگر مجھے تیری ہجت کی معرفت عطا نہیں ہوئی تو میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا)۔

پھر فرمایا اے زرارہ بے شک اس وقت مدینہ میں ایک نوجوان قتل کیا جائے گا۔ میں نے پوچھا: میں آپ پر فدا
کیا اس نوجوان کو سفیانی کا لشکر قتل کرے گا؟ آپ نے فرمایا: نہیں بلکہ فلاں قبیلے کا لشکر قتل کرے گا۔ وہ لشکر مدینہ
میں داخل ہوگا۔ اور اس نوجوان کو پکڑ کر قتل کر دے گا۔ پس اس کا قتل حدودِ خدا سے بغاوت و سرکشی اور ظلم پر سببی
ہوگا اور اب اللہ مزید مہلت نہیں دے گا۔ اس وقت امام علیہ السلام ظاہر ہوں گے۔

اسی حدیث کو ہم سے محمد بن اسماعیل نے بیان کیا ان سے ابو علی محمد بن ہمام نے ان سے احمد بن محمد بن نوفلی
نے ان سے احمد بن ہلال نے ان سے عثمان بن عیسیٰ کلابی نے ان سے خالد بن نجیح اور انہوں نے حضرت امام جعفر
صادق علیہ السلام سے روایت کی۔

اسی حدیث کو ہم سے محمد بن حسن نے بیان کیا ہے ان سے عبداللہ بن جعفر حمیری نے ان سے علی بن محمد حجاج
نے ان سے حسن بن علی بن فضال نے ان سے عبداللہ بن بکیر نے ان سے زرارہ بن اعین نے اور انہوں نے حضرت امام
جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: قائم کے لئے قیام سے پہلے غیبت ہے۔ اور اسی کے مثل
حدیث بیان فرمائی۔

۲۵۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن موسیٰ بن متوکل نے ان سے علی بن ابراہیم بن ہاشم نے ان سے محمد بن عیسیٰ بن
عبید نے ان سے صالح بن محمد نے ان سے ہانی تمّار نے کہ مجھ سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ
صاحب امر کے لئے غیبت ہے۔ پس بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اس کے دین سے تمسک رکھے۔

۲۶۔ بیان کیا مجھ سے اسماعیل بن عیسیٰ اور محمد بن حسن نے ان سے سعد بن عبداللہ نے ان سے احمد بن محمد بن
عیسیٰ نے ان سے علی بن حکم نے ان سے سیف بن عمیرہ نے ان سے داؤد بن فرقد نے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ
السلام نے فرمایا کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی غیبت میں
رہے۔ یہاں تک کہ کوئی حضور اکرم (کے امر رسالت) کو نہیں جانتا تھا سوائے حضرت علی علیہ السلام کے۔

۲۷۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد اور محمد بن حسن نے ان سے سعد بن عبداللہ نے ان سے احمد بن محمد بن عیسیٰ

اور علی بن اسماعیل بن عیسیٰ نے ان سے محمد بن عمرو بن سعید زیات نے ان سے جریر نے ان سے عبدالحمید بن ابی ولیم طائی نے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: اے عبدالحمید بن ابی ولیم۔ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے۔ ان میں سے کچھ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا اور کچھ نے اپنی رسالت کو مخفی رکھا۔ پس جو سوال اعلان رسالت کرنے والے رسول کے حق میں ہوگا وہی امر رسالت مخفی رکھنے والوں کے حق میں ہوگا (یعنی اعلان کرنا یا مخفی رکھنا دونوں اللہ کے حکم کے تابع ہیں)۔

۲۸۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن حسن نے ان سے سعد بن عبداللہ و محمد بن حسن صفار نے ان سے محمد بن حسین بن ابی خطاب اور محمد بن عیسیٰ بن سعید نے ان سے صفوان بن یحییٰ نے ان سے عبداللہ بن مسکان نے ان سے محمد بن علی حلبی نے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں پانچ سال تک خوف کی بنا پر (امر رسالت کو) مخفی رکھا۔ اور امر رسالت سوائے حضرت علی علیہ السلام اور جناب خدیجہ کے کسی پر ظاہر نہیں تھا۔ پھر جب اللہ کا حکم ہوا تو آپ نے امر رسالت کو ظاہر کیا۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے مکہ میں تین سال تک امر رسالت کو مخفی رکھا۔

۲۹۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے اور محمد بن حسن نے ان سے سعد بن عبداللہ اور عبداللہ بن جعفر حمیری اور محمد بن یحییٰ صفار اور احمد بن ادریس نے ان سے احمد بن محمد بن عیسیٰ بن حسین بن ابی خطاب اور ابراہیم بن ہاشم نے ان سے حسن بن محبوب نے ان سے علی بن رباب نے ان سے عبداللہ بن علی حلبی نے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی وحی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تیرہ سال رہے۔ جس میں تین سال آپ نے امر رسالت کو دشمنوں کے خوف سے مخفی رکھا اور کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ یہاں تک کہ خدا کا حکم پہنچا اور آپ نے اعلان نبوت کیا۔

۳۰۔ بیان کیا مجھ سے ہمارے اصحاب (علماء) کی ایک جماعت نے ان سے محمد بن ہمام نے ان سے جعفر بن محمد بن مالک فزاری نے ان سے جعفر بن اسماعیل ہاشمی نے ان سے محمد بن علی نے ان سے عبدالرحمن بن حماد نے ان سے عمر بن سالم صاحب السابری نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں پوچھا **اصلا ثابت و فرعہافی السماء** (سورۃ ابراہیم آیت ۲۳)۔ اس کی جز مضبوط ہے۔ اور شاخیں آسمانوں میں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس کی جز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور شاخ جناب امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اور حسن و حسین علیہما السلام اس کے پھل ہیں اور حسین کی اولاد سے نواسہ اس کی شاخیں ہیں۔ اور شیعہ اس کے پتے ہیں۔ خدا کی قسم جب کوئی شیعہ مرتا ہے تو اس درخت سے ایک پتہ جھڑ جاتا ہے۔ میں نے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو تھی اکلاھا کل حسین باذن ربھا (سورۃ ابراہیم آیت ۲۵)۔ ہر وقت لپٹے

رب کے حکم سے پھل لاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم جو کچھ ہر سال حج و عمرہ بجالاتے ہو وہ امام کے علم میں ہوتا ہے۔

۳۱۔ بیان کیا مجھ سے علی بن احمد بن محمد بن عمران نے ان سے محمد بن عبداللہ کوفی نے ان سے موسیٰ بن عمران نخعی نے ان سے ان کے چچا حسین بن یزید نوفلی نے ان سے حسن بن علی ابن ابی حمزہ نے ان سے ان کے والد نے ان سے ابو بصیر نے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کی حیات میں جو غیبت سے متعلق امور ظاہر ہوئے وہ ہی امام قائم کے لئے بھی ہوں گے جو ہم اہل بیت میں سے ہوگا۔

ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا: فرزند رسول آپ اہل بیت میں سے قائم کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا: اے ابو بصیر وہ موسیٰ (کاظم علیہ السلام) کی پشت میں پانچواں امام ہوگا۔ وہ کئیوں کی ملکہ (بنتاب نرہس خاتون) کا فرزند ہے اس کی غیبت کے بارے میں باطل پرست شک کریں گے۔ پھر اللہ عزوجل اس کو ظاہر کرے گا اور اس کے ہاتھوں پر مشرق و مغرب کی فتح نصیب کرے گا اور حضرت عیسیٰ کو نازل کرے گا جو اس کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ رب کے نور سے زمین منور ہو جائے گی۔ زمین پر کوئی حصہ ایسا نہ ہوگا جہاں غیر اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ بلکہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی دین کھل کا کھل اللہ کے لئے ہو جائے گا اگرچہ مشرکین کو یہ بات ناگوار گزرے۔

۳۲۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے ان سے علی بن ابراہیم نے ان سے ان کے والد نے ان سے محمد بن فضیل نے ان سے ان کے والد نے ان سے منصور نے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے منصور یہ امر (ظہور امام) واقع نہ ہوگا مگر بابوسی کے بعد۔ خدا کی قسم یہ امر واقع نہ ہوگا مگر تمہارے درمیان انتشار پیدا ہونے کے بعد قسم بخدا یہ امر واقع نہ ہوگا مگر آزمائش کے بعد۔ قسم بخدا یہ امر واقع نہ ہوگا مگر اس وقت تک جب شقی سے شقاوت اور سعید سے سعادت ظاہر نہ ہو جائے۔

۳۳۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن حسن بن احمد بن وئید نے ان سے محمد بن حسن صفار نے ان سے احمد بن حسین نے ان سے عثمان بن عیسیٰ نے ان سے خالد بن یحییٰ نے ان سے زرارہ بن اعین نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے (امام قائم) کے لئے قیام سے پہلے غیبت ہے۔ میں نے عرض کی: میں آپ پر قربان وہ کس لئے؟ آپ نے فرمایا: خوف کے باعث پھر آپ نے ہاتھ سے لپٹے یغن مبارک اور گردن کی طرف اشارہ کیا۔ پھر فرمایا: وہ منتظر ہوگا جس کی ولادت کے بارے میں لوگ شک کریں گے۔ کچھ کہیں گے کہ جب اس کے والد کا انتقال ہوا تو وہ بھی مر گیا اور ان کے والد کی کوئی اولاد نہیں رہی۔ کچھ کہیں گے کہ وہ لپٹے والد کی وفات سے دو سال پہلے پیدا ہوا پس اللہ تعالیٰ (امام کی غیبت کے ذریعہ) اپنی مخلوق کا امتحان لے گا۔ اور باطل پرست شک میں مبتلا ہو جائیں گے۔

۳۴۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد، محمد بن حسن، محمد بن موسیٰ بن متوکل، محمد بن علی ماجیلہ اور احمد بن محمد بن یحییٰ صفار نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا ہم سے محمد بن یحییٰ صفار نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا ہم سے جعفر بن محمد

بن مالک فزاری کوئی نے ان سے اسحاق بن محمد صیرفی نے ان سے یحییٰ بن شعیب عطار نے ان سے عبداللہ بن بکیر نے ان سے عسید بن زرارہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ (ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگوں کی نظروں سے) امام غائب ہو جائے گا پس وہ امام حج پر آنے والوں کی گواہی دے گا۔ وہ انہیں دیکھے گا مگر لوگ اسے نہیں دیکھ سکیں گے۔

۳۵۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے اور محمد بن حسن نے ان سے عبداللہ بن جعفر حمیری نے ان سے محمد بن عیسیٰ بن عسید نے ان سے صالح بن محمد نے ان سے ہانی قتار نے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امر (قیام بالسیف) کے صاحب کے لئے نصبت ہے۔ (اسی نصبت میں) دین سے مستحکم رہنا ایسا ہے جیسے قنار (ایک طرح کا درخت ہے جس میں سوئی کی طرح کے کلٹے ہوتے ہیں) کے کلٹے اور پھلکے کو ہاتھ سے الگ کرنا۔ پھر آپ نے ہاتھ کے اشارے سے گھمایا اور فرمایا اس طرح۔ پھر فرمایا ہے شک اس امر کے صاحب کے لئے نصبت ہے۔ پس بلندے کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور اس کے دین سے مستحکم رہے۔

۳۶۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد اور محمد بن حسن نے ان سے سعد بن عبداللہ، عبداللہ بن جعفر حمیری اور احمد بن ادریس نے ان سے بیان کیا احمد بن محمد بن عیسیٰ، محمد بن حسین بن ابی خطاب، محمد بن عبداللہ اور عبداللہ بن عامر بن سعد اشعری نے ان سے عبدالرحمن بن ابی نجران نے ان سے محمد بن مساور نے ان سے مفصل بن عمر جعفی نے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ اپنے مذہب کی تفسیر نہ کرو۔ خدا کی قسم تمہارا امام قائم ایک لمبے عرصہ تک غائب رہے گا اور بے شک تم آزمانے جاؤ گے۔ یہاں تک کہ لوگ کہیں گے کہ وہ مر گیا یا کسی دادی میں ہلاک ہو گیا۔ مومنین کی آنکھیں اس کے لئے روئیں گی۔ لوگوں کے دل فتنوں کی شدت سے اس طرح مضطرب اور متزلزل ہوں گے جیسے سمندر کی موجوں میں سینٹے۔ کوئی نجات نہ پائے گا مگر وہ جن سے اللہ نے حمد یا ان کے قلب پر ایمان کو لکھ دیا اور اپنی رحمت سے ان کی تائید کی۔ اس وقت بارہ غلم بلند ہوں گے اور سب ایک دوسرے سے مشابہ ہوں گے کہ معظوم نہ ہو سکے گا کہ کون سا غلم حق کا ہے (یعنی ان بارہ میں کونسا لشکر حق پر ہے) میں یہ سن کر رونے لگا تو امام علیہ السلام نے فرمایا: اے ابا عبداللہ کیوں روتے ہو؟ میں نے عرض کی: مولا کیوں نہ روؤں۔ جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ بارہ غلم بلند ہوں گے جو سب ایک دوسرے سے مشابہ ہوں گے۔ پس ہم کیسے تیز کر سکیں گے (کہ ہمیں کس غلم کے ساتھ ہونا چاہیے) آپ نے فرمایا پس سورج کی طرف دیکھنا وہ کس لشکر پر روشن ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا: مولا یہ ہی سورج ہے آپ نے فرمایا ہاں۔ اے ابا عبداللہ کیا تم نے اس سورج کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہمارے امور اس سورج سے زیادہ روشن ہیں۔

۳۷۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے ان سے سعد بن عبداللہ نے ان سے محمد بن حسین بن ابی خطاب نے ان

سے محمد بن اسماعیل بن بزیر نے ان سے عبدالرحمن اصم نے ان سے حسین بن مختار قلانس نے ان سے عبدالرحمن بن سیاہ نے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اس وقت جہارا کیا حال ہوگا جب تم بغیر امام ہدیٰ کے ہو گے (یعنی امام غیب میں ہوں گے) اور تم کو ان کا علم نہ ہوگا۔ تم آپس میں ایک دوسرے سے بے زار ہو گے۔ آپس میں انتشار کا شکار ہو گے اور ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہو گے اور جدائی اختیار کر رہے ہو گے۔ یہ اس لئے ہوگا کہ تم میں سنت کے معاملے میں اختلاف ہوگا۔ دن کے آغاز پر قتل و غارتگری شروع ہوگی جو دن کے آخر تک جاری رہے گی۔

۳۸۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے ان سے سعد بن عبداللہ نے ان سے احمد بن محمد بن عیسیٰ اور یعقوب بن یزید نے ان سے حسن بن علی بن فضال نے ان سے جعفر بن محمد بن منصور نے ان سے عمر بن عبدالعزیز نے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اس حالت میں صبح اور شام کرو کہ جہارا امام تمہاری نظروں سے پوشیدہ ہو تو میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں جو تم (شیعوں) سے محبت رکھے اور اس شخص سے نفرت و بغض رکھتا ہوں جو تم سے بغض رکھے۔

۳۹۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن موسیٰ بن متوکل نے ان سے عبداللہ بن جعفر حمیری نے ان سے احمد بن محمد بن عیسیٰ اور محمد بن عیسیٰ بن عبید نے ان سے حسن بن محبوب نے ان سے یونس بن یعقوب نے ان سے کسی نے بیان کیا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت جہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عمر کا کچھ حصہ باقی ہوگا اور تم اپنے امام کو نہ پاسکو گے؟ کسی نے عرض کیا: مولا اس وقت ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا: حکم اول سے تمسک رکھو (یعنی جو کچھ جہارے دین اور امام کے بارے میں تمہیں بتایا گیا ہے اور تزلزل، تحیر اور انکار میں مبتلا نہ ہو۔ اولاً اس پر ایمان لاؤ جس کی دعوت تمہیں دی گئی کہ وہ بھت خدا ہیں) یہاں تک کہ جہارے لئے معاملہ ظاہر ہو جائے۔

۴۰۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد اور محمد بن حسن بن احمد بن ولید نے ان سے محمد بن حسن صفار نے ان سے عباس بن معروف نے ان سے علی بن ہزیران نے ان سے حسن بن محبوب نے ان سے حماد بن عیسیٰ نے ان سے اسحاق بن جریر نے ان سے عبداللہ بن سنان نے بیان کیا کہ میں اور میرے والد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا: اس وقت تم کیسے زندگی گزارو گے جب تم اپنے امام کو نہیں دیکھ سکو گے اور نہ ہی ان کا پیہ پاسکو گے اور اس سے نجات صرف ان لوگوں کو ملے گی جو دعائے عزق پڑھیں گے۔ میرے والد نے عرض کیا کہ حضور اس وقت ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ جب ایسا وقت آئے تو دین پر ثابت قدم رہنا۔ یہاں تک کہ امر تمہارے لئے واضح ہو جائے۔

۴۱۔ بیان کیا مجھ سے جعفر بن علی بن حسن بن علی بن عبداللہ بن مغیرہ کوئی نے ان سے ان کے جد حسن بن علی نے ان سے عباس بن عامر قصبانی نے ان سے عمر بن ابان کلبی نے ان سے ابان بن تغلب نے کہ حضرت امام جعفر

صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: ایک زمانہ لوگوں پر ایسا بھی آئے گا جب " سبط " (ایسا زمانہ جس میں امام غائب ہوں) ہوگا۔ اس وقت دو مسجدوں یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان کئی غلم بلند ہوں گے (جیسے سانپ اپنے بلوں میں سے نکلے ہیں) اس وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لئے ستارہ طلوع کرے گا۔ میں نے پوچھا: ایسا زمانہ جس میں امام غائب ہوں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: تمہارے امام کی نفرت اور بغیبت۔ میں نے عرض کیا: اس وقت ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہنا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے ستارہ کو طلوع کر دے (یعنی حق واضح کر دے)۔

۲۲۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد اور محمد بن حسن نے ان سے عبداللہ بن جعفر حمیری نے ان سے محمد بن حسین بن ابی خطاب نے ان سے موسیٰ بن سعدان نے ان سے عبداللہ بن قاسم نے ان سے سفصل بن عمر نے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جابر کی تفسیر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ایسی باتیں کم فہم لوگوں کو نہ بتایا کرو کیونکہ وہ اس کو پھیلائیں گے۔ کیا تم نے اللہ کی کتاب میں یہ آیت نہیں پڑھی۔ فاذا نقر فی القرآن اذکر سورۃ مدثر آیت ۸) پھر جب سور پھونکا جائے گا۔ "تو آپ نے فرمایا: ہم اہل بیت میں سے ایک امام ہوگا جو پوشیدہ ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ وہ ظاہر ہو تو اس کے دل میں ایک نکتہ بیدار کر دے گا پس وہ ظاہر ہو جائے گا اور حکم خدا نافذ کرے گا۔

۲۳۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد اور محمد بن حسن بن دینار نے ان سے محمد بن حسن صفار نے ان سے محمد بن حسن بن ابی خطاب اور محمد بن عیسیٰ بن عبدیقظینی نے ان سے عبدالرحمن بن ابی نجران نے کہ عیسیٰ بن عبداللہ بن محمد بن عمر بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ماموں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا: اگر ایسا وقت آئے (جس میں اللہ آپ کے دیدار سے مجھے محروم کر دے) تو کس کی اطاعت کروں؟ آپ نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے عرض کیا: ان کے بعد؟ آپ نے فرمایا: اس کے بیٹے کی طرف۔ میں نے کہا: ان کے صاحب زادے کی وفات ہو جائے اور انہوں نے اپنے پیچھے صفیر من بنیا اور کبیر من بھائی چھوڑا ہو تو پھر کس کی طرف رجوع کروں؟ آپ نے فرمایا: اس کے بیٹے کی طرف پھر فرمایا: اسی طرح ہمیشہ۔ میں نے عرض کیا: اگر ایسا وقت آجائے کہ میں وقت کے امام کو نہ پہچان سکوں اور نہ ہی ان کا پتہ مل سکے تو پھر میں کیا کروں؟ فرمایا: اس وقت یہ دعا پڑھا کرو۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَتُوَلِّیْ مَنْ بَقِیَ مِنْ حَبِیْبِكَ مِنْ وُلْدِ الْاِمَامِ الْمَاضِیِ (اے اللہ میں گذشتہ امام کی اولاد میں سے جو بھی تیری محبت باقی ہے اس سے تمسک اختیار کرتا ہوں) پس یہ تمہارے لئے کافی ہوگا۔

۲۴۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے ان سے عبداللہ بن جعفر حمیری نے ان سے ایوب بن نوح نے ان سے محمد بن ابی عمیر نے ان سے جمیل بن دراج نے ان سے زرارہ نے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں

پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب ان سے ان کا امام پوشیدہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا: اس وقت کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ فرمایا: اپنے عقیدے پر قائم رہیں یہاں تک کہ ان کے لئے حق ظاہر ہو جائے۔

۳۵۔ بیان کیا مجھ سے مظفر بن جعفر بن مظفر علوی سمرقندی نے ان سے جعفر بن محمد بن مسعود نے ان سے ابو محمد بن مسعود نے ان سے احمد بن علی بن کلثوم نے ان سے حسن بن علی دقاق نے ان سے محمد بن احمد بن ابی قتادہ نے ان سے احمد بن ہلال نے ان سے ابن ابی عمیر نے ان سے سعید بن عزوان نے ان سے ابو بصیر نے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد نو ائمہ ہیں ان کا دسواں امام قائم ہے۔

۳۶۔ بیان کیا مجھ سے مظفر بن جعفر بن مظفر علوی نے ان سے جعفر بن محمد بن مسعود نے ان سے ان کے والد محمد بن مسعود عیاشی نے ان سے علی بن محمد بن شجاع نے ان سے محمد بن عیسیٰ نے ان سے یونس نے ان سے علی بن ابی حمزہ نے ان سے ابو بصیر نے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ صاحب امر کے لئے انبیاء کی ساتیوں ہیں۔ ان کے لئے موسیٰ بن عمران، عیسیٰ، یوسف علیہم السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ پس موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی طرح ان کے لئے خوف اور غیبت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ان کے لئے بھی وہ کہا جائے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح اللہ ان کے اور خالق کے درمیان قباب ڈال دے گا۔ لوگ انہیں دیکھیں گے مگر پہچان نہ سکیں گے۔ اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں گے۔

۳۷۔ انہی اسناد کے ساتھ محمد بن مسعود سے مروی ہے کہ ان سے جبرئیل بن احمد نے بیان کیا ان سے موسیٰ بن جعفر بن وہب بغدادی نے ان سے محمد بن عیسیٰ نے ان سے حسین بن سعید نے ان سے قاسم بن محمد نے ان سے ابان نے ان سے حارث بن مغیرہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا لوگوں پر ایسا بھی وقت آئے گا کہ وہ اپنے امام کو نہ پہچان سکیں گے؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ میں نے عرض کیا: پھر ایسے وقت لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ فرمایا: اپنے عقیدے پر قائم رہنا چاہیے یہاں تک کہ ان کے لئے امر حق ظاہر کر دیا جائے۔

۳۸۔ انہی اسناد کے ساتھ موسیٰ بن جعفر سے مروی ہے کہ ان سے موسیٰ بن قاسم نے بیان کیا ان سے علی بن جعفر نے ان سے موسیٰ بن جعفر نے بیان کیا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت **قل اراء یتیم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین** (سورۃ ملک آیت ۳۰) کہو کہ اگر صبح کو تمہارا پانی خشک ہو جائے تو تمہارے پاس تمہارا پانی کون لائے گا؟ کے بارے میں فرمایا: کیا تم دیکھتے ہو کہ اگر تمہارا امام تم سے غائب ہو جائے تو کون ہے جو تمہارے لئے نیا امام لائے؟

۳۹۔ انہی اسناد کے ساتھ موسیٰ بن جعفر بن وہب بغدادی نے بیان کیا ان سے حسن بن محمد صیرفی نے ان سے

یحییٰ بن شئی عطار نے ان سے عبداللہ بن بکیر نے ان سے عسید بن زرارہ نے بیان کیا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں سے ان کا امام پوشیدہ ہو جائے گا اور اس کی علامات اس کے وجود کی گواہی دیں گی۔ پس وہ لوگوں کو دیکھے گا مگر لوگ اسے نہیں دیکھ سکیں گے۔

۵۰۔ انہی اسناد کے ساتھ محمد بن مسعود سے مروی ہے ان کو جبرئیل بن احمد کے خط سے معلوم ہوا ان سے عسیدی محمد بن عسینی نے بیان کیا ان سے یونس بن عبدالرحمن نے ان سے عبداللہ بن سنان نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا عتقرب تم لوگ شبہ کا شکار ہو جاؤ گے اور حق کی نشانی کو نہیں دیکھ پاؤ گے اور نہ ہی ہدایت کرنے والا امام ظاہر ہوگا۔ ایسے میں شبہ سے نجات نہیں پائے گا مگر وہ جو دعائے عزق پڑھتا رہے گا۔ میں نے عرض کیا: مولا دعا عزق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: **يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ** (اے اللہ۔ اے رحمن۔ اے رحیم۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، پھیر دے میرے دل کو اپنے دین کی طرف) میں نے اس دعا کو اس طرح پڑھا: **يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ وَالْاَبْصَارِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ** (اے اللہ۔ اے رحمن۔ اے رحیم۔ اے دلوں اور نظر کے پھیرنے والے، پھیر دے میرے دل کو اپنے دین کی طرف) آپ نے فرمایا بے شک اللہ **مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ وَالْاَبْصَارِ** ہے مگر تم اسی طرح پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں۔ **يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ**۔

۵۱۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن علی بن حاتم نوفلی المعروف بہ کرمانی نے ان سے ابو العباس احمد بن عسبی و شاء بغدادی نے ان سے احمد بن طاہر (قمی) نے ان سے محمد بن بحر بن سہل شیبانی نے ان سے علی بن حارث نے ان سے سعید بن منصور جو اشنی نے ان سے احمد بن علی بدیلی نے ان سے ان کے والد نے ان سے سعید صیرفی نے بیان کیا کہ میں، مشفق بن عمر، ابو بصیر اور ابان بن تغلب اپنے آقا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ خاک پر تشریف فرما ہیں، بالوں والی خیر بن چادر اولٹھے ہوئے، گریبان بستہ اور کوتاہ آستین۔ درحالیکہ آپ اس طرح گریہ فرما رہے تھے گویا ایک اکلوتے بیٹے کی ماں اپنے قتل جگر کی لاش پر رو رہی ہو۔ غم و اندوہ کے آثار آپ کے چہرہ مبارک سے عیاں ہو رہے تھے اور اس کے اثرات آپ کے رخساروں پر چھائے ہوئے تھے، آنسوؤں نے آپ کے آنکھوں کے حلقوں کو تر کیا ہوا تھا اور آپ فرما رہے تھے: اے میرے آقا آپ کی غیبت نے میری نیند حرام کر دی ہے، مجھ پر زمین سنگ کردی ہے، مجھ سے قرار دل چھین لیا ہے، اور میرے غم و اندوہ کو ابدی بنادیا ہے۔ ایک کے بعد دوسرے کا فقدان ہماری جمعیت اور تعداد کو کم کر رہا ہے۔ پس کوئی ایسے آنسو نہیں جو میری آنکھوں سے ٹپکیں یا آہ و فریاد میرے سینے سے بلند ہو مگر یہ کہ اس کے اسباب سے زیادہ سخت مصائب اور سختیاں جھیلنا پڑتی ہیں اور یہ کہ میری آنکھوں کے سامنے وہ مستقبل اور آنے والا دور ہے جس میں تم ان تمام مظالم کا انتقام لو گے اور دشمنوں پر تمہارے

غضب کی تلواریں چلیں گی۔

سدر کہتے ہیں کہ امام کی یہ حالت دیکھ کر ہم پریشان ہو گئے اور آپ کے بین سن کر ہمارے دل پگھلنے لگے اور ہم نے سمجھا کہ شاید آپ کے ساتھ کوئی دگرگشاؤں واقعہ پیش آیا ہے یا زمانے کے کسی ناگوار حادثے نے آپ کو پریشان کر دیا ہے۔ ہم نے عرض کیا: اے بہترین مخلوق کے فرزند خدا آپ کو کبھی نہ رلائے کس حادثہ کی وجہ سے آپ کے آنسو ٹپک رہے ہیں اور آپ شدید گریہ فرما رہے ہیں اور کس وجہ سے آپ یوں غم زدہ ہیں۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک سرد آہ بھری اور فرمایا: تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ آج میں نے کتاب جعفر کا مطالعہ کیا یہ وہ کتاب ہے جو موت، آزمائش اور مصیبت پر مشتمل ہے اس میں قیامت تک کے ہونے والے تمام حالات کا تذکرہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد آنے والے ائمہ سے مخصوص کئے ہیں۔ اس میں، میں نے ان حالات کا مطالعہ کیا جو ہمارے قائم کے سلسلے میں وقوع پذیر ہوں گے اور جو ان کی غیبت اور ان کے طویل عمر میں وقوع پذیر ہوں گے۔ اور اس زمانے میں مومنین پر مصائب نازل ہوں گے اور لوگوں کے دلوں میں غیبت کے طویل ہونے کی بناء پر شکوک پیدا ہوں گے۔ یہاں تک کہ اکثر لوگ اپنے دین سے منحرف ہو جائیں گے۔ اور اسلام یعنی ولایت کے طوق کو اپنے گے سے اتار دیں گے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر واجب کیا و کل انسان الزمانہ طئیر لا فی عنقہ (سورۃ بنی اسرائیل آیت ۱۳) "ہر انسان کا عمل ہم نے اس کے گے کا ہار کر دیا ہے۔" پس اس بات نے مجھے مضطرب کر دیا۔ ہم نے کہا: فرزند رسول آپ نے جو کچھ مطالعہ فرمایا اس میں سے کچھ ہمیں بھی عطا فرمائیں۔

آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ہمارے قائم کے لئے اپنے تین انبیاء کی خصوصیات عطا کی ہیں۔ اس کی ولادت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت جیسی۔ اس کی غیبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیبت جیسی۔ اس کے ظہور میں تاخیر حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی تاخیر جیسی اور اس کے بعد عبود صالح کی عمر عطا کی یعنی حضرت علیہ السلام کی عمر۔ ہم نے عرض کیا: مولا کچھ وضاحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا: ولادت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشبیہ اس طرح ہے کہ جب فرعون نے کانٹوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ پس ان لوگوں نے اس کو ان کے نسب سے آگاہ کر دیا اور یہ بتایا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں گے اور اس کی سلطنت بنو اسرائیل میں پیدا ہونے والے بچے کے ہاتھوں زائل ہو جائے گی تو فرعون نے حکم دیا کہ بنو اسرائیل کی تمام حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچے قتل کر دیئے جائیں۔ یہاں تک کہ بیس ہزار سے زائد بچے قتل کر دیئے گئے مگر پھر بھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ پاسکا اور اللہ نے فرعون کے ہاتھوں سے جناب موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ اسی طرح بنو امیہ اور بنو عباس یہ جانتے ہیں کہ ان کی حکومت اور تمام قائلوں کی حکومت ہمارے قائم کے ہاتھوں ختم ہو جائے گی اس لئے وہ ہماری عداوت میں بڑھ گئے ہیں۔ اور اپنی تلواروں

کو آل رسول کے قتل کے لئے تیار رکھتے ہیں۔ تاکہ نسلِ رسول کو ختم کر دیں اور قائم (علیہ السلام) نہ آسکے مگر اللہ اپنے فیصلے کو ہر ایک ظالم پر ظاہر کرے گا اور اپنے نور کو قائم کرے گا اگرچہ کہ مشرکین کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔

غیبت عیسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ اس طرح ہے کہ یہود و نصاریٰ کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیئے گئے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کی تردید ان الفاظ میں کی وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم (سورۃ نسا، آیت ۱۵۷)۔ اور انہوں نے نہ اس کو مارا اور نہ سولی پر چڑھایا لیکن (ایک شخص) ان کی صورت بنا دیا گیا۔ اسی طرح ہمارے قائم کی غیبت واقع ہوگی کچھ لوگ طول غیبت کی وجہ سے ان کے وجود کا ہی انکار کر دیں گے اور جو قاتل ہوں گے وہ کہیں گے کہ وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے اور کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ امامت تیرہ یا اس سے زیادہ تک جائے گی اور کچھ لوگ یہ کہہ کر اللہ کے گناہ گار ہوں گے کہ امام عمر کی روح کسی اور کے بدن میں حلول کر کے گھسکو کرے گی۔

حضرت نوح علیہ السلام سے شبہات اس طرح ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے خدا سے اپنی قوم کے لئے عذاب طلب کیا تو خدا نے روح الامین کو سات دانہ خرما کے ساتھ بھیجا انہوں نے آکر کہا اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ میرے پیدا کئے ہوئے اور سب میرے بندے ہیں۔ میں ان کو اپنے برقی غضب سے ہلاک نہ کروں گا جب تک کہ تاکید کے ساتھ ان کو دعوت حق نہ دی جائے، اور ان پر رحمت پوری طرح تمام نہ ہو جائے۔ لہذا اپنی قوم کی ہدایت کی کوشش میں مشقت و تکلیف برداشت کرنے کے لئے پھر مشغول ہو جاؤ جس کی وجہ سے میں تم کو ثواب عطا کروں گا۔ ان فرموں کو بوؤ۔ جب یہ آگیں اور بڑے ہو کر بار آور ہوں اس وقت یقیناً جہاری اور جہاری قوم کی نجات اور رہائی ہوگی۔ اس بات سے مومنین کو بھی آگاہ کر دو جو تمہارے فرمانبردار ہیں۔

غرض جب ایک زمانہ کے بعد درخت آگے بڑھے اور ان میں پھل اور پختہ ہو گئے تو نوح نے خدا سے دعا کی کہ اپنے وعدے کو وفا کرے۔ خدا نے حکم دیا کہ ان درختوں کے فرموں کے بیج دوسری مرتبہ پھر بوئیں اور اپنی قوم پر تبلیغ رسالت میں کوشش، تاکید اور تکلیفوں پر صبر کرنے میں پھر مشغول ہوں۔ یہ خبر حضرت نوح نے مومنوں کو پہنچائی تو ان میں سے تین سو اشخاص مرتد ہو گئے اور کہنے لگے کہ نوح جو کچھ دعویٰ کرتے تھے اگر وہ حق ہوتا تو ان کے پروردگار کا وعدہ غلط نہ ہوتا۔

اسی طرح ہر مرتبہ جب درختوں میں پھل پیدا ہوتے تھے حق تعالیٰ ان کو حکم دیتا تھا کہ ان کے بیج بوئیں یہاں تک کہ سات مرتبہ ایسا ہوا اور ہر مرتبہ ان میں سے ایک گروہ جو ایمان لانے ہوئے تھا، مرتد ہو جاتا تھا۔ آخر میں صرف ستر اور پندرہ اشخاص باقی رہ گئے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اب حق کو نورانی صبح باطل کی تاریکی رات سے ظاہر ہوئی اور خالص حق رہ گیا اور اس سے غبار کفر ان لوگوں کے مرتد ہونے سے

جن کی طبیعتیں خبیث تھیں دفع ہو گیا اگر میں کافروں کو ہلاک کر دیتا اور ان لوگوں کو جو مرتد ہو گئے چھوڑ دیتا تو یقیناً وہ وعدہ سابق بچ نہ ہوتا جو میں نے ان مومنین سے کیا تھا جو جہادی قوم سے مجھ پر خالص طور سے ایمان لائے تھے اور انہوں نے جہادی نبوت کی رسی کو پکڑا تھا۔ وہ وعدہ یہ تھا کہ ان کو زمین میں خلیفہ قرار دوں گا۔ ان کے لئے ان کے دین کو برقرار رکھوں گا اور خوف کو امن سے تبدیل کر دوں گا تاکہ ان کے دلوں سے شک برطرف ہو اور میرے لئے خالص عبادت ہو لہذا ان کی موجودگی میں کیونکر خلیفہ قرار دیتا۔ اور صاحب مرتبہ کرتا اور ان کے خوف کو امن سے بدل دیتا جب کہ میں مرتدین کے یقین کی کمزوری، ان کی طبیعتوں کی خباثیوں اور ان کے نیتوں کی خرابیوں سے واقف تھا جو نفاق اور گمراہ سوچ کا نتیجہ تھیں۔ وہ جماعت اس بادشاہی کی مجھ سے تیار کھتی تھی تو میں مومنوں کو خلافت کے دور ان عطا کرنے والا ہوں۔ جب ان کے دشمنوں کو ہلاک کروں گا تو وہ لوگ ان کی صفات کی نشانیوں کو دیکھ لیں گے۔ اور یقیناً اس خلافت کی وہ لوگ طمع کرتے اور ان کا پوشیدہ نفاق مضبوط ہوتا اور اس بارے میں ان کے دلوں میں گمراہی اور ضلالت مستحکم ہوتی اور وہ خالص مومنوں سے عداوت کا اظہار کرتے اور سرداری حاصل کرنے کے لئے ان سے جھگڑتے اور امر و نہی سے انحراف کے لئے ان لوگوں سے جنگ و جدال کرتے۔ پھر دین کا قیام عمل میں نہ آتا اور مومنوں کے درمیان ان لڑائیوں اور فتنوں کے سبب دین حق منتشر ہوتا۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے نوع کو حکم دیا کہ کشتی تیار کریں۔

پھر امام علیہ السلام نے فرمایا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے قائم کی غیبت کے عرصہ کو طویل کر دے گا تاکہ حق واضح ہو جائے، ایمان ارتداد کی کدورت سے خالص ہو جائے اور وہ جن کی طبیعت خبیث ہے وہ ہمارے مخلص شیعوں سے جدا ہو جائیں جو ان کے نفاق سے ڈرتے ہیں تاکہ قائم علیہ السلام کے دور میں مخلص شیعوں کو خلافت، غلبہ اور امن میرا آئے۔

مفصل کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا فرزند رسول اس آیت و عدالۃ الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضیٰ لہم ولیبید لہم من بعد خوفہم امانا یعبدونی لایشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاوٰ لیک ہم الفدقون (سورہ نور آیت ۵۵) "ان سب لوگوں میں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کئے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ضرور ان لوگوں کو اس زمین میں جانشین بنانے کا جیسا کہ ان سے پہلوں کو جانشین بنایا تھا اور ضرور ان کے دین کو جو اس نے ان کے لئے پسند کر لیا ہے ان کی خاطر سے پامیدار کر دے گا اور ضرور ان کے خوف کو ان سے بدل دے گا۔ اس وقت وہ میری ہی عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اور: اس کے بعد ناشکری کرے گا پس وہی نافرمان ہیں۔" کے بارے

میں ناصبیوں کا کہنا ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ناصبیوں کے دلوں کو نورِ ہدایت سے منور نہ کرے۔ اس امت میں وہ دین جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو انتشار سے کب پائیدار ہوا؟ اور ان میں سے کسی ایک کے دور میں امت کے دلوں سے خوف دور اور شکوک رفع ہوتے؟ حضرت علی علیہ السلام کا عہد حکومت تو فتنوں سے پر اور ارتداد مسلمین سے بھرا ہوا تھا اور کفار اور ان کے درمیان گھسان کی لڑائیاں ہوتی رہیں پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی حتیٰ اذا استنسیس الرسل و ظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا (سورۃ یوسف آیت ۱۳) "مہاں تک کہ جب ناصب ہونے لگے رسول اور خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا تو پہنچی ان کو ہماری مدد۔"

اور جہاں تک عبد الصالح حضرت خضر علیہ السلام سے شبہات کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر کو کار نبوت کے باعث طویل نہیں کیا اور نہ ہی اس لئے کہ ان پر کتاب نازل کر دی تھی۔ یہی شریعت کے نزول کے باعث کہ جسے اپنے سے قبل کے انبیاء کی شریعتوں کو مشورخ کرنا تھا اور نہ ہی امامت کے باعث جس کی اقتداء اور اطاعت لوگوں پر لازم تھی بلکہ اللہ کے علم میں تھا کہ حضرت قائم علیہ السلام کی طویل غیبت واقع ہوتی ہے اور لوگ ان کی غیبت کا طول عمر کے باعث انکار کریں گے اس لئے اللہ تعالیٰ نے عبد صالح (حضرت خضر علیہ السلام) کو طویل عمر عطا فرمائی تاکہ وہ حضرت قائم علیہ السلام کی عمر کے لئے دلیل بنے اور معاندین کے لئے حجت قاطع ہو۔ اور انسانوں کی اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت قائم نہ ہو۔

۵۲ - بیان کیا مجھ سے مظفر بن جعفر بن مظفر علوی سمرقندی نے ان سے محمد بن جعفر بن مسعود اور حیدر بن محمد بن نعیم سمرقندی نے ان دونوں سے محمد مسعود عیاشی نے ان سے علی بن محمد بن شجاع نے ان سے محمد بن عیسیٰ نے ان سے یونس بن عبدالرحمن نے ان سے علی بن ابو حمزہ نے ان سے ابو بصیر نے بیان کیا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفساً ایما نہا لم تکن امننت من قبل او کسبت فی ایما نہا خیراً (سورۃ النعام آیت ۱۵۹) "جس دن آئے گی ایک نطفائی تیرے رب کی کام نہ آئے گا کسی کے اس کا ایمان لانا جو کہ پہلے سے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان کی حالت میں کچھ نیکی نہ کی تھی" کے بارے میں ارشاد فرمایا: اس سے مراد ہمارے قائم کا خروج ہے۔ پھر فرمایا: اے ابو بصیر طوبیٰ ہے ہمارے شیعوں کے لئے جو ہمارے قائم کی غیبت میں اس کے ظہور کے منتظر ہوں گے اور ظہور کے وقت اس کے مطیع ہوں گے یہ ہی اولیاء اللہ ہیں جن کے اور نہ خوف ہوگا نہ حزن۔

۵۳ - بیان کیا مجھ سے مظفر بن جعفر بن مظفر علوی سمرقندی نے ان سے جعفر بن محمد بن مسعود نے ان سے محمد بن مسعود عیاشی نے ان سے جعفر بن احمد نے ان سے عمر کی بن علی بوئگی نے ان سے حسن بن علی بن فضال نے ان

سے مروان بن مسلم نے ان سے ابو بصیر نے بیان کیا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: طوطی ہے اس کے لئے جس نے فہیت قائم کے بارے میں ہمارے امر سے تمسک اختیار کیا اور ہدایت کے بعد اس کا دل منتقل نہ ہوا۔ میں نے عرض کیا: میں آپ پر قربان مولا طوطی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ جنت میں ایک درخت ہے جس کی جڑ حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں ہے اور ہر مومن کے گھر میں اس کی شاخیں ہیں اور اسی طرح قول خدا بھی ہے۔ طوطی لہم و حسن صاب (سورۃ رعد آیت ۲۹) خوشامی ہے ان کے لئے اور اچھا ٹھکانہ۔

۵۳۔ بیان کیا مجھ سے علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق نے ان سے محمد بن ابو عبد اللہ کوئی نے ان سے موسیٰ بن عمران نطنعی نے ان سے ابو بصیر نے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا: اے فرزند رسول میں نے آپ کے والد سے یہ حدیث سنی ہے کہ قائم کے بعد بارہ مہدی ہوں گے۔ آپ نے فرمایا انہوں نے کہا تھا کہ بارہ مہدی ہوں گے۔ یہ نہیں کہا تھا کہ امام ہوں گے بلکہ یہ ہمارے شیعوں میں وہ قوم ہوگی جو لوگوں کو ہماری ولایت اور ہمارے حق کی معرفت کی طرف بلائے گی۔

۵۵۔ بیان کیا مجھ سے علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق نے ان سے حمزہ بن قاسم علوی عباسی نے ان سے جعفر بن محمد بن مالک کوئی فراری نے ان سے محمد بن حسین بن زید الزیات نے ان سے محمد بن زیاد ازدی نے ان سے مفصل بن عمر نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کلمات کیا تھے؟ واذا بتلی ابراہیم ربه بكلمات فاتمهن (سورہ بقرہ آیت ۱۲۳) اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں پھر اس نے وہ پوری کیں: آپ نے فرمایا: ان کلمات سے مراد وہی کلمات ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے حاصل کئے تھے اور ان کی توبہ قبول ہوئی تھی اور وہ کلمات یہ ہیں۔ اَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَعَلِيِّ وَفَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ اَلَا تُبَيِّنُ عَلَيَّ؟ میں جو سے سوال کرتا ہوں بحق محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین کہ میری توبہ قبول کر۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور وہ تو اب الرحیم ہے میں نے عرض کیا: اے فرزند رسول "فاتمهن" سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے جو نواسہ ہیں ان کو ملا کہ حضرت قائم علیہ السلام تک کل بارہ ائمہ پورے کہتے۔

مفصل کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا فرزند رسول مجھے اس آیت کے بارے میں کچھ بتائیے وجعلها كلمة

(۱) حمزہ بن قاسم، ابو الفضل العباس بن علی بن ابی طالب علیہم السلام کے پوتوں میں ہیں۔ حنف میں شہید ہوئے۔ ہمارے علماء میں جلیل القدر ہیں اور ان سے کثیر روایات مروی ہیں۔ (علی اکبر عطاری)

باقیۃ فی عقبہ (سورہ زعفر آیت ۲۸) * اور یہی بات بھیچے جھوڑ گیا اپنی اولاد میں * آپ نے فرمایا: امامت امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں تاقیامت باقی رہے گی۔ میں نے عرض کیا: فرزند رسول ایسا کیوں ہے کہ امامت کو امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں قرار دیا اور امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں قرار نہیں دیا جبکہ یہ دونوں فرزند رسول تھے اور جو انان جنت کے سردار؟ آپ نے فرمایا: حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں نبی اور رسول اور بھائی تھے مگر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو صلب ہارون میں قرار دیا اور صلب موسیٰ میں نہیں۔ اور کسی نے بھی نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا۔ امامت زمین پر اللہ تعالیٰ کی خلافت کا نام ہے اور کسی کے لئے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ یہ کہے کہ اللہ نے صلب حسن علیہ السلام کے بجائے صلب حسین میں کیوں قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں حکمت ہے لا یسئل عما یفعل وہم یسئلون (سورہ انبیاء آیت ۲۳) * اس کے کاموں کی ہامت سوال نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں وہ بندوں کے افعال کے بارے میں پوچھے گا۔ *

باب (۳۴) حضرت قائم علیہ السلام، ان کی غیبت اور ان کی امامت کے بارے میں

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ارشادات

۱۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد اور محمد بن حسن نے ان سے سعد بن عبد اللہ نے ان سے حسن بن عیسیٰ بن محمد بن علی بن جعفر نے ان سے ان کے والد نے ان سے ان کے جد محمد بن علی نے ان سے علی بن جعفر نے ان سے ان کے بھائی موسیٰ بن جعفر نے ارشاد فرمایا: جب ساتویں کی اولاد میں پانچواں غیبت اختیار کرے تو خدا کے لئے تم لوگ اپنے دین کی حفاظت کرنا تم میں سے کوئی اپنے دین سے برگشتہ نہ ہو جائے۔ اے فرزند (بھائی) کو محبت سے فرزند کہا ہے) اس صاحب امر کے لئے غیبت ضروری ہے یہاں تک کہ وہ لوگ بھی اس سے پلٹ جائیں گے جو یہ کہا کرتے ہوں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اس نے اپنے بندوں کا استمان لیا ہے۔ اور جہارے آباد اجداد کے علم میں کوئی اور دین ہوتا جو اس سے زیادہ صحیح اور بہتر ہوتا تو وہ اس کی پیروی کرتے۔ میں نے عرض کیا: مولا یہ بتائیں کہ ساتویں کی اولاد میں پانچواں کون ہے؟ فرمایا: اے فرزند ہماری عقلیں چھوٹی ہیں یہ اس میں نہیں سما سکتی۔ جہاری مجھ (حق) تنگ ہے کہ اس کو برواشت نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر تم لوگ زندہ رہے تو ضرور اس کو پاؤ گے۔

۲۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے ان سے سعد بن عبد اللہ نے ان سے حسن بن موسیٰ غطاسب نے ان سے عباس بن عامر قصبانی نے کہا کہ حضرت ابوالحسن موسیٰ بن جعفر نے فرمایا کہ صاحب امر (علیہ السلام) کے بارے میں لوگ کہیں گے کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوئے۔

۳۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے ان سے سعد بن عبداللہ نے ان سے احمد بن محمد بن عیسیٰ نے ان سے موسیٰ بن قاسم نے ان سے معاویہ بن وصب بعلی اور ابو قتادہ علی بن محمد بن حفص نے ان سے علی بن جعفر نے انہوں نے اپنے بھائی موسیٰ بن جعفر سے اس آیت کے بارے میں پوچھا قل اراء یتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یتقیکم بماء صعبین (سورۃ الملک آیت ۳۰) کہہ دو بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی خشک ہو جائے پھر کون ہے جو لائے تمہارے پاس تھرا ہوا پانی۔ تو آپ نے فرمایا جب تمہارا امام غائب ہو جائے گا تو اس کو دیکھ نہ پاؤ گے پھر کیا کرو گے؟

۴۔ بیان کیا مجھ سے احمد بن زیاد بن جعفر ہمدانی نے بیان کیا ان سے علی بن ابراہیم بن ہاشم نے ان سے ان کے والد نے ان سے محمد بن برقی نے ان سے علی بن حسان نے ان سے داؤد بن کثیر رقی نے کہ میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے صاحب امر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا وہ دشمنوں کے خوف سے پوشیدہ اور لپٹے اہل سے غائب رہے گا اور لپٹے شہید باپ کا وارث ہوگا۔

۵۔ بیان کیا مجھ سے احمد بن زیاد بن جعفر ہمدانی نے ان سے علی بن ابراہیم بن ہاشم نے ان سے ان کے والد نے ان سے صالح بن سندی نے ان سے یونس بن عبدالرحمن نے کہ میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: اے فرزند رسول کیا آپ قائم باقی ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں ضرور قائم باقی ہوں۔ لیکن وہ قائم جو زمین کو خدا کے دشمنوں سے پاک کرے گا اور عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی وہ میری اولاد میں سے پانچواں ہے۔ اس کے لئے غیبت ہے جو اتنی طویل ہوگی کہ کئی قومیں مرتد ہو جائیں گی۔ اور کچھ لوگ دین پر ثابت قدم رہیں گے۔

پھر فرمایا: ہمارے شیعوں کے لئے طوبیٰ ہے جو ہمارے قائم کی غیبت میں ہم سے مستحکم رہیں اور ہماری ولایت پر ثابت قدم رہیں اور ہمارے دشمنوں سے بیزار رہیں وہ ہم سے ہیں اور ہم ان سے۔ ان سے ائمہ راضی اور وہ ائمہ سے راضی ہیں۔ پس ان کے لئے طوبیٰ اور پھر طوبیٰ ہے خدا کی قسم وہ ہمارے ساتھ قیامت کے روز ہمارے درجے میں ہوں گے۔

مؤلف کتاب عرض کرتا ہے کہ غیبت کے واقع ہونے کی ایک وجہ خوف بھی ہے جیسا کہ حدیث میں تذکرہ ہوا ہے۔ خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی اپنے امور امامت کو غیروں کے سامنے ظاہر نہیں فرماتے تھے اور شیعہ جو آپ کی امامت پر متفق تھے مگر زمانے کے خوف سے آپ کی امامت کا چرچا نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ہشام بن حکم سے جب یحییٰ بن خالد کے دربار میں پوچھا گیا کہ اس وقت امام کون ہے؟ تو انہوں نے تقیہ اختیار کرتے ہوئے فرمایا صاحب قصر امیر المؤمنین ہارون الرشید۔ اس وقت ہارون رشید چھپا ہوا یہ گفتگو سن رہا تھا پس کہا: خدا کی قسم اللہ نے ہم پر سخت

دل حاکم مسلط کر دیا ہے۔ جب ہشام کو اس کا علم ہوا کہ ہارون نے اس کو طلب کیا ہے تو وہ کوفہ فرار ہو گئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کا جنازہ کناسہ کی شاہراہ پر رکھ دیا گیا اور ہاتھ میں ایک پرچہ رکھ دیا گیا جس پر لکھا تھا یہ ہشام بن حکم ہے جس کو حاکم وقت نے طلب کیا ہے۔ قاضی اور حکومت کے دیگر اہل کاروں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد اس سرکش نے ان کا بیچھا کرنا چھوڑ دیا۔

ہشام بن ابراہیم کا - ناظم

بیان کیا مجھ سے احمد بن زیاد ہمدانی اور حسین بن ابراہیم بن نائف نے ان سے علی بن ابراہیم بن ہشام نے ان سے ان کے والد نے ان سے محمد بن ابو عمیر نے ان سے علی سواری نے بیان کیا کہ یحییٰ بن خالد ہفتہ میں ایک دن اپنے گھر ایک محفل مناظرہ کا اہتمام کیا کرتا تھا جس میں تمام فرقوں اور ملت کے علماء شرکت کرتے اپنے اپنے مذہب کا اثبات کرتے اور مخالف کا رد پیش کرتے تھے۔ یہ خیر ہارون رشید تک پہنچی تو اس نے یحییٰ بن خالد سے پوچھا کہ اے عباسی تیرے گھر میں یہ کس قسم کی محفل ہوتی ہے جس میں شریک ہونے والے گفتگو کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا: اے امیر المؤمنین جو کچھ عزت و مقام اور بلندی آپ نے مجھے عطا کی ہے۔ اس میں سے یہ محفل سب سے زیادہ رفعت اور بلندی کا نمونہ ہے میں تمام مذاہب کے لوگوں کو جمع کرتا ہوں تاکہ وہ ایک دوسرے کی رد پیش کریں اور اس طرح ان سب کے مذہب کا بطلان ثابت ہو۔

ہارون رشید نے کہا میں بھی اس محفل میں شریک ہونا چاہوں گا اور اس مناظرے کو سنوں گا مگر حاضرین مجلس کو میری آمد کا علم نہیں ہونا چاہیے ورنہ میرے خوف سے لوگ کھل کر بات نہیں کر سکیں گے۔ یحییٰ نے کہا: جیسا امیر المؤمنین چاہیں گے ویسے ہی انتظامات ہو جائیں گے (ہارون رشید نے کہا) ایسے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھو کہ ان لوگوں کو میری موجودگی کا علم نہیں ہوگا چنانچہ اس نے ایسا کیا۔ اس بات کی خبر کسی طرح معتزلہ کو ہو گئی پس انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کی مرتبہ ہم ہشام بن حکم سے امامت کے موضوع پر بات کریں گے تاکہ ہارون رشید کو اس کا علم ہو جائے کہ اس کا عقیدہ امامت کیا ہے۔ پس مقررہ دن سب لوگ جمع ہوئے جن میں ہشام بن حکم بھی تھے اور عبداللہ بن یزید اباضی بھی جو سب سے زیادہ بچ بولنے والا تھا، خوارج کے مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور ہشام کے ساتھ تجارت میں شریک تھا۔ جب ہشام محفل میں آئے تو انہوں نے عبداللہ بن یزید کو سلام کیا یحییٰ بن خالد بن عبداللہ نے عبداللہ بن یزید سے کہا اے عبداللہ ہشام سے امامت کے موضوع پر بات کرو۔

ہشام نے کہا اے وزیر یہ اس موضوع پر بات نہیں کر سکتے کیونکہ یہ لوگ ایک فرد کی امامت پر ہمارے ساتھ متفق تھے پھر بغیر علم و معرفت کے یہ ہم سے جدا ہو گئے اور جب وہ اس مسئلے میں ہم سے جدا ہو گئے تب بھی نہ جان سکے کہ کس لئے جدا ہوئے ہیں۔ اس لئے ان کے پاس ہمارے خلاف نہ کوئی اعتراض ہے نہ کسی اعتراض کا جواب اب یہ ہم

سے کیا بات کریں گے۔

بنان جو حروریہ فرقہ سے تعلق رکھتا تھا کہنے لگا: اے ہشام یہ بتاؤ حکمین کے دن جو لوگ حضرت علی علیہ السلام کی فوج میں تھے وہ مومن تھے یا کافر۔ کہا: اس میں تین طرح کے لوگ تھے۔ مومن، مشرک اور گمراہ۔ مومن وہ تھے جو کہتے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام اللہ کی طرف سے امام ہیں۔ اور معاویہ امامت کا اہل نہیں۔ پس وہ اس بات پر ایمان لائے جو اللہ نے علی علیہ السلام کے لئے مقرر کی۔

دوسرے مشرک جن کا کہنا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام امام ہیں اور معاویہ میں بھی امامت کی اہلیت ہے۔ پس انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ معاویہ کو بھی امامت میں شریک قرار دیا۔ تیسرے گمراہ جو اپنے قوم و قبائل کی عصیبت کے باعث ساتھ ہوئے تھے اور انہیں کسی بات کا علم نہیں تھا اور یہ لوگ جاہل تھے۔

پھر سوال کیا کہ معاویہ کے اصحاب کے بارے میں کیا رائے ہے ہشام نے کہا: ان کی بھی تین قسمیں ہیں کافر، مشرک اور ضلال۔

کافر وہ جو کہتے ہیں کہ معاویہ امام ہے اور علی علیہ السلام میں امامت کی اہلیت نہیں ہے۔ پس انہوں نے دو طرح سے کفر کیا ایک کفر اللہ کی طرف سے علی کے لئے مقررہ امامت کا انکار کر کے اور دوسرے اپنی جانب سے کسی فرد کا امامت کے لئے تقرر کر کے۔

مشرک وہ جو کہتے تھے کہ معاویہ امام ہے اور علی علیہ السلام میں بھی امامت کی اہلیت ہے۔ پس انہوں نے معاویہ کو علی کے ساتھ امامت میں شریک قرار دیا۔

اور ضلال یا گمراہ وہ افراد جو محض اپنی خاندانی عصیبت کے باعث معاویہ کے ساتھ جنگ کے لئے نکلے تھے پس اس طرح بنان (کا کلام) قطع ہوا۔

ضرار بولا: ہشام مجھے اس بارے میں تم سے سوال کرنا ہے۔ ہشام نے کہا: تم سوال نہیں کر سکتے۔ پوچھا: کیوں؟ کہا: اس لئے کہ تم سب میرے صاحب کی امامت کا انکار کرتے ہو تو وجہ انکار مجھے پوچھنی چاہیے اور تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ دوسرا سوال کرو اور مجھے اے ضرار اس بارے میں تمہارے مذہب کا کلمہ نظر معلوم کرنا چاہیے۔ ضرار نے کہا: پوچھو۔ کہا: کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عادل ہے، ظلم نہیں کرتا۔ کہا: ہاں وہ عادل ہے اور ظلم نہیں کرتا۔ کہا: اگر اللہ کسی معذور کو مسجد جانے اور جہاد کرنے کا حکم دے۔ کسی اندھے کو صحیفے اور کتابیں پڑھنے کا حکم دے تو کیا یہ عدل ہو گا یا ظلم؟ ضرار بولا: اللہ ایسا حکم نہیں دیتا۔ ہشام بولے: یہ جان لینے کے بعد کہ اللہ اس طرح حکم نہیں دیتا تو کیا مباحثہ و مناظرہ کے سلسلے میں یہ حکم دے سکتا ہے کہ ایسی چیز کو ثابت کیا جائے جس کے اثبات اور ادائیگی کی کوئی دلیل و حجت

نہ ہو۔ ضرار بولا: اگر ایسا حکم دے گا تو وہ ظالم کہلانے گا۔

ہشام بولے: مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ نے تمام بندوں کو ایک دین پر مکلف کیا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان سے صرف وہی دین قابل قبول ہوگا جس پر ان کو مکلف کیا ہوگا۔ اس نے کہا: نہیں۔ ایسا ہی ہے۔ فرمایا: اس دین کے وجود کے لئے کوئی دلیل بھی مقرر کی یا بغیر دلیل کے ہی مکلف کر دیا۔ اسی طرح جسے اندھے کو کتاب پڑھنے اور معذور کو مسجد آنے اور جہاد کرنے کا حکم دیا جائے، ضرار ایک لمحہ کے لئے خاموش ہو گیا۔ پھر بولا: لازماً دلیل ہے۔ مگر یہ دلیل تمہارے امام کی امامت کے لئے نہیں ہے۔ ہشام مسکرائے اور بولے: تم نے خود امامت کے وجود کو تسلیم کر لیا۔ اب صرف میرے اور تمہارے درمیان متفقہ امام کے تعیین پر ہے۔ ضرار بولا: اب میں تمہارے قول کو تم پر لوٹاتے ہوئے تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ہشام نے کہا: ہاں بولو ضرار بولا: یہ بتاؤ عقیدہ امامت کیسے ہوتا ہے؟ کہا: جیسے عقیدہ نبوت ہوتا ہے۔ پوچھا: تو کیا امام نبی ہوتا ہے۔ ہشام نے کہا: نہیں کیونکہ نبوت کا فیصلہ اہل سما میں ہوتا ہے اور امامت کا فیصلہ اہل زمین پر۔ نبوت ملائکہ کے ذریعے مقرر کی جاتی ہے اور امامت نبی کے ذریعہ اور یہ دونوں عہد اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ پوچھا: اس کی کیا دلیل ہے۔ فرمایا: امامت کی ضرورت خود دلیل ہے۔ پوچھا: کس طرح؟ ہشام بولے: یہ بات تین وجوہات سے خالی نہیں۔ یا تو یہ کہہ کہ اللہ نے رسول کے بعد خلق پر سے تکلیف دین اٹھائی۔ پس اب وہ نہ مکلف ہیں نہ ان کے لئے کوئی امر ہے اور وہ حیوانات کی منزل پر آگئے۔ جن کے لئے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اے ضرار کیا تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ رسول کے بعد انسانوں سے تکلیف اٹھائی گئی۔ ضرار بولا: میں ایسا نہیں کہتا۔ ہشام نے کہا: دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انسان مکلف ہو پھر لازمی ہے کہ رسول کے بعد ایسے علماء ہوں جو علم دین میں رسول کی مثل ہوں اور ان کے علم کے وارث ہوں اور وہ علم میں کسی کے محتاج نہ ہوں اور احکام میں وہ حق پر فیصلہ کر سکیں۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ یہ جو ہمیں علماء نظر آتے ہیں ان کا علم مثل علم رسول ہے اور وہ کسی کے محتاج نہیں۔ ضرار بولا: میں یہ نہیں کہتا بلکہ یہ علماء مسائل علمی میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ ہشام بولے: اب تیسری وجہ باقی رہ گئی اور وہ یہ کہ لازم ہے کہ اس عالم کو رسول مقرر کریں جو سہو اور غلطی نہ کرے۔ اور گناہوں اور خطاؤں سے پاک ہو لوگ اس کے محتاج ہوں وہ لوگوں کا محتاج نہ ہو۔ ضرار بولا: تمہارے پاس اس پر کیا دلیل ہے۔ ہشام بولے: آٹھ دلیلیں ہیں جن میں چار فضیلتِ نسب اور چار فضیلتِ نفس پر۔

چار فضیلتِ نسب یہ ہیں کہ وہ معروف قوم، معروف قبیلہ، معروف گھر سے اور صاحب ملت و دعوت ہو اور ضروری ہے کہ اس دین اور اس دعوت کے بانی کی طرف سے اس کی طرف اشارہ اور علامتیں بتائی گئی ہوں۔ پس اللہ کی مخلوق میں عرب سے زیادہ مشہور کوئی قوم نہیں جس میں صاحب ملت و دعوت ہیں جن کے نام کو روزانہ پانچ مرتبہ عبادت گاہوں سے بلند آواز سے پکارا جاتا ہے۔

اشھدان لا الہ الا اللہ ، واشھدان محمداً رسول اللہ پس ان کی دعوت پر نیک و بد ، عالم ، جاہل ، اقرار کرنے والے اور منکر ، مشرق و مغرب سب جگہ پہنچتی ہے ۔ اگر جنت خدا کا اس معروف قوم کے علاوہ کسی اور قوم میں ہونا جائز ہوتا تو لازم آتا کہ مکلف اس کو تلاش کرتا پھرے اور وہ اسے نہ مل سکے اور وہ اسے عرب و غیر عرب میں تمام مخلوق میں تلاش کرے اور لازم آتا کہ اللہ اپنی جنت کے ذریعہ جو اصلاح کرنا چاہتا ہے وہ اصلاح کے بجائے فساد کا باعث بنتی اور یہ بات حکمت و عدل الہی کے برخلاف ہے کہ وہ انسانوں پر ایسا فریضہ عائد کرے جس کی ادائیگی ممکن نہیں ۔ پس لازم ہے کہ جنت کا تعلق اس قوم سے ہو جو صاحب ملت و دعوت (یعنی حضور) کی قوم ہے اور یہ بھی لازم ہے کہ اس قوم میں سے جنت خدا کا تعلق اس قبیلہ سے ہو جو صاحب دعوت کا قبیلہ یعنی قریش ہے اور کیونکہ اس قبیلہ میں بہت گھر ہیں تو اس کا تعلق اس گھر سے ہو جو صاحب ملت و دعوت کا گھر ہے ۔ اور کیونکہ اس کے گھر میں بہت سے افراد رہتے ہیں اس لئے لازم ہے کہ صاحب ملت و دعوت یعنی ان افراد کا نام و نسب سے تعین کر دے تاکہ دوسرے افراد اس منصب کی طمع نہ کریں ۔

اور وہ چار فضیلتیں جو نفس سے متعلق ہیں وہ یہ ہیں ۔ وہ فرائض و سنت اور احکام دین میں تمام لوگوں سے زیادہ جانتا ہو ۔ اور کوئی چھوٹا یا بڑا مسئلہ اس سے پوشیدہ نہ ہو ۔ وہ تمام گناہوں سے پاک ہو ۔ وہ تمام لوگوں سے زیادہ بہادر ہو ۔ وہ تمام لوگوں سے زیادہ سخی ہو ۔

عبداللہ بن یزید اباضی نے کہا آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ عالم ہو ؟ کہا اس لئے کہ اگر وہ تمام حدود اللہ اور احکام و شرائع و سنن کو نہ جانتا ہوگا تو وہ ان کو نافذ نہ کر سکے گا ۔ پس جس پر تعزیر واجب ہوگی وہ حد جاری کر دے گا اور جس پر حد واجب ہوگی اس کے لئے تعزیر کا حکم دے گا اور اس طرح احکام الہی نافذ نہ ہوں گے اور وہ اصلاح کے بجائے فساد کا باعث بنے گا ۔

پوچھا : آپ نے یہ کیسے کہا کہ اس کا معصوم ہونا لازم ہے کہا : اس لئے کہ اگر وہ معصوم نہ ہوگا تو خطا کرے گا پس ہم اس پر اعمتاد نہیں کر سکتے کہ اس کی خطائیں خود اس پر اور اس کے دوستوں اور مقربین پر پوشیدہ رہیں ۔ اور خطا اور گناہ کے باعث اللہ اس کے ذریعہ اپنی خلق پر جنت قائم نہیں کر سکتا ۔

پوچھا : یہ کیسے کہا کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ شجاع ہو ؟ کہا اس لئے کہ مسلمانوں کا لشکر جنگ میں اس کی طرف رجوع کرے گا ۔ پس ارشاد رب العزت ہے **ومن یولہم یومئذ دبراً الا متحرفاً لقتال او متحیزاً الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ** (سورۃ انفال آیت ۱۶) ۔ اور جو کوئی پیٹھ پھیر لے اس دن سوائے اس کے کہ لڑائی کے لئے کترا کے جاتا ہو یا دوسرے گروہ کے پاس جگہ پکڑنا مقصود ہو ، وہ یقیناً غضب خدا میں گرفتار ہوگا ۔ پس اگر وہ شجاع نہیں ہوگا تو جنگ سے فرار کرے گا اور اس طرح اللہ کے غضب کا حق دار قرار پائے گا ۔

اور جو خدا کے غضب کا حق دار ہو گا وہ خلق پر جت نہیں ہو سکتا۔

پوچھا: اچھا یہ بتائیں کہ یہ کیسے ضروری ہے کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ سخی ہو؟ کہا: اس لئے کہ وہ مسلمانوں کے اموال کا خازن ہوتا ہے۔ اگر وہ سخی نہ ہو گا تو اموال کو لوگوں پر خرچ کرنے میں تنگ دلی محسوس کرے گا۔ اور ان کے اموال کو اپنے تصرف میں رکھے گا اور اس طرح خائن قرار پائے گا اور یہ جائز نہیں کہ اللہ کی جت خائن ہو۔

پس ضرار بولا: یہ بتائیں اس وقت ان صفات کا حامل کون ہے؟ فرمایا: صاحب القصر امیر المومنین۔ ہارون رشید جو پردہ کے پیچھے بیٹھا یہ ساری باتیں سن رہا تھا جعفر بن یحییٰ سے جو اس کے ساتھ تھا۔ بولا: خدا کی قسم اس شخص کی زبان میں کیسی کاٹ ہے۔ اے جعفر۔ امیر المومنین سے اس کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ جعفر نے کہا: اس کا اشارہ موسیٰ بن جعفر (علیہ السلام) کی طرف ہے۔ (ہارون رشید نے) کہا: اس نے اسی کو اس لقب سے نوازا جو اس کی اہلیت رکھتا ہے۔ پھر اپنے لبوں کو دانتوں سے دبایا اور کہا یہ شخص ایک لمحہ کے لئے بھی میری مملکت میں زندہ نہیں چاہیے۔ خدا کی قسم اس کی زبان لوگوں کے قلب پر ایک لاکھ تلواروں سے زیادہ زوداثر ہے۔ یحییٰ کو علم ہوا کہ ہارون رشید ہشام کے بارے میں سخت غصے میں ہے تو پردے میں داخل ہوا تو ہارون نے پوچھا: اے عباسی یہ شخص کون ہے؟ یحییٰ بولا: امیر المومنین آپ اپنے غصہ کو قابو میں رکھیں۔ اور باہر آکر ہشام کو آنکھوں سے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ ہشام اس طرح اٹھے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ رفع حاجت کے لئے جارہے ہیں پس انہوں نے جہل پہنی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں سے کوفہ کی طرف چلے گئے۔ اور بشر نبال کے گھر میں چھپ گئے اور انہیں واقعہ سے باخبر کر دیا۔ بشیر نبال امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ پھر ہشام شدید بیمار ہوئے بشیر نبال نے طیب بلوانے کو کہا تو بولے: نہیں اب میں مرنے والا ہوں۔ جب تم میری ٹمٹمن سے فارغ ہونا تو آدھی رات کو میرے جنازے کو کناسہ کی شاہراہ پر رکھ دینا اور ایک رقعہ لکھ کر میرے ہاتھ پر رکھ دینا کہ یہ ہشام بن حکم ہے جس کو امیر المومنین طلب کرتے تھے وہ اپنی طبعی موت خود مر گیا۔

اور ہارون نے ان کے بھائیوں اور ساتھیوں کی طرف کسی کو بھیجا۔ پس لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور صبح ہو گئی تو اہل کوفہ نے اس کو دیکھا اور قاضی شہر کے علاوہ گورنر کا مددگار۔ اور خود حاکم کوفہ اور کوفہ کے معتبر لوگ جمع ہو گئے اور ہارون الرشید کو اس بارے میں لکھا گیا تو اس نے کہا: خدا کا شکر کہ اس نے اس کے کام کو خود کر دیا اور ہمیں اس میں ملوث ہونے سے بچایا۔ اس کے بعد ان لوگوں کو رہا کر دیا گیا جو پکڑے گئے تھے۔

۶۔ بیان کیا مجھ سے احمد بن زیاد بن جعفر ہمدانی نے ان سے علی بن ابراہیم بن ہاشم نے ان سے ان کے والد نے ان سے ابو احمد محمد بن زیاد ازدی نے کہ میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اللہ کے اس قول کے بارے میں دریافت کیا و اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ (سورۃ لقمان آیت ۲۰) اور پوری کر دیں تم پر

اپنی نعمتیں کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی، تو آپ نے فرمایا نعمت ظاہرہ سے مراد امام ظاہر اور نعمت باطنہ سے مراد امام غائب ہیں۔ میں نے عرض کیا: مولا کیا ائمہ ظاہرین علیہم السلام میں سے کوئی امام غیبت اختیار کرے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ خود لوگوں کی نظروں سے غائب ہوگا مگر اس کا ذکر مومنین کے قلوب میں رہے گا۔ وہ ہم میں سے بارہواں ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر مشکل کو آسان اور ہر سختی کو سہل کر دے گا۔ اس کے لئے زمین کے غرنے ظاہر ہوں گے ہر فاصلہ قربت میں بدل جائے گا۔ ہر جاہر ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے ہاتھوں تمام شیاطین ہلاک ہو جائیں گے کئیوں کی ملکہ (نرجس خاتون) کے فرزند کی ولادت لوگوں سے مخفی رہے گی اس کا نام لینا جائز نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ اللہ اس کو ظاہر کر دے گا اور وہ دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔

اس کتاب کے مؤلف فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث صرف احمد بن زیاد ابن جعفر ہمدانی سے حج سے واپسی پر ہمدان میں سنی یہ ایک ثقہ، دین دار اور فاضل شخص تھے۔ اللہ کی رحمت اور رضوان ان پر ہوں۔

باب (۳۵) امام قائم علیہ السلام، ان کی غیبت اور ان کی امامت پر حضرت امام علی

رضا علیہ السلام کے ارشادات گرامی

۱۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن حسن بن احمد بن ولید نے ان سے محمد بن حسن صفار نے ان سے یعقوب بن یزید نے ان سے ایوب بن نوح نے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ صاحب امر ہیں اور یہ امر آپ کے پاس بغیر شمشیر زنی کے آیا ہے۔ آپ کی بیعت ولی مہدی بھی ہوئی اور آپ کے نام کا سکہ بھی بن گیا۔ آپ نے فرمایا: ہم میں سے کوئی امام ایسا نہیں ہوگا کہ جس سے مومنین نے خط و کتابت نہ کی ہو، مسائل اس سے دریافت نہ کئے گئے ہوں اور اموال اس کی طرف بھیجے نہ گئے ہوں مگر یہ کہ اس کو زہر دیا گیا ہے یا وہ اپنے فرش پر مرا ہے جہاں تک کہ خدا اس امر امامت کے لئے ہم میں سے ایک مرد کو مبعوث کرے گا جس کی ولادت اور پرورش خفیہ طور پر ہوگی اور اس کا لقب غیر خفی ہوگا۔

۲۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے ان سے سعد بن عبداللہ نے ان سے جعفر بن محمد بن مالک فراری نے ان سے علی بن حسن بن فضال نے ان سے ربیع بن الصلت نے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے حضرت قائم علیہ السلام کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس کا جسم نظروں سے غائب ہوگا اور اس کا نام لینا جائز نہ ہوگا۔

۳۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے ان سے عبداللہ بن جعفر حمیری نے ان سے احمد بن ہلال عبرتائی نے ان سے حسن بن محبوب نے ان سے ابوالحسن علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شدید آزمائش کا آنا

لازم ہے جس میں تمام بھید ساقط ہو جائیں گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب میرے تیسرے فرزند کو شیخہ کھو بیٹھیں گے اس پر اہل آسمان و زمین نوحہ کریں گے اور تمام دیدار کے بیسے مرد اور عورت اور تمام نم زدہ اور مصیبت زدہ روئیں گے۔ پھر فرمایا میرے اس فرزند کا نام میرے جد کے نام پر ہوگا وہ میرے اور موسیٰ بن عمران کی شبیہ ہوگا اس کے لئے اللہ نور قرار دے گا جس سے تمام عالم منور ہوگا اس کی موت پر اہل زمین و آسمان غمزدہ ہوں گے۔ اس کی غیبت پر مومنین و مومنات غمگین و حیران ہوں گے یہاں تک کہ (اس کی آمد کی) ندا آئے گی جو دور اور قریب ہر طرف سنائی دے گی (یہ ندا) مومنین کے لئے رحمت اور کافروں کے لئے عذاب ہوگی۔

۴۔ بیان کیا مجھ سے احمد بن محمد بن یحییٰ عطار نے ان سے ان کے والد نے ان سے محمد بن احمد نے ان سے ابن مہران نے ان سے ان کے ماموں احمد بن زکریا نے ان سے حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے دریافت فرمایا: تم بغداد میں کس جگہ رہتے ہو؟ اس نے کہا: کرخ میں۔ آپ نے فرمایا: یہ جگہ زیادہ پرسکون ہے۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا جب ایک شدید فتنہ اٹھے گا جب ہر بھید ساقط ہو جائے گا۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب میرے تیسرے فرزند کے شیوں کا فقدان ہوگا۔

۵۔ بیان کیا مجھ سے احمد بن زیاد بن جعفر ہمدانی نے ان سے علی بن ابراہیم بن ہاشم نے ان سے ان کے والد نے ان سے علی بن معبد نے ان سے حسین بن خالد نے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے: جس کے پاس پرہیزگاری نہیں اس کے لئے دین نہیں جس کے پاس تقیہ نہیں اس کے لئے ایمان نہیں۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے وہ مکرم ہے جو تقیہ پر زیادہ عمل کرتا ہے۔ کسی نے پوچھا: فرزند رسول کب تک؟ فرمایا: وقت معلوم تک اور وہ دن ہوگا جس دن ہم اہلبیت کا قائم خروج کرے گا۔ پس جس نے ہمارے قائم کے خروج سے پہلے تقیہ ترک کر دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ عرض کیا گیا: فرزند رسول آپ اہلبیت میں سے قائم کون ہے؟ آپ نے فرمایا: کبیروں کی ملکہ (نرہ جس خاتون) کا فرزند۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے زمین کو ظلم و جور سے پاک کرے گا اور پاکیزہ کرے گا ہر ظلم سے۔ لوگ اس کی ولادت کے بارے میں شک کریں گے۔ وہ خروج سے پہلے غیبت اختیار کرے گا جب وہ خروج کرے گا تو زمین اس کے نور سے منور ہو جائے گی۔ وہ لوگوں کے درمیان عدل قائم کرے گا اور کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکے گا۔ اس کے لئے فاصلے سمٹ جائیں گے اس کا سایہ نہ ہوگا۔ آسمان سے ایک منادی اس کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا جسے تمام اہل زمین سنیں گے۔ وہ منادی کہے گا: آگاہ ہو کہ اللہ کی بخت ہیبت اللہ کے پاس ظاہر ہوئی ہے۔ پس اس کا اجماع کرو حق اس کے ساتھ ہے اور اس میں ہے اور اس کے بارے میں ارشاد رب العزت ہے ان نشا نازل علیہم من السماء آیتة فضلنا اعدائهم لھا خاضعین (سورۃ الشعراء آیت ۳)۔ اگر ہم چاہیں ان پر آسمان سے ایک نشانی اتاریں پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔

۶۔ بیان کیا مجھ سے احمد بن زیاد بن جعفر ہمدانی نے ان سے علی بن ابراہیم نے ان سے ان کے والد نے ان سے عبد السلام بن صالح ہروی نے کہ وہ عیسیٰ بن علی غزالی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں ایک قصیدہ پیش کیا اس کی ابتداء اس شعر سے ہوئی تھی۔

مدارس آیات خلعت من تلاوتہ
اللہ کی نشانیوں کی درسگاہیں تلاوت سے خالی ہو گئیں۔
و منزل وحی مقفر العرصات
اور وحی کا مقام نزول خالی پڑا ہوا ہے۔
پس جب میں ان اشعار پر پہنچا۔

خروج امام لامحالة خارج
ایک امام کا ظہور یقینی ہے وہ ظاہر ہوگا
بقوم علی اسم اللہ البرکات
اللہ کے نام کے ساتھ اٹھے گا

یتمیز فینا کل حق و باطل
ہمارے درمیان ہر حق و باطل کو جدا کرے گا
و یجزی علی النعماء و النقمات
اور نعمتوں سے نوازے گا اور دشمنوں کو سزا دے گا

یہ اشعار سن کر حضرت امام علی رضا علیہ السلام گریہ فرمانے لگے پھر میری طرف رخ کر کے فرمایا: اے غزالی ان دو اشعار کے ذریعہ تیری زبان پر روح القدس کا کلام جاری ہوا۔ کیا مجھے معلوم ہے کہ وہ امام کون ہے اور کب قیام کرے گا۔ میں نے عرض کیا: مولانا نہیں مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ آپ اہل بیت میں سے ایک امام فرود کرے گا جو زمین کو فساد سے پاک کر دے گا اور عدل سے بھر دے گا۔ (جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی)۔

آپ نے فرمایا: اے وہ عیسیٰ بن علی! میرے بعد میرے فرزند محمد امام ہوں گے۔ ان کے بعد ان کے فرزند علی امام ہوں گے ان کے بعد ان کے فرزند حسن امام ہوں گے۔ حسن کے بعد ان کے فرزند جت قائم منتظر امام ہوں گے۔ جو نجست اختیار کریں گے۔ اور جب ظاہر ہوں گے تو آپ کی اطاعت کی جائے گی۔ اگر دنیا کے اختتام میں ایک دن بھی رہ جائے گا تو اللہ اس کو اتنا طویل کر دے گا کہ امام فرود کریں اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔

جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ کب قیام کریں گے تو میرے والد نے اپنے آباء سے روایت کی ہے کہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا: یا رسول آپ کی ذریت میں سے قائم کب ظہور کریں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس کے فرود کا وقت قیامت کی طرح ہے (جس کا علم صرف اللہ کو ہے) جس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لایجلیہا لوقتہا ألا ہو ثقلت فی السموات والارض لا تاتیکم الا بفتنة (سورۃ اعراف آیت ۱۸۷) "وہی کھول دکھائے گا اس کو اس کے وقت پر وہ بھاری بات ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جب تم پر آنے لگی بے خبری میں آئے گی۔"

دعبل بن علی غزالی سے متعلق ایک اور روایت ہے جو ہم یہاں پیش کر رہے ہیں۔

بیان کیا مجھ سے احمد بن علی بن ابراہیم بن ہاشم نے ان کے والد نے ان سے ان کے جد ابراہیم بن ہاشم نے ان سے عبد السلام بن صالح ہرودی نے کہ دعبل بن علی غزالی مرو کے مقام پر حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ فرزند رسول میں نے آپ اہل بیت کے بارے میں ایک قصیدہ کہا ہے اور قسم کھائی ہے کہ آپ سے پہلے کسی کو نہیں سناؤں گا۔ آپ نے فرمایا سناؤ۔ تو انہوں نے یہ اشعار سنائے۔

مدارس آیات خلعت من تلاوة و منزل وحی مقفر العرصات
اللہ کی نشانیوں کی درسگاہیں کلمات سے خالی ہو گئیں۔
اور وحی کا مقام نزول خالی پڑا ہوا ہے۔

اری فیئہم فی غیر ہم منقسماً
ان کے املاک دوسروں کے درمیان بٹے ہوئے ہیں
وایدیہم من فیئہم صفرات
اور ان کے ہاتھ لپٹے ہی جائیدادوں سے خالی ہیں

حضرت امام علی رضا علیہ السلام رونے لگے اور فرمایا اے غزالی تو نے سچ کہا۔ پس جب دعبل اس شعر پر پہنچا۔
إذا وتروا مدواً إلى واثريهم
جب ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا جاتا ہے تو اپنے دشمنوں

کی طرف
ایسے ہاتھوں کو بڑھاتے ہیں جو کمان کو پکڑنے سے قاصر
ہیں۔

حضرت امام علی رضا علیہ السلام لپٹے ہاتھ ملنے لگے پھر فرمایا خدا کی قسم میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ جب دعبل اس شعر پر پہنچا۔

لقد خفت فی الدنيا و ایام سعيها
اور یقیناً میں دنیا اور گردش زمانہ سے خوفزدہ رہا
وإنی لأرجو الأمن بعد وفاتی
پس امید رکھتا ہوں امن و امان کی اپنی وفات کے بعد

امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا۔ اے دعبل اللہ تجھے قیامت کے دن اپنی امان میں رکھے۔ جب دعبل نے قصیدے کا آخری شعر پڑھا۔

وقبر بیغداد لنفس زکیة
اور ایک روضہ بغداد میں ایک پاک ہستی کا ہے
تضمّنه الرحمن فی الغرفات
جس کو اللہ نے باغات بہشت میں جگہ دی ہے

امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا اسے دعبل کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ تم اپنے اس قصیدے کے آخر میں دو اشعار کا اضافہ کرو۔ دعبل نے عرض کیا یقیناً یا ابن رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا

وقبر بطوس یا لها من مصیبة
اور ایک روضہ طوس میں ہوگا جس کی مصیبت
توقد فی الا حشاء بالحرقات
کہ بدن کے اندرونی حصے آگ سے جل جائیں گے

إِلَى الْحَشْرِ حَتَّىٰ يَبِيعَ اللَّهُ قَانِمًا
اور حشر تک یہ سلسلہ رہے گا جہاں تک کہ اللہ ایک
قائم کو ظاہر کرے گا
يَفْرَجُ عَنَّا الْهَمَّ وَالْكَرْبَاتِ
اس کے ذریعہ ہم سے غم واندوہ اور مصیبتوں کو نال
دے گا

دعبل نے عرض کیا: فرزند رسول طوس میں کس کی قبر ہوگی؟ آپ نے فرمایا: میری۔ میں جلد طوس جاؤں گا جہاں
میری قبر میرے شیعوں کے لئے زیارت گاہ بنے گی۔ پس جس نے میری غربت میں طوس میں میری زیارت کی وہ میرے
ساتھ قیامت کے دن ہوگا اور اس کی معفرت ہوگی۔

حضرت امام علی رضا علیہ السلام و دعبل کے اشعار سن کر گھر میں تشریف لے گئے۔ کچھ در بعد آپ کا خادم ایک سو
دینار رضویہ لے کر آیا اور دعبل سے کہا: یہ مولانا نے تمہارے زاد سفر کے لئے دیئے ہیں۔ و دعبل نے کہا: مجھے اس کی طلب
نہیں اور نہ ہی میں نے یہ قصیدہ کسی لالچ میں کہا تھا۔ ہاں اللہ امام علیہ السلام سے عرض کر دو کہ اپنا پہنا ہوا کوئی کپڑا
مجھے دے دیں تاکہ وہ میرے لئے باعث برکت و شرف ہو۔ آپ نے دعبل کو اپنا ایک جبہ بھگوایا اور دینار بھی دیدیئے کہ
یہ رکھ لو کام آئیں گے۔ پس دعبل نے وہ دونوں چیزیں لیں اور مرو سے ایک قافلہ کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب قافلہ توہان
(نیشاپور کے قریب ایک قریہ) کے مقام پر پہنچا تو ڈاکوؤں نے قافلہ کو لوٹ لیا اور تمام مسافروں کو قید کر لیا۔ اور آپس
میں لوٹ کا مال تقسیم کرنے لگے ان ڈاکوؤں میں سے ایک شخص و دعبل کا یہ شعر گنگنا رہا تھا۔

أَرَىٰ فِيهِمْ فِي غَيْرِهِمْ مَتَقَسَّمَا
اور ان کے ہاتھ جائیدادوں سے خالی ہیں
میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے املاک غیروں میں بانٹے

جا رہے ہیں

دعبل نے اس سے پوچھا: یہ کس کا شعر ہے۔ اس نے کہا: فرائد قبیلے کے ایک شخص و دعبل بن علی کا۔ و دعبل نے
کہا: میں ہی دعبل ہوں جس نے یہ قصیدہ کہا ہے اور یہ میرا ہی شعر ہے۔ یہ سن کر وہ شخص و دعبل کو لپٹے سردار کے
پاس لے گیا جو ایک ٹیلے کی چوٹی پر نماز پڑھ رہا تھا اور وہ شیعوں میں سے تھا۔ اس نے لپٹے سردار کو باخبر کر دیا تو وہ
بذات خود آیا اور دعبل کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے پوچھا: کیا تم دعبل ہو۔ انہوں نے جواب دیا: ہاں۔ اس نے
کہا اس قصیدے کو دوبارہ پڑھو۔ انہوں نے اسے دوبارہ پڑھا تو اس نے دعبل اور قافلہ کے تمام افراد کو رہا کر دیا اور
جو کچھ ان سے چھینا تھا دعبل کے احترام میں واپس کر دیا۔ پس دعبل قم پہنچے اور اہل قم میں اعلان کیا گیا کہ دعبل اپنا نو
تصنیف قصیدہ مسجد میں پڑھیں گے۔ وقت مقرر پر لوگ جامع مسجد میں جمع ہوئے دعبل منبر پر گئے اور قصیدہ پیش کیا
قصیدہ سن کر لوگوں نے مال و اسباب نذر کئے۔ جب لوگوں کو سہ چلا کہ دعبل کے پاس حضرت امام علی رضا علیہ
السلام کا جبہ ہے تو انہوں نے ایک ہزار دینار میں خریدنے کی پیش کش کی مگر دعبل نے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے کہا:

اچھا اس جبہ کا کچھ حصہ ہمیں ایک ہزار دینار میں دے دو۔ مگر دعبیل نے انکار کیا اور تم سے چلے گئے۔ ابھی شہر سے نکلے ہی تھے کہ عرب کے ایک قبیلہ نے حملہ کر کے وہ جبہ چھین لیا۔ دعبیل واپس آئے اور جبہ کا مطالبہ کیا مگر ان لوگوں نے جبہ دینے سے انکار کر دیا اور اس کے بدلے آٹھ ہزار دینار کی پیش کش کی دعبیل نے انکار کر دیا۔ مگر جب دعبیل مایوس ہو گئے تو انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ اس جبہ کا کچھ حصہ ہی مجھے دے دو تو ان لوگوں نے اس جبہ کا کچھ حصہ بھاڑ کر دعبیل کو دیا اور آٹھ ہزار دینار بھی دے دیئے۔ دعبیل اپنے وطن کی طرف لوٹے راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور جو کچھ بھی تھا لوٹ لیا اور صرف وہ ایک سو دینار رہ گئے جو امام نے دیئے تھے۔ دعبیل نے ان سو دیناروں سے درہم خریدے ایک دینار کے سو درہم ملے اس طرح آپ کے پاس دس ہزار درہم ہو گئے۔ اس وقت دعبیل کو امام کا قول یاد آیا کہ دعبیل تمہیں ان پیسوں کی ضرورت پڑے گی۔ دعبیل کے ساتھ ان کی ایک کنیز بھی تھی جو حنت بیمار ہو گئی۔ طبیہوں نے کہا کہ اس کی سیدھی آنکھ ناسخ ہو چکی ہے۔ اللہ بانیں آنکھ کا علاج ممکن ہے دعبیل کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا اور بہت رونے۔ پھر انہیں یاد آیا کہ ان کے پاس جبہ کا ایک ٹکڑا ہے انہوں نے رات کے اول حصے میں کنیز کی آنکھوں پر وہ ٹکڑا مس کیا صبح کو اس کنیز کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور مولا ابی الطمن الرضا کی برکت سے مرض کے آثار بھی باقی نہ رہے۔

۷۔ بیان کیا مجھ سے احمد بن زیاد بن جعفر ہمدانی نے ان سے علی بن ابراہیم نے ان سے ان کے والد نے ان سے ریان بن الصلت نے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا کیا آپ صاحب امر ہیں؟ فرمایا: ہاں میں صاحب امر ہوں مگر میں وہ امام نہیں ہوں جو دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ میں وہ امام کیسے ہوسکتا ہوں جبکہ تم دیکھتے ہو کہ مجھ پر غضبِ بدنی طاری ہے۔ تاہم وہ ہوگا کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو عمر اس کی شیوخ کی ہوگی۔ مگر نظر جو ان آئے گا۔ طاقت جسمانی ایسی ہوگی کہ اگر وہ چاہے گا تو بڑے سے بڑے درختوں کو ہاتھ سے جڑ سمیت اکھاڑ پھینکے۔ اور پہاڑوں کو ہموار کر دے۔ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ میری اولاد میں ہو تھا فرد ہوگا اللہ اس پر غیبت کا پردہ ڈال دے گا پھر اسے ظاہر کرے گا۔ تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔

باب (۳۶) امام زمانہ علیہ السلام اور ان کی غیبت کے بارے میں حضرت امام محمد بن علی (محمد تقی) جو اہل علیہ السلام کے ارشادات گرامی

۱۔ بیان کیا مجھ سے علی بن احمد بن موسیٰ وثاق نے ان سے محمد بن ہارون صوفی نے ان سے ابو تراب عبداللہ موسیٰ رویانی نے ان سے عبدالعظیم بن عبداللہ بن علی بن حسن بن زید بن حسن بن علی ابن ابی طالب علیہم السلام نے کہ میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ آپ سے امام قائم علیہ السلام کے بارے میں سوال کروں۔ آپ نے فرمایا: اے ابوالقاسم۔ قائم (علیہ السلام) ہم میں سے ہوگا وہ مہدی ہوگا جس کی غیبت میں اس کا انتظار اور اس کے ظہور میں اس کی اطاعت واجب ہوگی۔ وہ میری اولاد میں سے تیسرا امام ہوگا۔ قسم اس ذات کی کہ جس نے محمد کو نبوت کے ساتھ مبعوث کیا اور ہم کو امامت سے مخصوص کیا اگر دنیا کے اختتام میں ایک دن بھی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا طویل کر دے گا کہ امام قائم (علیہ السلام) ظاہر ہوں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اور اللہ ان کے امور کی ایک رات میں اصلاح کر دے گا۔ جس طرح اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امور کی کی تھی جب کہ وہ اپنی زوجہ کے لئے آگ لینے گئے تھے اور جب پلٹے تو رسول اور نبی تھے۔ پھر امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا۔ ہمارے شیعوں کا بہترین عمل انتظارِ ظہور (امام علیہ السلام) ہے۔

۲۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن احمد شیبانی نے ان سے محمد بن ابی عبداللہ کوفی نے ان سے سہل بن زیاد آدمی نے ان سے عبدالعظیم بن عبداللہ الحسنی نے کہ میں نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہی امام قائم علیہ السلام ہیں۔ جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ آپ نے فرمایا: اے ابوالقاسم ہم میں سے ہر ایک امام اللہ کے حکم سے قائم ہے۔ اور دین کی طرف ہدایت کرتا ہے مگر وہ قائم جو زمین کو کافروں اور منکروں سے پاک کرے گا اور عدل و انصاف سے بھر دے گا وہ امام ہوگا جس کی ولادت لوگوں پر مخفی ہوگی وہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہوگا۔ اس کا نام لینا حرام ہوگا۔ اس کا نام اور کنیت رسول اللہ کا نام اور کنیت ہوگی۔ اس کے لئے زمین کے فاصلے سمٹ جائیں گے ہر سختی اور مشکل اس کے لئے آسان ہو جائے گی اس کے اصحاب کی تعداد اہل بدر کے برابر یعنی تین سو تیرہ ہوگی اور یہ ہی ارشاد پروردگار ہے۔ **اَیْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** (سورہ بقرہ آیت ۱۴۸)۔ جہاں کہیں بھی تم ہو گے کر لائے گا تم کو اللہ اکٹھا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پس جب یہ اہل اخلاص جمع ہو جائیں گے تو اللہ اپنے حکم کو ظاہر کرے گا اور جب دس ہزار افراد کا لشکر تیار ہو جائے گا تو وہ اللہ کے حکم سے خروج کرے گا اور اس وقت تک دشمنانِ خدا

کو قتل کرے گا۔ جب تک اللہ راضی نہ ہو جائے۔

عبدالعظیم کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا: مولایہ کیسے علم ہوگا کہ اللہ راضی ہو گیا۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحم ڈالے گا۔ پس جب مدینہ میں داخل ہوگا تو لات و عری کو نکالے گا اور ان دونوں کو جلا دے گا۔

(۳) بیان کیا مجھ سے عبدالواحد بن محمد عبدوس عطار نے ان سے علی بن محمد بن قتیبہ نیشاپوری نے ان سے حمدان بن سلیمان نے ان سے صقر بن ابی دلف نے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا: میرے بعد میرا بیٹا علی (نقی) امام ہوگا اس کا حکم میرا حکم، اس کا قول میرا قول، اس کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا حسن (عسکری) امام ہوگا۔ اس کا حکم اس کے والد کا حکم، اس کا قول اس کے والد کا قول، اس کی اطاعت اس کے والد کی اطاعت ہے۔ پھر آپ خاموش ہو گئے۔ میں نے عرض کیا: فرزند رسول حسن (عسکری) کے بعد کون امام ہے۔ آپ یہ سن کر رونے لگے۔ پھر فرمایا: حسن (عسکری) کے بعد اس کا بیٹا قائم باقی منظر امام ہوگا۔ میں نے عرض کیا: فرزند رسول ان کو قائم کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اس لئے کہ وہ اس وقت قیام کرے گا۔ جب اس کا ذکر من چکا ہوگا۔ اور اس کی امامت کے ماننے والوں کی اکثریت اپنے مذہب سے دور ہو چکی ہوگی۔ میں نے عرض کیا: منظر کس سبب سے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: کیونکہ اس کی غیبت کی مدت طویل ہوگی اور مخلص لوگ اس کے خروج کا انتظار کریں گے۔ ہنسی لوگ اس کا انکار کریں گے۔ منکرین مذاق اڑائیں گے اور جھٹلائیں گے اور عجلت پسند لوگ اس کے معاملے میں ہلاک ہوں گے اور (صرف) ثابت قدم نجات پائیں گے۔

باب (۳۷) امام قائم علیہ السلام اور ان کی غیبت کے بارے میں حضرت امام علی (نقی) بن محمد علیہما السلام کے ارشادات گرامی

۱۔ بیان کیا مجھ سے علی بن احمد بن موسیٰ دقاق اور علی بن عبداللہ وراق نے ان دونوں سے محمد بن ہارون صوفی نے ان سے ابو تراب عبداللہ بن موسیٰ رویانی نے ان سے عبدالعظیم بن عبداللہ حسنی نے انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے آقا علی بن محمد علیہما السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے دیکھ کر کہا: مرحبا ہے ابو القاسم تم ہمارے دوست ہو۔ میں نے عرض کیا: فرزند رسول میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اپنے دین و عقیدے کا اظہار کروں پس اگر وہ پسندیدہ ہو تو آپ اس کا اثبات کریں تاکہ میں اللہ عزوجل سے (حالت اطمینان میں) ملاقات کروں۔ آپ نے فرمایا: ہاں کہو میں نے عرض کیا کہ میرا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے۔ اس کی کوئی مثل نہیں وہ ہر قسم کی تشبیہ سے پاک ہے۔ نہ اس کا جسم ہے اور نہ اس کی صورت نہ وہ عرض ہے نہ جوہر بلکہ وہ اجسام کو تشکیل دینے والا، صورت بنانے والا اور عرض و

جوہر کو خلق کرنے والا ہے۔ وہ ہر شے کا رب، مالک، بنانے والا اور ابتداء کرنے والا ہے۔ محمد اس کے بندے اور رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان کی شریعت تمام شریحتوں کی ناخ ہے اور ان کے بعد قیامت تک کوئی شریعت نہیں آئے گی۔

میرا عقیدہ ہے کہ ان کے بعد امام خلیفہ اور صاحب امر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں پھر حضرت امام حسن علیہ السلام پھر حضرت امام حسین علیہ السلام پھر حضرت علی بن حسین (امام زین العابدین علیہ السلام) پھر محمد بن علی (حضرت امام محمد باقر علیہ السلام) پھر جعفر بن محمد (حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام) پھر موسیٰ بن جعفر (حضرت امام کاظم علیہ السلام) پھر علی بن موسیٰ (حضرت امام رضا علیہ السلام) پھر محمد بن علی (حضرت امام محمد تقی علیہ السلام) پھر آپ امام ہیں امام نے فرمایا میرے بعد میرا فرزند حسن (عسکری) امام ہے۔ اس کے بعد اس کا فرزند جس کی امامت لوگوں کے لئے عجیب ہوگی۔ میں نے عرض کیا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا: وہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہوگا۔ اس کا نام لینا جائز نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ وہ خردج کرے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ میں نے عرض کیا میں اس کا اقرار کرتا ہوں اور عقیدہ رکھتا ہوں کہ ان ائمہ کے دوست اللہ کے دوست، ان کے دشمن اللہ کے دشمن، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت، ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ نیز میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ معراج حق ہے، قبر میں سوال و جواب حق ہے، جنت حق ہے، نار حق ہے، صراط حق ہے، میزان حق ہے، قیامت حق ہے، قبور سے اٹھایا جانا حق ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ولایت کے بعد فرائض واجبہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر (نیکی کے لئے کہنا اور برائی سے روکنا) حق ہے۔

پس آپ نے فرمایا: اے ابوالقاسم خدا کی قسم یہ ہی اللہ کا دین ہے۔ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ تم کو اس دین پر ثابت قدم رکھے دینا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

۲۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے ان سے عبداللہ بن جعفر حمیری نے ان سے محمد بن عمر کاتب نے ان سے علی بن محمد صیری نے ان سے علی بن مہزیار نے کہ میں نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو ایک خط لکھا جس میں ان سے ظہور قائم علیہ السلام کے متعلق دریافت کیا۔ تو آپ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ جب تمہارا امام قائم ظالموں کے شہر سے غائب ہوگا تو ظہور کی توقع کرنا۔

۳۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے ان سے سعد بن عبداللہ نے ان سے ابراہیم بن مہزیار نے ان سے ان کے بھائی علی بن مہزیار نے ان سے علی بن محمد بن زیاد نے کہ میں نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو ایک خط لکھا جس میں ظہور کے متعلق سوال کیا تو آپ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ جب تمہارا صاحب (امام قائم علیہ السلام) ظالموں کے شہر سے غائب ہو جائے تو ظہور کی توقع کرو۔

کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا: تم سے ملنے۔ کہنے لگا: شاید تم اپنے مولا سے ملنے آئے ہو۔ میں نے کہا: میرا مولا کون ہے؟ میرا مولا تو حاکم وقت ہے۔ بولا: خاموش ہو جاؤ تمہارے مولا امام حق ہیں۔ مجھ سے مت ڈرو۔ میں بھی تمہارے مذہب پر ہوں۔ میں نے کہا: الحمد للہ بولا گیا: تم ان کو دیکھنا پسند کرو گے؟ میں نے کہا: ہاں اس نے کہا: یہاں بیٹھو جب بادشاہ کا قاصد چلا جائے گا تو لوادوں گا۔ میں بیٹھ گیا یہاں تک کہ قاصد چلا گیا۔ پھر اس نے ایک غلام سے کہا کہ صقر کا ہاتھ پکڑ کر اس حجرہ میں لے جاؤ۔ جہاں ایک علوی قید ہے۔ اور اس کے پاس چھوڑ دو وہ مجھے ایک حجرہ میں لے گیا اور ایک کو ٹھہری کی طرف اشارہ کیا میں اس کو ٹھہری میں داخل ہوا تو دیکھا کہ امام علیہ السلام بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے ایک قبر کھدی ہوئی ہے۔ میں نے سلام کیا۔ آپ نے جواب سلام دیا اور بیٹھنے کو کہا۔ میں بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا: اے صقر کیسے آتا ہوا؟ میں نے عرض کیا: مولا آپ کا حال احوال معلوم کرنے آیا ہوں۔ پھر میں نے قبر دیکھی اور رونے لگا۔ امام نے مجھ سے کہا: اے صقر فکر نہ کرو وہ ہمیں کوئی گزند نہیں پہنچا سکتے۔ میں نے کہا: الحمد للہ پھر میں نے عرض کیا: مولا ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے جس کے معنی میری کبھی میں نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا: کون سی حدیث ہے۔ میں نے عرض کیا: حضور نے فرمایا: لا تعداد و الا ایام فتعادیکم۔ ایام کے ساتھ دشمنی نہ کرو کیونکہ پھر وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ کے کیا معنی ہے۔

آپ نے فرمایا: ایام سے مراد ہم ہیں۔ ہمارے ذریعے آسمان اور زمین قائم ہے۔ پس سہت (افتد) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ احد (اتوار) جناب امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اشہین (پیر) جناب حسین (امام حسن و حسین علیہما السلام) ہیں۔ ثلثاء (منگل) علی بن حسین (امام زین العابدین علیہ السلام) اور محمد بن علی (امام محمد باقر علیہ السلام) اور جعفر بن محمد (امام جعفر صادق علیہ السلام) ہیں۔ اربعاہ (بدھ) موسیٰ بن جعفر (امام موسیٰ کاظم علیہ السلام) اور علی بن موسیٰ (امام علی رضا علیہ السلام) اور محمد بن علی (امام محمد تقی علیہ السلام) اور میں ہوں۔ فہمیس (جمعرات) میرا بیٹا حسن (مسکری علیہ السلام) ہے اور محمد میرے بیٹے کا فرزند ہے جس کے پاس اہل حق جمع ہوں گے اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اور یہ ایام کے معنی ہیں۔ دنیا میں ایام سے دشمنی نہ کرو۔ سورہ آخرت میں وہ تم سے دشمنی کریں گے۔ پھر فرمایا: اب تم جاؤ کیونکہ یہاں تمہارا رہنا ٹھیک نہیں ہے۔

۱۲۔ بیان کیا مجھ سے احمد بن زیاد بن جعفر ہمدانی نے ان سے علی بن ابراہیم نے ان سے عبداللہ بن احمد موصلی نے ان سے صقر بن ابی دلف نے بیان کیا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد میرا فرزند حسن امام ہوگا اس کے بعد اس کا فرزند قائم امام ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا۔ جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔

باب (۳۸) امام زمانہ اور ان کی غیبت کے بارے میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ارشادات

۱۔ بیان کیا مجھ سے علی بن عبد اللہ و ذاق نے ان سے سعد بن عبد اللہ نے ان سے احمد بن اسماعیل بن سعد اشعری نے کہ میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ آپ کے بعد آپ کے جانشین کے بارے میں معلوم کر سکوں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے خود ہی ابتداء کی اور فرمایا: اے احمد بن اسماعیل آدم کی خلقت سے لے کر قیامت تک اللہ زمین کو اپنی جنت سے خالی نہ چھوڑے گا، انہی کے ذریعے بلاؤں کو اہل زمین سے نال دے گا انہی کے طفیل بارش ہوتی ہے، اور انہی کی برکت سے زمین لہنے خزانے ظاہر کرتی ہے۔

میں نے عرض کیا: فرزند رسول آپ کے بعد خلیفہ اور امام کون ہوگا؟ آپ اٹھے اور اندرون خانہ تشریف لے گئے پھر باہر آئے تو آپ کی گود میں ایک تین سالہ بچہ تھا۔ جس کا چہرہ ماہ کامل کی طرح چمک رہا تھا۔ فرمایا: اے احمد بن اسماعیل اگر اللہ تم کو مکرم نہ کرے تو میں یہ بچہ تمہیں نہ دکھاتا۔ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس کا نام اور کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور کنیت ہے۔ یہ وہ ہے جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ قلم و جوہر سے بھر چکی ہوگی۔

اے احمد بن اسماعیل اس کی مثال اس امت میں حضرت علیہ السلام اور ذوالقرنین کی سی ہے۔ خدا کی قسم اللہ اس کو غائب کرے گا اور اس کی غیبت میں ہلاکت سے صرف وہ لوگ نجات پائیں گے جو عقیدہ امامت پر ثابت قدم رہیں گے اور اس کے تعجیل فرج کی دعا کریں گے۔

پس احمد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی ایسی علامت ہے جس سے میرا دل مطمئن ہو جائے پس وہ بچہ فصیح عربی میں گویا ہوا: میں زمین پر بقیۃ اللہ ہوں میں خدا کے دشمنوں سے انتقام لینے والا ہوں۔ اے احمد بن اسماعیل آنکھوں سے دیکھنے کے بعد علامت طلب نہ کرو۔

احمد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ میں امام علیہ السلام کے پاس سے بڑا مسرور اور مطمئن نکلا۔ دوسرے دن میں پھر امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا: فرزند رسول آپ نے جو احسان کیا اس سے میں بہت مسرور ہوں۔ نہیں یہ فرمائیں کہ قائم کے لئے حضرت حضر اور ذوالقرنین کی کون سی سنت جاری ہوگی۔ فرمایا: اے احمد طویل غیبت۔ میں نے عرض کیا فرزند رسول ان کی غیبت کتنی طویل ہوگی؟ آپ نے فرمایا۔ خدا کی قسم اتنی طویل کہ اس کی امامت کے قائلین کی اکثریت مرتد ہو جائے گی۔ صرف وہ لوگ اپنے قول پر ثابت قدم رہیں گے جن سے اللہ نے ہماری ولایت کا عہد لیا

ہے۔ جن کے دلوں پر ایمان لکھ دیا اور جن کی اپنی رحمت سے مدد کی۔

اے احمد بن اسحاق یہ اللہ کے امور میں سے ایک امر ہے۔ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور اللہ کے غیوب میں سے ایک غیب ہے۔ پس میں نے جو تمہیں (راز) دیا اس کو معذرتی سے پکڑو اور چھپاؤ اور شکر گزار بنو تو کل تم ہمارے ساتھ علیین میں ہو گے۔

اس کتاب کے مؤلف عرض کرتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث صرف علی بن عبداللہ وراق سے سنی اور انہی کی تحریر میں پایا تو اس کے بارے میں، میں نے ان سے پوچھا انہوں نے میرے لئے سعد بن عبداللہ سے روایت کی ان سے احمد بن اسحاق نے بیان کیا جو میں نے ذکر کیا۔

وہ روایات جو جناب حضرت علیہ السلام کے بارے میں آئی ہیں

۱۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن ابراہیم بن اسحاق نے ان سے عبدالعزیز بن یحییٰ بصری نے ان سے محمد بن عطیہ نے ان سے ہشام بن جعفر نے ان سے حماد نے ان سے عبداللہ بن سلیمان نے کہ میں نے بعض کتب سماوی میں پڑھا ہے کہ ذوالقرنین خدا کے صالح بندے تھے اللہ نے انہیں اپنے بندوں پر رحمت بنایا تھا لیکن نبی نہیں بنایا تھا۔ حق تعالیٰ نے ان کو ملکوں پر غلبہ دیا اور اسباب ان کے واسطے طے ہوئے اور ان کے سلسلے چشمہ حیات کی تعریف بیان کی گئی اور ان کو بتلایا گیا کہ جو شخص اس چشمہ کا پانی پیتا ہے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک صور کی آواز نہیں سن لے پس وہ اس چشمہ کی تلاش میں لٹکے سبھاں تک کہ اس کے مقام تک پہنچے۔ اس جگہ تین سو ساٹھ چٹے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے لشکر کے سردار اور ہر اول تھے (۱)۔ ان کو ذوالقرنین تمام اصحاب سے زیادہ دوست رکھتے تھے ان کو ایک

(۱) ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذوالقرنین کی فوج کے ہر اول دستہ میں تھے اور یہ بات عجیب ہے۔ کیونکہ اگر حضرت خضر

حضرت موسیٰ کے دور کے ہیں تو یہ دور تقریباً پندرہ سو سال قبل مسیح کا ہے اور ذوالقرنین خواہ اسکندر ہوں یا کورش،

حضرت موسیٰ کے دور کے صدیوں بعد نمودار ہوئے ہیں۔ اسکندر تین سو تیس سال قبل مسیح اور کورش پانچ سو پچاس

قبل مسیح کے ہیں۔ پس شاید یہاں ذوالقرنین سے مراد کوئی اور شخص ہے۔ ابن قتیبہ نے اپنی کتاب معارف میں وحب

ابن سبہ سے نقل کیا ہے کہ ذوالقرنین اسکندریہ کا رہنے والا ایک شخص تھا اس کا نام اسکندر روس تھا۔ اس نے ایک

مرتبہ خواب دیکھا کہ وہ سورج کے قریب پہنچ گیا ہے۔ اور اتنا اس سے قریب ہو گیا کہ اس کے دونوں کنارے یعنی

مشرقی و مغرب کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے۔ اس نے اس خواب کے بارے میں اپنے قوم کے لوگوں کو بتایا تو انہوں

نے اسی وقت اس کا نام ذوالقرنین رکھ اور اس کا دور حضرت عیسیٰ کے بعد کا ہے، بہر حال ذوالقرنین اور حضرت خضر کا

واقعہ نہایت کثرت اور ناقابل اعتقاد سہاروں پر کھڑا ہے اور ہم ان دونوں کے بارے میں وہی کچھ کہیں گے جو کہ قرآن

اور قرآن کے موافق احادیث بتاتی ہیں اور اس سے زیادہ کو افسانہ پرست لوگوں کے لئے چھوڑ دیں گے (علی اکبر غفاری)

تنگ آلود پھلی دی پھر اپنے تمام اصحاب میں سے ہر ایک کو تنگ آلودہ خشک پھلی دی اور کہا ان چشموں میں جاؤ اور ہر ایک اپنی پھلی کو ایک چشمہ میں دھوئے کوئی دوسرا اس چشمہ میں نہ دھوئے۔ یہ سن کر سب الگ الگ ہو گئے اور ہر ایک نے اپنی اپنی پھلی کو ایک ایک چشمہ میں دھویا حضرت خضر علیہ السلام بھی ایک چشمہ پر پہنچے اور جب اپنی پھلی کو اس پانی میں ڈالا تو وہ زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی۔ جب حضرت خضر نے اس صورت حال کا مشاہدہ کیا تو اپنے کپڑے اس چشمہ کے پانی میں دھوئے اور غسل کیا اور پھر وہ پانی پیا۔ سب لوگ اپنی اپنی پھلیاں لے کر جناب ذوالقرنین کے پاس واپس آئے مگر جناب خضر کے پاس پھلی نہیں تھی۔ جب پوچھا گیا تو جناب خضر نے تمام حالات بیان کئے۔ (جناب ذوالقرنین نے) پوچھا: کیا تم نے اس چشمہ سے پانی پیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں۔ فرمایا: وہ چشمہ تمہاری قسمت میں تھا۔ پس تمہیں مبارک ہو کہ تم اس دنیا میں صور پھونکے جانے تک لوگوں کی نظروں سے غائب اور موجود رہو گے۔

۲۔ بیان کیا مجھ سے علی بن احمد بن عبداللہ بن ابی عبداللہ برقی نے ان سے ان کے والد نے ان سے ان کے جد احمد بن عبداللہ نے ان سے ان کے والد نے ان سے محمد بن ابی عمیر نے ان سے حمزہ بن حران وغیرہ نے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مدینہ میں انتہائی پریشان اور نگر مند ایک دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے تھے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور بولا: اے ابو جعفر تم کیوں غمگین ہو۔ کیا تم کو دنیا کا غم ہے تو جان لو کہ رزق خدا موجود ہے جس میں نیک اور بد دونوں شریک ہیں۔ کیا تمہیں آخرت کا غم ہے تو قدرت والے مالک کا وعدہ سچا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: مجھے یہ غم نہیں ہیں بلکہ میں ابن زبیر کے فتنہ کی وجہ سے پریشان ہوں۔ وہ شخص بولا: کیا تم نے دیکھا ہے کہ کوئی شخص اللہ سے ڈرا اور اس کو نجات نہ ملی ہو۔ کسی نے اللہ پر توکل کیا اور اللہ اس کے لئے کافی نہ ہوا ہو۔ کسی نے اللہ کو اختیار کیا اور اللہ نے اس کو اختیار نہ کیا ہو امام نے فرمایا: نہیں۔ پس وہ شخص چلا گیا تو کسی نے امام سے پوچھا: یہ کون شخص تھا؟ آپ نے جواب دیا کہ یہ حضرت خضر تھے۔

مؤلف فرماتے ہیں کہ ایسی ہی ایک خبر علی بن حسین علیہما السلام سے بھی مروی ہے۔

۳۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے ان سے سعد بن عبداللہ اور عبداللہ بن جعفر حمیری نے ان سے احمد بن محمد بن عیسیٰ نے ان سے محمد بن خالد برقی نے ان سے احمد بن زید نیشاپوری نے ان سے عمر بن ابراہیم ہاشمی نے ان سے عبدالملک بن عمیر نے ان سے اسید بن صفوان صحابی رسول نے بیان کیا کہ جب امیر المومنین (علی ابن ابی طالب علیہ السلام) کی شہادت ہوئی تو آہ و بکا کی آوازیں بلند ہوئیں جیسے حضور اکرم کی قبض روح کے وقت ہوئیں تھیں۔ ان آوازوں کو سن کر لوگ ڈر گئے لہذا میں ایک شخص مضطرب روتا ہوا آیا اور کہنے لگا آج نبوت کا جانشین اٹھ گیا۔ پھر وہ

امیرالمومنینؑ کے گھر کی چوکھٹ پر کھڑا ہو گیا۔ اور کہنے لگا: اے ابوالحسن اللہ تم پر رحم کرے تم اسلام میں سب سے پہلے ایمان میں خالص اور یقین میں شدید تھے، تم اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے اور اصحاب کے مقابلے میں رسول اللہ کے عہد کو زیادہ پورا کرنے والے تھے، تمہارے مناقب سب سے زیادہ افضل، تمہاری سہستیں سب سے مکرم، تمہارا درجہ سب سے بلند اور تم رسولؐ سے سب سے زیادہ قریب اور رفتار و گفتار و مقاصد و افعال میں رسولؐ سے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ تمہاری منزلت اشرف و مکرم تھی اسلام، رسولؐ اور مسلمانوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے۔ جب اصحاب کزور ہوئے تو تم نے اسلام کو تقویت دی۔ جب انہوں نے سستی اور کابلی دکھائی تو تم نے مبارزت کی جب انہوں نے (رسول اللہ کو) تنہا چھوڑا تو تم نے نصرت کی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح راستے کی طرف اس وقت ملتفت ہوئے جب اصحاب نکر مند تھے۔ تم خلیفہ حق ہو جس میں کوئی شک نہیں۔ چاہے یہ بات منافقوں کو بری لگے، کافروں کو غصہ آئے، حاسدوں کو ناگوار گزرے اور فاسقوں کے دل تنگی محسوس کریں۔

تم نے حکم خدا کو اس وقت قائم کیا جب لوگوں نے چھوڑ دیا۔ تم نے ان دنوں حق کی بات کی جب لوگ حق بات کہنے میں جھجکے اور تم اللہ کے نور میں چلے جب دوسرے رکے رہے۔ انہوں نے تمہاری پیروی کرتے تو ہدایت پاجاتے۔ تمام لوگوں میں تمہاری آواز نرم، تمہاری علامت قوت، تمہارا کلام مختصر، تمہارا نطق صحیح ترین، تمہاری رائے معجز، تمہارا قلب شجاع ترین، تمہارا یقین سب سے شدید، تمہارا عمل بہترین ہے اور تم سب سے زیادہ امور کو جاننے والے ہو۔ خدا کی قسم تم دین کے رئیس ہو (جب لوگ بکھر گئے اور جب بچھے والے لوگ ناکام ہو گئے) تم مومنین کے لئے رحیم باپ اور لپٹہ پائی اور ان کے امور کی نگرانی کرنے والے تھے۔ پس تم نے بوجھ کو اٹھایا جب دوسروں نے کمزوری دکھائی اور ان چیزوں کی طاقت کی جس کو انہوں نے ضائع کر دیا اور ان کی دیکھ بھال کی جس سے وہ لاپرواہی برتتے تھے۔ لڑائی میں جب وہ ہار جاتے تھے تو تم اس کی آگ کو بھڑکاتے تھے اور جب وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے تھے تو تم انہیں حوصلہ دیتے تھے۔ اور جب وہ عاجزی کا اظہار کرتے تو تم استقامت اور پائیداری دکھاتے اور اگر وہ بچھے رہ جاتے تو تم ان تک پہنچ جاتے اور وہ تمہارے ذریعہ وہ ان چیزوں تک پہنچ جاتے جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے۔

تم کافرن پر عذاب سخت اور مومنین کے لئے شادابی اور رحمت کے بادل کی طرح تھے۔ خدا کی قسم تمہارے ذریعہ سے نعمتیں جاری ہوئیں۔ اور تم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ اور تم نے ان میں سے اولین کو پایا۔ اپنے فضائل کے ساتھ دنیا سے گئے تمہاری جہت باطل نہیں ہوئی۔ تمہارا دل سنگ نہ ہوا۔ تمہاری بصیرت کمزور نہ ہوئی اور تمہارے نفس میں بزدلی نہ آئی۔

تمہاری مثال بہاڑ جیسی تھی جس کو تیز ہوا ہلا نہیں سکتی۔ اور گرج متزلزل نہیں کر سکتی اور تمہارے بارے میں

حضور اکرمؐ نے فرمایا تھا کہ تمہارا بدن گو کہ کمزور ہے مگر حکم خدا میں تم قوی ہو۔ اور اپنے نفس میں تواضع کرنے والے اللہ کے نزدیک برگزیدہ، زمین پر بزرگ، مومنین کے نزدیک صاحب جلال ہو۔ کوئی تم میں عیب نہیں نکال سکتا۔ کوئی تمہیں طعنہ نہیں دے سکتا کوئی بھی تم کو مسخر نہیں کر سکتا حدود خدا میں تم سخت ترین تھے۔ کمزور، ذلیل شخص تمہارے نزدیک قوی اور مضبوط ہوتا جب تک تم اس کو اس کا حق نہیں دلوادیتے۔ اور قوی اور مضبوط شخص تمہارے نزدیک ضعیف و ذلیل ہوتا جب تک تم اس سے مظلوم کا حق نہ چھین لیتے۔ قریب اور بعید تمہارے نزدیک برابر تھا۔ تمہاری شان حق و صدق و رفق ہے۔ تمہارا قول محکم اور حتمی ہے۔ تمہارا امر علم و حرم ہے تمہاری رائے علم و حرم ہے۔ تم نے راست پایا۔ تمہارے ذریعہ عذاب دور ہوا۔ تمہارے ذریعہ دین میں اعتدال آیا۔ اللہ نے اپنا امر ظاہر کیا چاہے کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرا۔ تمہارے ذریعہ ایمان قوی ہوا تمہارے ذریعہ اسلام اور مومنین ثابت قدم ہوئے۔ تم بہت آگے نکل گئے اور اسلام کے خاطر نہایت سختیوں کو برداشت کر لیا۔ تمہاری موت کی مصیبت لوگوں پر شدید ہے۔ تمہاری مصیبت آسمان والوں کے لئے عظیم ہے اور مخلوقات الہی کو تمہارے غم نے ہلا دیا ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ہم اللہ کے فیصلے پر راضی اور اس کے حکم کو تسلیم کرنے والے ہیں خدا کی قسم تمہارے مقام تک مسلمان کبھی نہیں پہنچ سکتے۔

تم مومنین کے لئے پناہ گاہ اور کافروں کے لئے غصین و غضب تھے۔ پس اللہ تم کو اپنے نبی سے لطف کرے اور اللہ ہمیں تمہاری پیروی کے اجر و ثواب سے محروم نہ کرے اور ہمیں تمہارے بعد گمراہی سے بچائے۔ پس اس شخص کا کلام سن کر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ کیا۔ پھر اس شخص کو تلاش کیا تو وہ نہ ملا۔

۳۔ بیان کیا مجھ سے جعفر بن جعفر بن مظفر علوی عمیری سرقندی نے ان سے جعفر بن محمد بن مسعود نے ان سے ان کے والد محمد بن مسعود نے ان سے جعفر بن احمد نے ان سے حسن بن علی بن فضال نے بیان کیا کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت خضرؑ نے آب حیات پیا ہے اور وہ صور پھونکنے کے وقت تک زندہ رہیں گے۔ وہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ اور سلام کرتے ہیں۔ ہم ان کی آواز سنتے ہیں مگر ان کو نہیں دیکھتے۔ جس جگہ ان کا ذکر کیا جاتا ہے وہ وہاں موجود ہوتے ہیں پس جو بھی ان کا ذکر کرے ان پر سلام کرے۔ وہ حج کے موقع پر مکہ آتے ہیں۔ حج کرتے ہیں اور عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں اور مومنوں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور جلد ہی اللہ تعالیٰ حضرت خضرؑ کو قائم آل محمدؑ کا مونس قرار دے گا۔ جس وقت کہ وہ حضرت لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوں گے تو تنہائی میں حضرت خضرؑ آپ کے رفیق ہوں گے۔

۵۔ انہی استاد کے ساتھ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی تو حضرت علیہ السلام تشریف لائے اور اس گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے جہاں حضرت

امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، جناب فاطمہ الزہرا اور حسین علیہم السلام موجود تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑے میں لپیٹا جا رہا تھا پس کہا: السلام علیکم اے اہل بیت محمدؐ، ہر ذی روح کے لئے موت کا ڈانٹ ہے۔ تمہارا اجر تم کو قیامت میں پورا پورا دیا جائے گا۔ جس کا کوئی مرتا ہے تو یقیناً خدا اس کا عوض اور قائم مقام ہے۔ وہی ہر مصیبت میں صبر عطا کرنے والا اور ہر اس امر کا تدارک کرنے والا ہے جو فوت ہو جاتا ہے لہذا خدا پر توکل کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو اور اللہ سے استغفار کرتا ہوں اپنے اور تمہارے لئے۔ اس وقت امیرالمومنین نے فرمایا یہ میرے بھائی حضرت خضر ہیں۔ تم کو پیغمبر کی تعزیت دینے آئے ہیں۔

۶۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن ابراہیم بن اسحاق نے ان سے احمد بن محمد ہمدانی نے ان سے علی بن حسن بن علی بن فضال نے ان سے ان کے والد نے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضور اکرمؐ کا انتقال ہوا تو حضرت خضر دروازے پر تشریف لائے اور تعزیت کی۔ اہل بیت نے ان کا کلام سنا مگر انہیں دیکھا نہیں۔ پس حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا یہ جناب خضر ہیں جو حضور اکرمؐ کا پرستہ دینے آئے ہیں۔

جناب خضر کا نام خضرویہ بن قابیل بن آدم تھا۔ بعض نے کہا کہ خضرون تھا۔ بعض کے مطابق جعدا تھا۔ ان کو خضر اس سبب سے کہتے ہیں کہ (مصنف فرماتے ہیں) جس خشک زمین پر وہ بیٹھتے تھے وہ سرسبز ہو جاتی تھی ان کی عمر تمام فرزندان آدم سے زیادہ ہے۔ صحیح یہ ہے کہ ان کا نام بلیا بن ملک بن عامر بن ارفخشذ بن سام بن نوح ہے۔ اس بارے میں ہم نے روایات اپنی کتاب "علل الشرائع والا حکام والا سباب" میں جمع کر دی ہیں۔

بیان کیا مجھ سے محمد بن ابراہیم بن اسحاق نے ان سے ابو احمد عبداللہ بن احمد بن محمد بن عیسیٰ نے ان سے علی بن سعید بن بشیر نے ان سے ابن کاسب نے ان سے عبداللہ بن میمون کی نے ان سے جعفر بن محمد علیہ السلام نے کہ ان سے ان کے والد بزرگوار علی بن حسین علیہ السلام نے ایک طویل حدیث بیان کی جس کے آخر میں یہ تھا کہ جب رسولؐ کا انتقال ہوا تو ایک آواز تعزیت آئی۔ جس کو سب سن رہے تھے مگر صاحب آواز کو دیکھ نہیں رہے تھے۔ اس نے کہا "السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ"۔ ہر ذی روح کے لئے موت کا ڈانٹ ہے۔ تمہارا اجر تم کو قیامت میں پورا پورا دیا جائے گا۔ جس کا کوئی مرتا ہے تو یقیناً خدا اس کا عوض اور قائم مقام ہے۔ وہی ہر مصیبت پر صبر عطا کرنے والا ہے اور ہر اس امر کا تدارک کرنے والا ہے جو ضائع ہو جاتا ہے۔ لہذا خدا پر توکل کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو کیونکہ محروم تو وہ ہے جو ثواب خدا سے محروم ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ"۔ پس حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: کیا جانتے ہو یہ کون تھے؟ سب نے کہا: نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔

اس کتاب کے مصنف فرماتے ہیں کہ ہمارے اکثر مخالفین حضرت خضر علیہ السلام سے متعلق روایات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں مگر نظروں سے پوشیدہ ہیں اور جہاں ان کا ذکر کیا جاتا ہے حاضر ہوتے

ہیں۔ (ہمارے مخالفین) نہ تو ان کی طولِ حیات کے منکر ہیں اور نہ ان احادیث کو خلافِ عقل قرار دیتے ہیں۔ مگر جتنا اب قائم آلِ محمد علیہ السلام کی غیبت و طویلِ حیات پر اعتراض کرتے ہیں اور وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ بات ہے کہ جب تک صور پھوٹنے کا دن آئے اس وقت تک ان کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ وہ وقت معلوم تک ابلیس ملعون کی غیبت و حیات کو مانتے ہیں مگر بھت خدا کی غیبت و طولِ عمری کو نہیں مانتے حالانکہ آپ کے بارے میں آپ کے نام و نسب پر وضاحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے احادیث صحیحہ وارد ہوئی ہیں۔

وہ روایات جو ذوالقرنین کے بارے میں وارد ہوئی ہیں

۱۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے ان سے سعد بن عبد اللہ نے ان سے احمد بن محمد بن عیسیٰ نے ان سے علی بن نعمان نے ان سے ہارون بن خارجہ نے ان سے ابو بصیر نے ان سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے بیان کیا کہ ذوالقرنین نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ وہ خدا کو دوست رکھتے تھے خدا بھی ان کو دوست رکھتا تھا۔ وہ خدا کے لئے مخلص تھے۔ اور خدا ان کا خیر خواہ تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ لوگوں نے ان کے سر کے ایک جانب ضربت لگائی۔ پس وہ ایک عرصے تک غائب رہے۔ پھر ان کے پاس آئے تو انہوں نے ان کے سر کی دوسری جانب ضرب لگائی۔ تم میں (امام قائم علیہ السلام) انہی کی سنت (یعنی غیبت) پر ہوں گے۔

۲۔ بیان کیا مجھ سے احمد بن محمد بن حسن بزاز نے ان سے محمد بن یحییٰ بن یوسف نے ان سے احمد بن عبد اللہ بن عطار دی نے ان سے یونس بن بکیر نے ان سے محمد بن اسحاق بن یسار مدنی نے ان سے عمرو بن ثابت نے ان سے سماک بن حارث نے ان سے بنو اسد کے ایک شخص نے جس نے حضرت علی علیہ السلام سے سوال کیا: ذوالقرنین کیسے اس قابل ہوئے کہ مشرق اور مغرب پہنچے؟ آپ نے فرمایا: خدا نے ان کے لئے ابر کو مسخ کیا تھا اور اسباب کو ان کے لئے نزدیک کیا تھا اور نور کو ان کے لئے کشادہ کیا تھا کہ وہ رات کے وقت بھی اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح دن کے وقت دیکھتے تھے۔

۳۔ بیان کیا مجھ سے احمد بن محمد بن یحییٰ عطار نے ان سے ان کے والد نے ان سے حسین بن حسن بن ابان نے ان سے محمد بن اورمہ نے ان سے قاسم بن عروہ نے ان سے یزید الارجانی نے ان سے سعد بن طریف نے ان سے اصبح بن جباتہ نے کہ جس وقت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام منبر پر تھے تو ابن ابکوا کھڑا ہوا اور کہا: یا امیر المومنین فرمائیے کہ ذوالقرنین نبی تھے یا ملک تھے۔ ان کے سنگ سونے کے تھے یا چاندی کے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ

نہ ملک تھے نہ نبی تھے۔ ان کے سینگ نہ سونے کے تھے نہ چاندی کے۔ وہ اللہ کے ایک بندے تھے۔ جو خدا کو دوست رکھتے تھے خدا بھی ان کو دوست رکھتا تھا۔ وہ خدا کے لئے مخلص تھے اور خدا ان کا خیر خواہ تھا۔ ان کو اس لئے ذوالقرنین کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو خدا کی طرف بلایا لوگوں نے ان کے سر کے ایک جانب ضربت لگائی پس وہ ایک عرصہ تک قوم سے غائب رہے۔ پھر وہ ان کی طرف پلٹے تو قوم نے ان کے سر کے دوسری جانب ضربت لگائی اور تمہارے درمیان بھی ذوالقرنین کی مثال موجود ہوگی۔

۴۔ بیان کیا مجھ سے ابو طالب مظفر بن جعفر بن مظفر علوی سرقندی نے ان سے جعفر بن محمد بن مسعود نے ان سے ان کے والد نے ان سے محمد بن نصیر نے ان سے محمد بن عیسیٰ نے [ان سے حماد بن عیسیٰ نے] ان سے عمرو بن شمر نے ان سے جابر بن یزید جعفی نے ان سے جابر بن عبداللہ انصاری نے کہ رسالتاً نے فرمایا: ذوالقرنین ایک صالح بندے تھے جن کو خدا نے اپنے بندوں پر بخت قرار دیا تھا انہوں نے اپنی قوم کو دین حق کی طرف بلایا۔ اور ان کو گناہوں سے پرہیز کا حکم دیا۔ لوگوں نے ان کے سر کی ایک جانب ضربت لگائی تو وہ اپنی قوم سے ایک عرصے کے لئے غائب ہو گئے یہاں تک کہ لوگوں نے سمجھا کہ وہ مر گئے یا ہلاک ہو گئے۔ حالانکہ وہ کسی صحرا میں گم ہو گئے پھر ظاہر ہوئے اور اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو ان کی قوم نے ان کے سر کی دوسری جانب ضربت لگائی۔ یقیناً تمہارے درمیان میں ایک شخص ہے جو ان کی سنت پر ہوگا۔ ذوالقرنین کو حق تعالیٰ نے زمین پر متمکن کیا اور ہر چیز کا ایک سبب ان کو حطا فرمایا۔ وہ دنیا میں مغرب سے مشرق تک پہنچے اور اللہ جلد ان کی سنت کو ہمارے فرزندوں میں قائم (علیہ السلام) میں جاری کرے گا جو مغرب اور مشرق کو طے کرے گا جہاں تک کہ کوئی صحرا، میدان اور پہاڑ جو ذوالقرنین نے طے کیا تھا باقی نہ بچے گا کہ وہ طے نہ کرے۔ اور زمین کے فرماؤں اور مہادن کو خدا ان کے لئے ظاہر کرے گا اور اس کی مدد کرے گا دلوں میں اس کا رعب و دہدہ ڈالے گا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ قلم و جوہر سے بھر چکی ہوگی۔

وہ احادیث جو ذوالقرنین کے سیاق و سباق کے حامل روایات میں سے ہیں

۵۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن ابراہیم بن اسحاق نے ان سے عبدالعزیز بن یحییٰ بن سعید بصری نے ان سے محمد بن عطیہ نے ان سے عبداللہ بن مراد سعید بصری نے ان سے اشام بن جعفر بن حماد نے ان سے عبداللہ بن سلیمان نے جو کتب سماوی کا قاری تھا کہ میں نے بعض کتب سماوی میں پڑھا ہے کہ حضرت ذوالقرنین اسکندریہ کے ایک شخص تھے۔ ان کی والدہ وہاں کی مسخر خواتین میں سے ایک تھیں۔ اور سوائے ذوالقرنین کے ان کے کوئی اور فرزند نہ تھا۔ اور ان کو

اسکندروس کہتے تھے۔ وہ بچپن سے نیک، صاحب ادب، صاحب خلق، جمیل اور پاک نفس انسان تھے۔ یہاں تک کہ جوان ہوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ آفتاب سے قریب ہو گئے ہیں اور آفتاب کے دونوں قرن یعنی دونوں کناروں پر قابض ہو گئے ہیں۔ جب اس خواب کو انہوں نے اپنی قوم سے بیان کیا تو قوم نے ان کا نام ذوالقرنین رکھا۔ اس خواب کے بعد ان کی ہمت بلند ہوئی اور ان کا شہرہ ہوا۔ اور اپنی قوم میں صاحبِ عزت ہو گئے۔

سب سے پہلی بات جس کا انہوں نے ارادہ کیا تھا وہ یہ تھی کہ میں اللہ عزوجل کے لئے مطیع اور مسلمان ہوں۔ پھر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی اور تمام قوم ان کے رعب اور دبدبہ کے سہم مسلمان ہو گئی۔ انہوں نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ ایک مسجد میرے لئے تعمیر کرو۔ ان لوگوں نے دل و جان سے قبول کیا۔ انہوں نے فرمایا: اس مسجد کی لمبائی چار سو ہاتھ، چوڑائی دو سو ہاتھ۔ اس کے دیوار کی چوڑائی بائیس ہاتھ۔ اور اس کی بلندی ایک سو ہاتھ ہونا چاہیے۔ لوگوں نے کہا: اے ذوالقرنین ایسی لکڑی کہاں سے لائی جائے جو دونوں دیواروں کے درمیان رکھی جاسکے؟ آپ نے کہا: جب دونوں دیواروں کی تعمیر سے فارغ ہو جاؤ اس میں اتنی مٹی ڈالو کہ دیواروں کے برابر ہو جائے۔ پھر ہر مومن کو تھوڑا تھوڑا سونا اور چاندی ان کے حال کے موافق دے دو کہ رزق روزہ کریں۔ پھر اس خاک کے ساتھ مخلوط کرو اور مسجد کو جب مٹی سے بھر لو تو اس مٹی پر چڑھ کر تانبا اور پتیل وغیرہ جس کی چاہو تختیاں بناؤ اور اسی سے چھت کو آسانی سے درست کر لو۔ جب فراغت ہو جائے تو غزا اور مساکین کو اس مٹی کو باہر لے جانے کے لئے بلاؤ وہ لوگ اس چاندی سونے کی خواہش میں جو مٹی میں ملی ہوئی ہے، بخشش اس مٹی کو باہر لے جانے میں ایک دوسرے سے سہقت اور عجلت کریں گے۔

پس لوگوں نے مسجد کی تعمیر کی، مساکین نے مٹی نکال دی، چھت درست ہوئی اور فقراء اور مساکین بھی خوش حال ہوئے۔ پھر ذوالقرنین نے اپنے لشکر کے چار حصے کئے اور ہر حصے میں دس ہزار افراد قرار دینے اور ان کو شہروں میں پھیلا دیا۔ اور شہروں میں گھومنے اور سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ جب ان کی قوم نے ان کے ارادہ کے خبر پائی تو ان کے پاس جمع ہوئے اور کہنے لگے: اے ذوالقرنین ہم تم کو خدا کی قسم دیتے ہیں کہ ہم کو اپنی خدمت سے محروم نہ کرنا اور دوسرے شہروں میں قیام نہ کر لینا کیونکہ ہم لوگ تمہاری زیارت کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اس لئے کہ تم ہمارے شہر میں پیدا ہوئے ہو اور ہم میں تمہاری نشوونما اور تربیت ہوئی ہے۔ ہمارے اہوال اور نفوس سب تمہارے لئے حاضر ہیں۔ جو حکم چاہو ہم کو دو۔ تمہاری والدہ بھی ضعیف ہیں۔ ان کا حق تم پر تمام خلق سے زیادہ ہے۔ تمہارے لئے مناسب نہیں ہے کہ ان کی نافرمانی اور مخالفت کرو۔ ذوالقرنین نے فرمایا: خدا کی قسم تمہارا قول درست اور تمہاری رائے تمہارے مناسب ہے۔ لیکن میں اس شخص کے مانند ہو رہا ہوں جس کے دل اور جگر دگوش کو قبضہ میں کر لیا گیا ہو۔ اور جس کو سامنے سے قتل کرتے اور پیچھے سے اس کو بھگاتے ہیں۔ اور وہ نہیں جانتا کہ اس کو کس غرض سے اور کہاں لئے جاتے ہیں لیکن اے میری قوم کے لوگو۔ آؤ اور اس مسجد میں داخل ہو اور سب کے سب مسلمان ہو جاؤ اور میری

مخالفت نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔

ذوالقرنین نے اسکندریہ کے رئیس کو طلب کیا اور کہا کہ مسجد کو آباد رکھنا اور میری ماں کو میری جدائی پر دلاسا دیتے رہنا۔ یہ کہہ کر ذوالقرنین روانہ ہو گئے ان کی والدہ ان کی جدائی میں بہت گریہ و زاری کرتی تھیں۔ اور ان کا رونام نہ ہوتا تھا۔ ایک رئیس نے ان کی والدہ کی تسلی کے لئے ایک تدبیر تجویز کی۔ ایک بڑی عید تزییب دی اور اعلان کرایا کہ لوگوں میں جا کر ندا کرے کہ ہمارے رئیس نے تم کو آگاہ کیا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں روز حاضر ہونا ہے۔ جب وہ دن آیا۔ اس کے منادی نے ندا کی کہ جلد آؤ لیکن وہ شخص اس عید میں شریک نہ ہو جو دنیا کی کسی مصیبت یا بلا میں گرفتار ہو۔ ہاں وہ شخص شرکت کرے جو بلا و مصیبت سے محفوظ ہو یہ سن کر تمام اشخاص کمرے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو بلا و مصیبت سے خالی ہو اور ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی بلا میں یا اپنے کسی دوست یا عزیز کی موت کے غم میں مبتلا نہ ہو۔ جب ذوالقرنین کی والدہ نے سنا تو ان کو یہ قضیہ پسند آیا مگر یہ نہ سمجھ سکیں کہ اس سے اس رئیس کی کیا عرض ہے۔ پھر چند روز کے بعد رئیس نے منادی کو بھیجا جس نے ندا کی کہ رئیس تم کو حکم دیتا ہے کہ فلاں روز حاضر ہونا ہے۔ لیکن وہ لوگ نہ آئیں جن پر کوئی بلا و مصیبت نہ ہو۔ اور جن لوگوں کا دل کسی درد سے رنجیدہ نہ ہو۔ اور وہ لوگ بھی نہ آئیں جو کسی بلا میں گرفتار نہ ہوں۔ کیونکہ اس شخص کے ساتھ خیر نہیں ہے جو کسی بلا میں مبتلا نہ ہو۔ جب یہ ندا دی گئی تو لوگوں نے کہا کہ اس مرد نے پہلے بھل گیا۔ آخر پشیمان اور شرمندہ ہوا اور اپنی غلطی کا تدارک کیا اور اب اپنا عیب چھپاتا ہے جب سب لوگ جمع ہوئے تو اس نے تقریر کی:

اے لوگو! میں نے تم لوگوں کو اس لئے جمع نہیں کیا کہ دعوت و ضیافت کی جائے بلکہ اس لئے تم کو جمع کیا ہے کہ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں کچھ باتیں کروں۔ آدم کو یاد کرو جن کو خدا نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور ان میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو ان کے لئے سجدہ کا حکم دیا۔ اور ان کو اپنی بہشت میں ساکن کیا۔ اور ان کو اس کرامت سے نوازا جس سے خلق میں کسی کو نہیں نوازا تھا۔ پھر ان کو سخت ترین بلا میں جو دنیا میں ہو سکتی ہے مبتلا کیا کہ ان کو بہشت سے نکالا اور وہ مصیبت وہ تھی کہ کوئی مصیبت اس سے سخت نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے میں اور ان کے فرزند کو ذبح ہونے میں اور حضرت یعقوب کو رنج و اندوہ میں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو غلامی میں اور حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو رنج میں حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل ہونے میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسیر ہونے میں اور بہت سی مخلوق کو مصائب میں جن کی تعداد خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا مبتلا کیا۔

پھر کہا کہ آؤ چلیں اسکندروس کی ماں کو تسلی دیں۔ ہم دیکھیں کہ ان کا صبر کس قدر ہے کیونکہ ان کی مصیبت ان کے فرزند کے غم میں سب سے زیادہ ہے۔ چنانچہ وہ لوگ ان کے پاس گئے اور کہا آج اس مجمع میں آپ موجود تھیں

اور ان باتوں کو آپ نے سنا جو مجلس میں بیان کی گئیں۔ انہوں نے کہا: تمہارے تمام امور کی میں نے اطلاع پائی اور تمہاری تمام باتوں کو میں نے سنا تمہارے درمیان کوئی نہ تھا جس کی مصیبت اسکندروس کی مفارقت میں مجھ سے زیادہ ہوتی اب خدا نے مجھے صبر عطا کر دیا ہے۔ اور مجھے راضی کیا اور میرے دل کو مضبوط کر دیا۔ مجھے امید ہے کہ میرا اجر میری مصیبت کے مطابق ہوگا۔ اور تمہارے لئے تمہاری مصیبت اور اس غم درج کے بقدر اجر کی امیدوار ہوں جو تم کو تمہارے بھائی کی جدائی میں ہے۔ اور اس نیت اور کوشش کے بقدر اجر کی امید رکھتی دوں جو تم نے اس کی ماں کو تسلی دینے میں کی اور امید رکھتی ہوں کہ خدا تم کو اور مجھے بخش دے گا۔ اور مجھ پر اور تم پر رحم کرے گا۔ جب اس گروہ نے اس عاقلہ جلید کا صبر جمیل کا مشاہدہ کیا تو خوش ہوئے اور واپس ہو گئے۔ ذوالقرنین مغرب کی جانب سیر کرتے ہوئے بہت دور چلے گئے اور ان کا لشکر اس وقت فقرا اور مساکین کا تھا۔ یہاں تک کہ خدا نے ان کو وحی کی کہ تم جمع خلفائے مشرق سے مغرب تک میری حجت ہو۔ یہ ہی تمہارے خواب کی تعبیر ہے۔

ذوالقرنین نے کہا: اے پروردگار تو مجھے اس امر عظیم کی تکلیف دیتا ہے جس کی قدر تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پس مجھے بتا کہ میں اس عظیم گروہ کا کس لشکر سے مقابلہ کروں اور کس سامان سے ان پر غالب ہو سکتا ہوں اور کس تدبیر سے ان کو مطیع کروں اور کس صبر کے ساتھ ان سختیوں کو برداشت کروں اور کس زبان سے ان سے گفتگو کروں اور ان کی مختلف زبانوں کو کیونکر سمجھوں اور کس کان سے ان کی باتیں سنوں کس طرح ان کی گہرائی تک پہنچوں اور کس دلیل کی بنیاد پر ان سے بحث کروں اور کس دل سے ان کے مطلب کا اور آگ کروں اور کس حکمت سے ان کے معاملات کی تدبیر کروں اور کس حلم سے ان کی زیادتیوں پر صبر کروں اور کس عدالت سے ان کا انصاف کروں اور کس معرفت سے ان کے درمیان حکم کروں کس علم سے ان کے امور کو مضبوط کروں اور کس ذہن کے ساتھ ان کا شمار کروں اور کس لشکر سے ان سے جنگ کروں اس لئے کہ اے میرے رب ان میں یقیناً کوئی ایک چیز بھی میرے پاس نہیں ہے۔ لہذا مجھے ان پر قوت دے۔ یقیناً تو مہربان پروردگار ہے۔ تو کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اور نہ اس کی قوت سے زیادہ بار ڈالتا ہے۔

خدا نے ان کو وحی کی کہ منقریب طاقت و قوت تم کو اس امر کے لئے دوں گا جس کی تکلیف تم کو دی ہے۔ اور تمہارے فہم میں وسعت دوں گا تاکہ سب چیزوں کو سمجھ سکو اور تمہارے سینے کو کشادہ کروں گا کہ تمام چیزوں کو سن سکو تمہاری زبان کو ہر چیز پر گویا کروں گا اور میں تمہارے کان کھول دوں تو تمہیں سب کچھ سنائی دے گا اور تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دوں تو سب کچھ دیکھ سکو گے اور تمہارے لئے امور کا احصاء کروں گا۔ اور کوئی چیز تم سے ضائع نہ ہوگی اور تمہارے لئے تمہارے امور کی حفاظت کروں گا تاکہ کوئی چیز تم پر نکلے نہ رہے۔ اور تمہاری پشت قوی کروں گا تاکہ کسی خطرہ سے تم نہ ڈرو اور تم میں ایسا رعب و دہش پیدا کروں گا کہ تم کسی چیز سے ہراساں نہ ہو اور تمہاری

رانے کو درست کروں گا تاکہ تم سے غلطی نہ ہو اور تمہارے جسم کو تمہارے لئے مسخر کر دوں گا تاکہ تمام چیزوں کا تم احساس کر سکو اور روشنی اور تاریکی کو بھی تمہارے لئے مسخر کر دوں گا اور ان کو تمہارے دو لشکر قرار دوں گا۔ اور روشنی تمہاری ہدایت اور راہنمائی کرے گی اور تاریکی تمہاری حفاظت کرے گی اور قوموں کو تمہارے پیچھے سے تمہارے سامنے جمع کرے گی۔

غرض ذوالقرنین اپنے پروردگار کے پیغام کے ساتھ روانہ ہوئے خدا نے ان کی مدد کی جو کچھ وعدہ کیا تھا پورا کیا۔ اور وہ چلے تاکہ اس مقام پر پہنچیں جہاں آفتاب غروب ہوتا ہے۔ ان کے پاس جو قوم پہنچتی ہے ان کو خدا کی طرف دعوت دیتے جو قبول کر لیتا ذوالقرنین اس سے راضی ہوتے اور جو قبول نہیں کرتا تھا ذوالقرنین اس پر ظلمت مسلط کر دیتے تھے جو ان کے شہروں، قریوں، مکانوں اور منزلوں کو تاریک کر دیتی تھی ان کی آنکھوں کو ڈھانپ دیتی تھی۔ اور ان کے منہ ناک، کان اور پیٹ میں بھر جاتی تھی اور وہ سب اسی طرح کچھ عرصہ تک پریشان رہتے آخر کار دعوت الہی کو قبول کر لیتے تھے اور آہ و زاری کرتے ہوئے ان کے پاس آتے تھے یہاں تک کہ وہ غروب آفتاب کے مقام پر پہنچتے وہاں ان کے پاس وہ قوم آئی جس کا ذکر حق تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے اور ذوالقرنین نے اس قوم کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو پہلے دوسری قوموں کے ساتھ کرتے آئے تھے۔ یہاں تک کہ مغرب کے اطراف سے فارغ ہوئے اور اتنی جماعتوں سے ملاقات کی جن کی تعداد کا سوائے خدا کے کسی کو علم نہیں ہو سکتا اور ان کو وہ قوت و شان و شوکت حاصل ہوتی جو کسی کو بغیر تائید خداوندی کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور ان کے لشکر میں مختلف زبانوں کے بولنے والے اور طرح طرح کی خواہشات رکھنے والے اور پراگندہ قلب تھے۔ پھر خدمات میں آٹھ شبانہ روز چلتے رہے اور ان کے اصحاب ان کی طرف متوجہ تھے یہاں تک کہ ایک پہاڑ پر پہنچے جو تمام زمین کو گھیرے ہوئے تھا۔ ناگاہ ایک فرشتہ کو دیکھا جو پہاڑ سے پھٹا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا: پاک ہے میرا پروردگار اس وقت سے زمانے کے ختم ہونے تک، پاک ہے میرا پروردگار دنیا کی ابتداء سے اس کے خاتمہ تک، پاک ہے میرا پروردگار جو اس جگہ سے عرش تک کے لئے کافی ہے، پاک ہے میرا پروردگار جو ظلمت کا خاتمہ نور پر کرتا ہے یہ سن کر ذوالقرنین سجدے میں گر پڑے اور جب تک خدا نے ان کو قوت عطا نہ کی اور مدد نہ عطا کی اس فرشتہ کو دیکھنے کے لئے سر نہ اٹھایا۔ فرشتہ نے کہا: اے فرزند آدم! تجھ کو ایسی طاقت کیونکر ملی کہ تو اس جگہ پہنچا حالانکہ فرزند ان آدم میں سے کوئی بھی اس جگہ تجھ سے پہلے نہیں پہنچا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے اس نے اس مقام تک آنے کی قوت اور طاقت دی ہے جس نے تجھے اس پہاڑ پر قابض ہونے کی طاقت عطا کی ہے۔ جو تمام زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ فرشتہ نے کہا: تو نے سچ کہا ذوالقرنین نے کہا: مجھے اپنے متعلق بتاؤ۔ فرشتہ نے کہا: میں اس پہاڑ پر موکل ہوں اور یہ تمام زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور اگر یہ پہاڑ نہ ہوتا تو زمین اپنے باشعور سمیت ہلتی اور سرنگوں ہو جاتی اور روئے زمین پر کوئی پہاڑ اس سے زیادہ بڑا نہیں ہے اور یہ پہلا پہاڑ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر خلق

کیا۔ اور اس کی چوٹی آسمان دنیا سے ملی ہوئی ہے اور اس کی جز ساتویں زمین میں ہے۔ اور تمام زمین کو مانند حلقہ کے گھیرے ہوئے ہے۔ اور روئے زمین کے تمام شہروں کی جز اسی پہاڑ سے تعلق رکھتی ہے۔ جب خدا چاہتا ہے کہ کسی شہر میں زلزلہ آئے تو میری جانب وحی کرتا ہے۔ میں اس شہر کی جز کو حرکت دیتا ہوں جو اس شہر تک پہنچتی ہے اور اس شہر کو اس جز کے ذریعہ سے زلزلہ میں لاتا ہوں۔

ذوالقرنین نے جب چاہا کہ واپس ہوں تو اس فرشتہ سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کرو۔ اس فرشتہ نے کہا: کل کی روزی کا غم نہ کرو۔ آج کا کام کل پر نہ چھوڑو۔ جو چیزیں نسیح ہو جائیں ان کے لئے غم نہ کرو۔ رفیق و مدارات کے ساتھ عمل کرو۔ جبار، ظالم اور تکبر کرنے والے نہ بنو۔

یہ سن کر ذوالقرنین اپنے اصحاب کی طرف واپس ہوئے اور مشرق کی جانب سفر اختیار کیا اور جو گروہ مشرق کی جانب آباد تھے ان کی تلاش کرتے رہے اور پھر ہدایت کرتے رہے اسی طریقہ سے جس طریقہ سے مغرب کی جانب کی امتوں کی ہدایت کی تھی اور ان جماعتوں کو مطیع کیا تھا۔ جب مشرق و مغرب سے فارغ ہوئے تو اس کی جانب متوجہ ہوئے جس کا تذکرہ پروردگار نے قرآن میں کیا ہے۔ اور اس جگہ ایسے لوگوں سے ملاقات کی جو کوئی زبان نہیں سمجھتے تھے اور ان لوگوں کے درمیان ایک قوم آباد تھی جس کو یاہوج ماہوج کہتے تھے جو چوہ پاؤں سے مشابہ تھے۔ کھاتے پیتے تھے۔ ان کے بچے بھی ہوتے تھے۔ ان میں نر اور مادہ تھے۔ ان کا چہرہ، جسم اور خلقت انسانوں سے مشابہ تھی۔ لیکن قد میں بہت چھوٹے ہوتے تھے۔ بلکہ اطفال کے برابر تھے۔ اور پانچ بالشت (تقریباً تین فٹ) سے زیادہ بڑے نہیں ہوتے تھے اور خلقت و صورت میں سب کے سب مساوی ہوتے۔ عریاں جسم اور ننگے پاؤں بہتے۔ نہ کپڑے پہنتے نہ پیروں میں جوتے رکھتے۔ اونٹ کے مانند ان کے کوہان ہوتی جس سے ان کی سردی اور گرمی میں حفاظت ہوتی۔ ان کے دو کان ہوتے ایک میں اندر اور باہر بال ہوتے اور دوسرے میں اندر اور باہر کوہان ہوتے تھے۔ ان کے ناخن کے بجائے جنگل ہوتے تھے۔ درندوں کی طرح ان کی دانت اور کانٹے ہوتے تھے۔ جب وہ سوتے تو اپنے ایک کان کو ہٹھا لیتے اور دوسرے کو اڑھ لیتے تھے جو ان کے جسم کو سر سے پیر تک چھپا لیتے تھے۔ ان کی خوراک دریا کی پھلیاں تھیں۔ ہر سال ان پر بادل سے پھلیوں کی بارش ہوتی تھی۔ جس سے ان کی زندگی آسانی اور فارغ البالی سے بسر ہوتی تھی۔ جب وہ وقت آتا تھا تو پھلیوں کے برسنے کے منتظر ہوتے تھے جس طرح انسان بارش کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر پھلیوں کی بارش ہو جاتی تھی تو ان میں فرادانی ہوتی اور وہ موٹے تازے ہو جاتے ان کے اولادیں پیدا ہوتیں اور زیادہ ہو جاتے اور ایک سال تک وہ پھلیاں ان کی خوراک ہوتیں۔ پھر وہ کوئی چیز اس کے علاوہ نہیں کھاتے تھے۔ اور اس قدر زیادہ ہو جاتے کہ ان کی تعداد سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور اگر کسی سال پھلیوں کی بارش نہ ہوتی تو وہ سب قحط کا شکار ہوتے۔ بھوک سے پریشان ہوتے ان کی نسل اور اولادیں ختم ہو جاتیں۔ ان کی عادت تھی کہ وہ چوہ پاؤں کی طرح چلتے

اور جہاں چاہتے جماع کرتے۔ جس ساں ان پر پھیلیاں نہیں برستی تھیں وہ جموعے ہوتے تھے تو شہروں کی جانب رخ کرتے تھے۔ پس جس جگہ پہنچ جاتے فساد کرتے اور کسی چیز کو نہیں چھوڑتے تھے۔ ان کی جہاں مذی دلوں اور تمام آفتوں سے بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اور وہ سب جس زمین کی طرف رخ کرتے وہاں کے باشندے اپنے مکانوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتے اور اس زمین کو خالی کر دیتے۔ کیونکہ کوئی ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ان سے دفاع کر سکتا تھا وہ جس مقام پر جاتے وہ وہاں اس طرح چھا جاتے تھے کہ کسی کو وہاں پر رکھنے کی جگہ نہ ملتی تھی اور کسی شخص کے لئے بیٹھنے کی جگہ بھی میر نہ ہوتی تھی۔ خدا کی مخلوق میں کوئی ان کی تعداد نہیں جانتا تھا۔ اور ممکن بھی نہ تھا کہ کوئی ان کی طرف نظر کر سکے یا ان کے پاس جاسکے کیونکہ وہ نہایت کرہہ النظر ہوتے، وہ نجاست اور گندگی سے آلودہ رہتے تھے اسی لئے لوگوں پر غالب ہو جاتے تھے۔ جس وقت وہ کسی طرف رخ کرتے تھے ان کی آواز سو فرسخ کی مسافت سے آندھی اور سخت بارش کی آواز کی طرح ان کی تعداد کی زیادتی کے سبب سے سنائی دیتی تھی۔ اور جس شہر میں آتے ان کا ایک ہمہہ مثل شہد کی مکھیوں کی آواز کے بلکہ اس سے زیادہ شدید اور سخت ہوتا تھا کہ ان کی آواز کے مقابلہ میں کوئی آواز نہیں سنائی دے سکتی تھی جب وہ کسی طرف کا رخ کرتے تھے تو تمام جانور اور درندے اس جگہ ہر طرف سے بھاگ جاتے تھے کیونکہ اس ساری زمین پر وہ بھر جاتے تھے اور کسی دوسری مخلوق کے لئے جگہ نہ رہتی تھی۔ ایک امر ہو سب سے زیادہ عجیب تھا وہ یہ کہ ان میں سے ہر ایک اپنی موت کا وقت جانتا تھا۔ کیونکہ ان کے نزدیک وہاں سے کوئی اس وقت تک نہیں مرنے دیتا تھا جب تک کہ اس کے ایک ہزار بچے نہ پیدا ہو جاتے۔ جب ایک ہزار بچے پیدا ہو جاتے تو وہ سمجھ لیتا کہ اب مرنا ہے۔ پھر وہ ان کے درمیان سے نکل جاتا اور مرنے کے لئے ہاتھ پیر پھیلاتا تھا۔ پس یہ ان کا قصہ ہے اس دن سے جب اللہ نے انہیں خلق کیا اس دن تک جب وہ فنا کر دیئے جاتے ہیں۔

ایک مرتبہ وہ سب ذوالقرنین کے زمانے میں شہروں میں وارد ہوئے اور ایک مقام سے دوسرے مقام پر جاتے اور آبادی کو جہاں و برباد کرتے پھرتے تھے۔ اور ایک قوم کے پاس سے دوسری قوم کا رخ کرتے اور باشندوں کو ان کے شہروں سے نکالتے رہتے تھے۔ اور جس طرف متوجہ ہوتے تھے دوسری طرف رخ نہیں پھیرتے تھے اور واپسی یا بائیں جانب متوجہ نہیں ہوتے تھے۔

جب اس قوم نے جس کے پاس ذوالقرنین پہنچے تھے ان کی آواز سنی سب کے سب ذوالقرنین کے پاس جمع ہوئے اور فریاد کی کہ ہم نے سنا ہے جو کچھ خدا نے آپ کو عطا فرمایا ہے مثل بادشاہی اور ملک و سلطنت کے اور جو رعب و دبدبہ اور ہیبت اس نے آپ کو بخشی ہے اور نور و خدمت اور اہل زمین کے لشکروں سے جس طرح آپ کی مدد کی ہے۔ ہم یا جو ج مانوج کے ہمسایہ واقع ہوتے ہیں اور ان کے اور ہمارے درمیان ان پہاڑوں کے سوا کوئی اور آواز اور روک نہیں ہے۔ ہمارے اور ان کے درمیان ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سے راہ ہے اگر وہ ہماری طرف رخ کریں گے تو ہم کو

ہمارے شہروں سے نکال دیں گے ہم ان کے سامنے ٹھہرنے اور مقابلہ کرنے کی تاب نہیں رکھتے کیونکہ وہ بہت زیادہ ہیں انسانوں کی سی صورت رکھتے ہیں لیکن مثل چوپایوں کے اور درندوں کے گھاس کھاتے ہیں اور حیوانوں اور جانوروں کو درندوں کی طرح بھاجا ڈالتے ہیں۔ سانپ، بگھو اور تمام حشرات الارض بلکہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہر ذی روح کو کھا جاتے ہیں۔ اور مخلوقات خدا میں سے کوئی مخلوق ان سے زیادہ نہیں ہوتی۔ ہم جانتے ہیں کہ زمین ان سے بھر جائے گی اور وہ اس پر بسنے والوں کو نکال دیں گے اور زمین میں فساد کریں گے۔ ہم ہر وقت ان سے خائف رہتے ہیں کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سے ہماری طرف آئیں گے۔ خدا نے آپ کو تدبیر و قوت عطا کی ہے کہ اس کے مثل تمام عالم میں کسی کو نہیں عطا کی ہے۔ کیا ہم لوگ آپ کے لئے کچھ جمع کریں کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا خدا نے جو کچھ تجھے عطا کیا ہے۔ اس ہتھوڑے سے بہتر ہے جو تم لوگ مجھے دو گے۔ تم مجھے اپنی قوت و طاقت سے مدد کرو تاکہ تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار تیار کروں۔ پھر آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ لوہے کی سلیں لاؤ۔

ان لوگوں نے کہا اتنا لوہا اور تانبا ہم لوگ کہاں سے لائیں جو اس دیوار کے لئے کافی ہو۔ فرمایا کہ میں لوہے اور تانبے کی کانیں تم پر ظاہر کر دیتا ہوں پس ان کے لئے دونوں پہاڑوں پر ضرب لگائی اور انہیں بھاجا دیا پس اس میں سے لوہے اور تانبے کی کانیں نکل آئیں۔ لوگوں نے پوچھا ہم کس طرح ان میں سے لوہے اور تانبے کو کانیں گے۔ پس ان کے لئے دوسرے معدن کو زمین کے نیچے سے باہر نکالا جس کو سامور (الماس) کہتے تھے۔ وہ تمام چیزوں سے زیادہ سفید تھا اس میں سے جس قدر بھی کسی چیز پر ڈال دیتے تھے وہ اس کو پگھلا دیتا تھا۔ اس سے ہتھوڑے تیار کئے جس سے وہ لوگ معدنوں میں کام کرتے تھے اور ایسے آلات سے حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کے لئے ستونوں اور ان ہتھوروں کو کاٹتے تھے جو شیاطین ان کے لئے کانوں سے لاتے تھے۔ عرض کہ ان لوگوں نے تانبا اور لوہا ذوالقرنین کے پاس اس قدر جمع کیا جو اس دیوار کے لئے کافی تھا۔ پھر لوہے کو پگھلایا اور اس کے ٹکڑے ہتھور کی سلوں کی طرح بنائے اور دیوار میں ہتھور کے بجائے ان ہی ٹکڑوں کو لگایا اور سٹی کے بجائے تانبے کو پگھلا کر اس پر ڈالا پھر دونوں صدفوں کے درمیان فاصلے کو ناپا تو دیکھا کہ ان میں ۳۰ میل کا فاصلہ ہے۔ اب اس کے لئے ایک بنیاد کھودی جہاں تک کہ اس کی گہرائی اتنی ہو گئی کہ پانی نکل آیا اور اس کی چوڑائی کو ایک میل کر دیا اور اس میں لوہے کے ٹکڑے ڈال دیئے اور پیتل کو پگھلا کر لوہے کے درمیان ڈال دیا۔ گویا ایک طبق تانبے کا اور ایک طبق لوہے کا تھا۔ یہاں تک کہ وہ دیوار ان پہاڑوں کے درمیان برابر ہو گئی وہ چمکدار کیڑے کی طرح تانبے کی سرفی اور لوہے کی سیاہی کے سبب سے سرخ و سیاہ معلوم ہوتی تھی یا عروج مابوج ہر سال اس دیوار کے قریب آتے ہیں کیونکہ وہ شہروں میں گشت کرتے تھے جب اس دیوار کے نزدیک پہنچتے ہیں وہ مانع ہوتی ہے پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ اور ہمیشہ اس حال پر قیامت کے قریب تک رہیں گے۔ یہاں تک

کہ آثار قیامت ظاہر ہوں گے اور قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت جناب قائم آل محمد علیہ السلام کا ظہور ہے۔ اس وقت حق تعالیٰ دیوار کو ان کے لئے کھول دے گا۔ جیسا کہ فرمایا ہے حتی اذا فتحت یا جوج و ما جوج وہم من کل حدب ینسلون (سورۃ انبیاء آیت ۹۶) جس وقت یا جوج ما جوج رہائے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے تیزی کے ساتھ روانہ ہوں گے۔

جب ذوالقرنین دیوار کی تعمیر سے فارغ ہوئے اسی طرف سے اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے ناگاہ ایک مرد ضعیف کے قریب پہنچے جو نماز پڑھ رہے تھے۔ ذوالقرنین ان کے پاس مع اپنے لشکر کے ٹھہر گئے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ آپ کو میرے لشکر سے کیوں خوف نہیں ہوا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اس سے مناجات کر رہا تھا جس کا لشکر تیرے لشکر سے بہت زیادہ ہے اور جس کی بادشاہی تجھ سے زیادہ غالب ہے اور جس کی قوت تجھ سے زیادہ شدید ہے اگر تیری طرف اپنا رخ کرتا تو اپنی حاجت اس سے حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ ذوالقرنین نے کہا: کیا آپ راضی ہیں کہ میرے ساتھ چلیں تاکہ میں آپ کو کچھ عطا کروں اور آپ سے اپنے بعض امور میں مدد حاصل کروں انہوں نے جواب دیا کہ میں راضی ہوں اگر تم میرے لئے چار باتوں کے ضامن بن جاؤ۔ اول ایسی نعمت جو کبھی زائل نہ ہو دوم ایسی صحت کہ جس میں بیماری نہ ہو۔ سوم ایسی جوانی کہ جس میں پیری نہ ہو چہارم ایسی زندگی کہ جس میں موت نہ ہو۔ ذوالقرنین نے کہا: کونسی مخلوق ان پر قادر ہے؟ اس نے کہا: میں اس کی طرف ہوں جو ان سب پر قادر ہے۔ اور یہ تمام امور اس کے قبضے میں ہیں۔ اور تم بھی اس کے اختیار میں ہو۔

پھر ذوالقرنین کا گزر ایک عالم کے پاس سے ہوا۔ اس نے ذوالقرنین سے پوچھا مجھے بتاؤ کہ وہ دو چیزیں کونسی ہیں جو اب تک قائم ہیں جس روز سے خدا نے ان کو خلق کیا اور ان دو چیزوں سے جو رواں ہیں اور ان دو چیزوں سے جو ہمیشہ ایک دوسرے کے بعد آتی ہیں۔ اور ان دو چیزوں سے جو باہم ایک دوسرے کی دشمن ہیں۔ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ وہ دو چیزیں جو قائم ہیں آسمان و زمین ہیں۔ وہ دو چیزیں جو رواں ہیں وہ آفتاب اور ماہتاب ہیں۔ وہ دو چیزیں جو ایک دوسرے کے بعد آتی ہیں وہ رات اور دن ہیں اور وہ دو چیزیں جو ایک دوسرے کی دشمن ہیں وہ موت اور زندگی ہے۔ اس نے کہا جاؤ تم عالم ہو۔

ذوالقرنین شہروں میں گھوم رہے تھے کہ ایک پیر مرد سے ملاقات ہوئی جو مردوں کی کھوپڑیاں جمع کئے ہوتے تھا۔ اور ان کو گھماتا اور دیکھتا تھا۔ ذوالقرنین اپنے لشکر کے ساتھ اس کے پاس ٹھہر گئے اور کہا: اے شیخ بیان کر کہ کس لئے ان سروں کو حرکت دیتا ہے۔ اس نے کہا: اس لئے کہ میں جان لوں کہ کون شریف رہا ہے اور کون پریشان حال۔ بیس سال سے ان کو گردش دیتا ہوں (اور ہر ہفتہ دیکھتا ہوں مگر شناخت نہیں ہو سکتی اور میں تمیز نہیں کر سکتا)۔ ذوالقرنین اس کو چھوڑ کر آگے بڑھے اور کہا: اس کی غرض صرف میری تنبیہ تھی۔

پھر شہروں کی سیر کرتے ہوئے حضرت موسیٰ کی عقلمند قوم کے پاس پہنچے جو حق کی ہدایت اور انصاف، آپس میں برابری کا سلوک اور ایک دوسرے پر رحم کرتے تھے۔ سب کی حالت ایک سی تھی۔ سب کا قول ایک تھا۔ ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ ان کا راستہ سیدھا تھا۔ ان کی سیرت پسندیدہ تھی۔ ان کے گزشتگان کی قبریں ان کے گھروں کے دروازوں پر تھیں۔ ان کے گھروں پر دروازے نہیں تھے۔ اور ان میں حاکم بھی نہیں تھے۔ نہ ہی قاضی نہ امیر نہ بادشاہ نہ اشراف۔ نہ ایک کو دوسرے پر ترجیح تھی نہ آپس میں فرق۔ نہ آپس میں اختلاف تھا۔ نہ تنازعہ۔ نہ ایک دوسرے کو اسیر کرتے تھے نہ قتل اور نہ ان پر آفتیں آتی تھیں۔ ان سے کہا کہ اپنے حالات مجھ سے بیان کرو کیونکہ میں تمام زمین کی مشرق سے مغرب تک دریا، صحرا، پہاڑ، میدان، روشنی اور تاریکی میں سیر کر چکا ہوں لیکن تمہارے مانند کسی کو نہیں دیکھا۔ بتاؤ کہ تمہارے مردوں کی قبریں تمہارے مکانوں کے دروازے پر کیوں ہیں؟ ان لوگوں نے کہا: ہم نے یہ سوچ کبھی نہ کیا ہے تاکہ موت کو ہم فراموش نہ کریں اور اس کی یاد ہمارے دلوں سے نہ نکلے۔ پوچھا: کس لئے تمہارے مکانوں میں دروازے نہیں ہیں؟ ان لوگوں نے جواب دیا: اس لئے کہ ہم میں جو اور خیانت کرنے والے نہیں ہوتے۔ جو بھی شخص ہم میں ہے امین ہے۔ پوچھا: تم میں امراء کیوں نہیں ہوتے؟ انہوں نے جواب دیا: اس لئے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے۔ پوچھا: تمہارے درمیان حکام کیوں نہیں ہوتے؟ جواب دیا: ہم آپس میں دشمنی اور لڑائی نہیں کرتے۔ پوچھا: تم میں بادشاہ کیوں نہیں ہوتے؟ جواب دیا کہ ہم زیادتی کے طالب نہیں ہوتے۔ پوچھا: تم میں اشراف کیوں نہیں ہیں؟ کہا: ہم ایک دوسرے پر فخر نہیں کرتے۔ پوچھا کہ تم میں ایک دوسرے پر ترجیح کیوں نہیں دی جاتی اور ایک دوسرے میں فرق کیوں نہیں ہے؟ جواب دیا: اس لئے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے مساوات دیکھتے ہیں اور اپنے مال کی زیادتی کو ایک دوسرے پر تقسیم کر دیتے ہیں۔ اور آپس میں رحم کرتے ہیں۔ پوچھا: تمہارے درمیان تنازعات اور اختلافات کیوں نہیں ہیں؟ جواب دیا: اس لئے کہ ہمارے کلوب میں ایک دوسرے کی الفت ہے اور ہم میں فساد نہیں ہے۔ (ذوالقرنین نے) پوچھا: ایک دوسرے کو قتل اور اسیر نہیں کرتے؟ جواب دیا: صحیح ارادہ کے ساتھ ہم اپنی ٹہنیوں پر غالب ہو گئے ہیں۔ اور اپنے نفسوں کی اصلاح علم و بردباری سے کی ہے۔ پوچھا: کس لئے تمہاری باتیں ایک ہیں اور تمہارا طریقہ صحیح و درست ہے؟ جواب دیا: اس لئے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے اور آپس میں ایک دوسرے کی برائی نہیں کرتے اور غیبت نہیں کرتے۔ پوچھا: تمہارے درمیان کوئی پریشان حال اور فقیر نہیں ہے؟ کہا: اس لئے کہ اپنے مال کو ہم آپس میں برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ پوچھا: کس لئے تم میں سخت مزاج اور مند خو نہیں ہوتے؟ کہا: اس لئے کہ عاجزی اور فروتنی کو ہم نے اپنا شعار بنا رکھا ہے۔ پوچھا: تمہاری عمریں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے زیادہ کیوں بنائی ہیں؟ جواب دیا: اس لئے کہ ہم لوگ حقوق العباد ادا کرتے ہیں۔ اور انصاف کے ساتھ حکم کرتے ہیں۔ پوچھا: تم لوگوں میں قتل کیوں نہیں آتا؟ جواب دیا: اس لئے کہ ہم لوگ استغفار سے غافل نہیں ہوتے۔ پوچھا کہ تم لوگ محزون و غمگین کیوں

نہیں ہوتے۔ جو اب دیا کہ ہم لوگ نفس کو بلاؤں پر راضی رکھتے ہیں اور اپنی ذات کو بلاء و مصیبت پر تسلی دے چکے ہیں۔ پوچھا: کیوں تم اور تمہارے اموال پر آفتیں نہیں آتیں؟ جو اب دیا: اس لئے کہ ہم خدا کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتے اور ستاروں کو بلاؤں کا سبب نہیں سمجھتے (بلکہ تمام امور کو اپنے پروردگار کی طرف سے جانتے ہیں)۔ پھر کہا: اچھا بتاؤ تم نے اپنے آباؤ اجداد کو بھی اسی طریقہ پر پایا ہے؟ جو اب دیا: ہاں ہمارے بزرگ بھی اپنے مسکینوں پر رحم کرتے تھے فقیروں کے ساتھ برابری کا سلوک رکھتے تھے۔ اگر کوئی ان پر ظلم کرتا تو وہ اسے معاف کر دیتے تھے اگر ان کے ساتھ کوئی بدی کرتا تو وہ اس کا نیکی سے جو اب دیتے۔ اپنے گناہوں پر استغفار کرتے تھے اور صلہ رحمی کرتے تھے اور امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ سچ بولتے تھے۔ جھوٹ نہیں بولتے تھے اس سبب سے خدا نے ان کے کاموں کی اصلاح کی۔

پس ذائقہ نین نے ان کے پاس رہائش اختیار کی۔ یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ زیادہ دن ان کے ساتھ زندہ نہیں رہے۔ وہ عمر کے لحاظ سے بھی کافی ضعیف ہو چکے تھے اور بڑھاپے نے بھی انہیں گھیر لیا تھا اور وہ جس دن اللہ کی طرف مبعوث ہوئے تھے اور پوری دنیا پر جھگئے تھے اس دن سے ان کے انتقال کا عرصہ ۵۰۰ سال ہے۔

اب ہم واپس حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ان ارشادات کی طرف رجوع کرتے ہیں جو حضرت قائم آل محمد علیہ السلام اور ان کی غیبت کے بارے میں ہیں۔

۱۔ بیان کیا مجھ سے ابو طالب مظفر بن جعفر بن مظفر علوی سمرقندی نے ان سے جعفر بن محمد بن مسعود نے ان کے والد محمد بن مسعود عیاشی نے ان سے آدم بن محمد لجنی نے ان سے علی بن حسین بن ہارون دقاق نے ان سے جعفر بن محمد بن عبداللہ بن قاسم بن ابراہیم بن مالک اشتر نے ان سے یعقوب بن منتوش نے کہ میں ایک روز حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ امام اپنی مسند پر تشریف فرما تھے۔ آپ کے دائیں جانب ایک کمرہ تھا جس پر دیز پردہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے امام سے عرض کیا: مولا صاحب امر غیبت کون ہیں۔ آپ نے فرمایا: اس کمرے کا پردہ الٹاؤ۔ میں نے پردہ اٹھایا تو ایک خوبصورت بچہ جس کی عمر آٹھ یا دس سال کے قریب ہوگی کشادہ پیشانی سفید چہرہ ہنقلت (ناک کے نیچے کاشیب) موقی جیسا ہے، صاف شفاف اور نرم و ملائم ہتھیلیاں، شانے چوڑے۔ گھٹنے لمبے۔ دائیں رخسار پر تل سر کے بال پیشانی پر نکلے ہوئے برآمد ہوا اور آپ کی گود میں بیٹھ گیا۔ امام نے مجھ سے فرمایا: یہ تمہارا صاحب ہے۔ پھر اس بچے سے فرمایا: اے بیٹا واپس چل جاؤ وقت معلوم تک کے لئے۔ پس وہ بچہ اٹھا اور کمرے میں چلا گیا میں مسلسل اس بچے کو دیکھ رہا تھا۔ پھر امام نے مجھ سے فرمایا: اے یعقوب جا کر کمرے میں دیکھو۔ میں کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہاں کوئی نہ تھا۔

۲ - بیان کیا مجھ سے علی بن عبداللہ و راقی نے ان سے سعد بن عبداللہ نے ان سے موسیٰ بن جعفر بن دھب بغدادی نے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی ایک تویح میں ارشاد فرمایا کہ دشمن یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ مجھے قتل کر کے میری نسل کو منقطع کر دیں گے اور اللہ ان کے اس خیال کو باطل کر دے گا۔ تمام حمد اللہ کے لئے ہے۔

۳ - بیان کیا مجھ سے محمد بن محمد بن عصام نے ان سے محمد بن یعقوب کلینی نے ان سے علان رازی نے ان سے بعض اصحاب نے بیان کیا کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی کنیز امام کے پاس لائی گئی تو آپ نے فرمایا تو جلد ہی ایک بچہ سے حاملہ ہوگی جس کا نام محمد ہوگا اور وہ میرے بعد امام قائم ہوگا۔

۴ - بیان کیا مجھ سے ابو طالب مظفر بن جعفر بن مظفر علوی نے ان سے جعفر بن محمد بن مسعود نے ان سے ان کے والد نے ان سے احمد بن علی بن کلثوم نے ان سے علی بن احمد رازی نے کہ شہر رے کے رہنے والوں میں سے میرے کچھ بھائی امام حسن عسکری علیہ السلام کے انتقال کے بعد مسجد کوفہ میں مغموم اور فکر مند بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مرد آیا اس کے ہاتھ میں امام علیہ السلام کا ایک خط تھا۔ اس نے کہا: لوگو اس کتاب کو دیکھو یہ تمہارے لئے حق ثابت کرے گا۔ ان پر ایک واضح اور قدرتی تحریر تھی جو کسی کی لکھی ہوئی نہیں تھی۔

۵ - بیان کیا مجھ سے احمد بن محمد بن یحییٰ عطار نے ان سے ان کے والد نے ان سے جعفر بن محمد بن مالک فزاری نے ان سے محمد بن احمد مدائنی نے ان سے ابو غانم نے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ سن دو سو ساٹھ میں میرے شیعہ تفرقہ میں پڑ جائیں گے۔ میں جب امام کا انتقال ہوا تو آپ کے شیعوں اور انصار میں تفرقہ پڑ گیا ان میں سے بعض جعفر کی پیروی کرنے لگے۔ بعض مرتد ہو گئے۔ بعض نے شک کیا۔ ان میں بعض ایسے تھے جو سرگردانی پر قائم ہیں جبکہ کچھ اپنے دین پر اللہ کی توفیق سے ثابت قدم رہے۔

۶ - بیان کیا مجھ سے مظفر بن جعفر بن مظفر علوی سمرقندی نے ان سے جعفر بن محمد بن مسعود عیاشی نے ان سے ان کے والد نے ان سے احمد بن علی بن کلثوم نے ان سے علی بن احمد رازی نے ان سے احمد بن اسحاق بن سعد نے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا: اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھایا جب تک مجھے میرا جانشین نہ دکھا دیا۔ جو تمام انسانوں میں سب سے زیادہ خلق و خلق میں رسول اللہ سے مشابہ ہے۔ اللہ اس کی حفاظت فیست کے ذریعہ کرے گا۔ پھر اسے ظاہر کرے گا۔ اور وہ دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔

۷ - بیان کیا مجھ سے احمد بن محمد بن یحییٰ عطار نے ان سے سعد بن عبداللہ نے ان سے موسیٰ بن جعفر بن دھب بغدادی نے بیان کیا کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ میرے بعد میرے

جانشین کے بارے میں اختلاف کا شکار ہو جائے پس جس نے تمام ائمہ کا اقرار کیا اور میرے فرزند کا انکار کیا تو گویا اس نے تمام انبیاء اللہ اور اس کے رسولوں کا اقرار کیا مگر محمد رسول اللہ کی نبوت کا انکار کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر ایسا ہے جیسے تمام انبیاء کا منکر کیونکہ ہمارے آخر کی اطاعت ایسی ہے جیسے ہمارے اول کی اطاعت اور ہمارے آخر کا انکار ایسے ہے جیسے ہمارے اول کا انکار۔ جان لو کہ میرے فرزند کے لئے غیبت ہے جس کے بارے میں لوگ شک کا شکار ہو جائیں گے۔ سوائے ان لوگوں کے جن کی اللہ حفاظت کرے۔

۸۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن ابراہیم بن اسحاق نے ان سے ابو علی بن ہمام نے ان سے محمد بن عثمان عمری قدس اللہ روحہ نے ان سے ان کے والد نے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے ان کے آباء کرام کی ایک حدیث کے بارے میں دریافت کیا گیا اور میں وہاں موجود تھا کہ زمین قیامت تک بھت خدا سے کبھی خالی نہ رہے گی اور جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرے گا اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ آپ نے فرمایا: یہ حدیث روز روشن کی طرح حق ہے۔ کسی نے عرض کی کہ فرزند رسول آپ کے بعد بھت خدا اور امام کون ہوگا۔ آپ نے فرمایا: میرا بیٹا محمد وہ میرے بعد بھت خدا اور امام ہے۔ اور جو اس کی معرفت کے بغیر مرے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اس کے لئے غیبت ہے۔ جس کے بارے میں جاہل لوگ حیرت کا اظہار کریں گے۔ جھٹلانے والے اس بارے میں ہلاک ہوں گے۔ کزور عقیدہ والے جھٹلائیں گے۔ پھر اس کا ظہور گا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے سر پر سفید علم ہوگا جو جہنم سے ظاہر ہوگا۔

باب (۳۹) ان کے بارے میں جہنوں نے بارہویں امام کا انکار کیا

۱۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے ان سے سعد بن عبداللہ نے ان سے محمد بن عیسیٰ نے ان سے صفوان بن یحییٰ نے ان سے ابن مسکان نے ان سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے زندوں میں سے کسی ایک کا انکار کیا گویا اس نے اموات کا انکار کیا۔

۲۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن حسن بن احمد بن ولید نے ان سے محمد بن حسن صفار نے ان سے حسن بن تئیل وفاق اور عبداللہ بن جعفر حمیری نے بیان کیا ان سے محمد بن حسین بن ابی القلاب اور یعقوب بن یزید اور ابراہیم بن ہاشم نے ان سے محمد بن ابو عمیر اور صفوان بن یحییٰ نے ان سے عبداللہ بن مسکان نے ان سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے زندوں میں سے کسی ایک کا انکار کیا اس نے اموات کا انکار کیا۔

۳۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے ان سے سعد بن عبداللہ نے ان سے محمد بن عیسیٰ نے ان سے اسماعیل بن مہران نے ان سے محمد بن سعید نے ان سے ابان بن تغلب نے ان سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے

عرض کیا کہ اگر کوئی تمام گزشتہ ائمہ کی معرفت رکھتا ہے مگر اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا ہے کیا وہ مومن ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں۔ میں نے پوچھا: کیا وہ مسلمان ہے؟ فرمایا: ہاں۔

مولف کتاب ہذا عرض کرتا ہے کہ اسلام شہادتین کے اقرار کا نام ہے۔ جس کے بعد اس کا خون اور مال محترم ہو جاتا ہے اور ثواب ایمان پر ہے۔ حضور اکرم کا ارشاد ہے: جس نے گواہی دی کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں اس کا مال اور خون محترم ہو گیا۔ مگر یہ کہ اس پر لوگوں کا کوئی حق ہو اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔

۳۔ مجھ سے علی بن احمد بن محمد نے بیان کیا ان سے محمد بن ابی عبداللہ کوئی نے ان سے سہل بن زیادہ ادوی نے ان سے حسن بن محبوب نے ان سے عبدالعزیز عبدی نے ان سے ابن ابی یعقوب نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میرے آباء کرام اور میری اولاد میں تمام ائمہ کا اقرار کیا اور میرے فرزند مہدی کا انکار کیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انبیاء علیہم السلام کا اقرار کیا اور حضرت محمد کا انکار کیا۔ میں نے عرض کیا: مولا آپ کی اولاد میں مہدی کون ہے؟ آپ نے فرمایا ساتویں کی پانچویں پشت کا فرزند جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوگا اور اس کا نام لینا جائز نہ ہوگا۔

۵۔ مجھ سے حسین بن احمد بن ادریس نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے ایوب بن نوح نے ان سے محمد بن سنان نے ان سے صفوان بن مہران نے بیان کیا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے تمام ائمہ علیہم السلام کا اقرار کیا اور مہدی کا انکار کیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انبیاء علیہم السلام کا اقرار کیا اور حضرت محمد کی نبوت کا انکار کیا۔ کسی نے پوچھا: یا فرزند رسول۔ آپ کی اولاد میں مہدی کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے کا پانچواں فرزند جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوگا اور جس کا نام لینا جائز نہ ہوگا۔

۶۔ مجھ سے عبدالواحد بن محمد بن عبدوس نیشاپوری عطار نے بیان کیا ان سے علی بن محمد بن قتیبہ نیشاپوری نے ان سے حمدان بن سلیمان نے ان سے احمد بن عبداللہ بن جعفر ہمدانی نے ان سے عبداللہ بن فضل ہاشمی نے ان سے ہشام بن سالم نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے روایت کی ہے انہوں نے اپنے جد سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اولاد میں قائم ہوگا۔ جس کا نام میرا نام ہے۔ جس کی کنیت میری کنیت ہے۔ جس کے شمائل میرے شمائل ہیں۔ جس کی سنت میری سنت ہوگی۔ جو لوگوں میں میرے طریقہ اور شریعت کو قائم کرے گا۔ جو لوگوں کو کتاب اللہ کی طرف دعوت دے گا۔ جس نے اس کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ جس نے اس کی غیبت کا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا جس نے اسے جھٹلایا اس نے مجھے جھٹلایا۔ جس نے اس کی تصدیق کی اس نے میری تصدیق کی۔ میں اللہ سے شکوہ کرتا ہوں ان لوگوں کا جن لوگوں نے اس امر میں مجھے جھٹلایا اور اس کے بارے میں میرے قول کا انکار کیا۔ اور اس کے

رہتے ہیں میری امت کو گمراہ کیا۔ و سيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون (سورۃ شعراء آیت ۲۲۷) اور جنہوں نے ظلم کیا ہے عنقریب وہ جان لیں گے کہ کس کروٹ وہ پلٹتے ہیں۔

۷۔ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ان سے سعد بن عبداللہ نے ان سے احمد بن ابی عبداللہ نے ان سے ان کے والد نے ان سے ابن ابی عمیر نے ان سے محمد بن عبدالرحمن بن ابی یعلیٰ نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک طویل حدیث کے آخر میں بیان فرمایا کہ وہ شخص کیسے ہدایت پائے گا جو صاحب بصیرت نہیں۔ وہ کیسے صاحب بصیرت ہوگا جیسے خوف خدا نہیں۔ قول رسول کا اتباع کرو اور جو کچھ اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے اس کا اقرار کرو۔ ہدایت کے آثار کا اتباع کرو یہ امانت اور تقویٰ کی علامات ہیں۔ اگر کوئی شخص حضرت عیسیٰ ابن مریم کا انکار کرے اور باقی تمام انبیاء علیہم السلام کا اقرار کرے تو وہ صاحب ایمان نہیں ہوگا۔ راہ نور کا قصد کرو۔ پس پردہ موجود آثار سے مستحکم رہو اور اپنے امور دین کو مکمل کرو۔ اور اپنے پروردگار اللہ پر ایمان رکھو۔

۸۔ مجھ سے احمد بن زیاد بن جعفر ہمدانی نے بیان کیا ان سے علی بن ابراہیم بن ہاشم نے ان سے ان کے والد نے ان سے محمد بن ابی عمیر نے ان سے غیاث بن ابراہیم نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے روایت کی آجمناب نے اپنے آباء کرام سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے میری اولاد میں سے قائم کا انکار کیا (گویا) اس نے میرا انکار کیا۔

۹۔ مجھ سے احمد بن محمد بن یحییٰ عطار نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے عبداللہ بن محمد بن عیسیٰ نے ان سے حسن بن موسیٰ خشاب نے ان سے کئی افراد نے ان سے مروان بن مسلم نے بیان کیا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان امام رابطہ ہوتا ہے۔ پس جس نے اس کو پہچانا وہ مومن ہے اور جس نے اس کا انکار کیا وہ کافر ہے۔

۱۰۔ مجھ سے میرے والد اور محمد بن حسن رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ان سے سعد بن عبداللہ نے ان سے محمد بن عیسیٰ بن سعید نے ان سے حسن بن علی بن فضال نے ان سے ثعلبہ بن میمون نے ان سے محمد بن مروان نے ان سے فضیل بن یسار نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص مرجائے اس حالت میں کہ اس کا کوئی امام نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا اور انسانوں کے لئے معرفت امام کے سلسلے میں کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا۔

۱۱۔ مجھ سے میرے والد اور محمد بن حسن اور محمد بن موسیٰ بن متوکل رضی اللہ عنہم نے بیان کیا ان سے سعد بن عبداللہ اور عبداللہ بن جعفر حمیری نے ان دونوں سے محمد بن عیسیٰ نے ان سے حسن بن محبوب نے ان سے ابو سعید زکری نے ان سے عمار نے بیان کیا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مرجائے اس

حالت میں کہ اس کا کوئی امام نہ ہو تو وہ جاہلیت، کفر، شرک اور ضلالت کی موت مرا۔

۱۲۔ مجھ سے علی بن عبداللہ وراق نے بیان کیا ان سے ابو الحسن محمد بن جعفر اسدی نے ان سے موسیٰ بن عمران نخعی نے ان سے ان کے چچا حسین بن یزید نوخلی نے ان سے غیاث بن ابراہیم نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے روایت کی آنجناب نے اپنے آباء کرام سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے زمانہ غیبت میں میرے فرزند قائم کا انکار کیا اور وہ مر گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔

۱۳۔ مجھ سے مظفر بن جعفر بن مظفر علوی سمرقندی نے بیان کیا ان سے جعفر بن محمد بن مسعود نے ان سے ان کے والد نے ان سے علی بن محمد نے ان سے عمران نے ان سے محمد بن عبدالحمید نے ان سے محمد بن فضیل نے ان سے حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے بیان کیا۔ ان سے ان کے والد موسیٰ بن جعفر نے ان سے ان کے والد جعفر بن محمد نے ان سے ان کے والد محمد بن علی نے ان سے ان کے والد علی ابن الحسن نے ان سے ان کے والد حسین بن علی نے ان سے ان کے والد علی ابن ابی طالب نے روایت کی کہ رسول اللہ نے فرمایا اے علی تم اور تمہاری اولاد میں جو تمہارے بعد آئے ہوں گے وہ نطق پر اللہ کی بھت اور اس کی مخلوق میں اس کی نشانیاں ہیں جس نے تم میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا گویا اس نے میرا انکار کیا۔ جس نے تم میں سے کسی ایک کی نافرمانی کی گویا اس نے میری نافرمانی کی۔ جس نے تم میں سے کسی ایک پر جھٹکا گویا اس نے مجھ پر جھٹکا کیا جس نے تم سے تعلق رکھا اس نے مجھ سے تعلق رکھا۔ جس نے تمہاری اخاعت کی اس نے میری اخاعت کی۔ جس نے تم لوگوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ جس نے تم سے عداوت رکھی اس نے مجھ سے عداوت رکھی۔ کیونکہ تم مجھ سے ہو۔ تم سب میری طہانت سے خلق ہوئے ہو اور میں تم سے ہوں۔

۱۴۔ مجھ سے علی بن محمد نے بیان کیا ان سے حمزہ بن قاسم علوی نے ان سے حسن بن محمد فارسی نے ان سے عبداللہ بن قدامہ ترمذی نے ان سے ابوالحسن (حضرت امام علی نقی) علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے چار باتوں میں شک کیا گویا اس نے اللہ کی طرف سے تمام نازل شدہ چیزوں کا کفر کیا۔ ان چار باتوں میں سے ایک ہر زمانے میں امام کی معرفت ہے۔ جو ہر دور میں ان کی ذات اور صفات سے ہوگی۔

۱۵۔ مجھ سے میرے والد اور محمد بن حسن رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ان سے سعد بن عبداللہ اور عبداللہ بن جعفر حمیری نے ان دونوں سے محمد بن عیسیٰ اور یعقوب بن یزید اور ابراہیم بن ہاشم نے ان سب سے عماد بن عیسیٰ نے ان سے عمر بن اذینہ نے ان سے ابان بن ابی عیاش نے ان سے سلیم بن قیس ہلمی نے بیان کیا کہ انہوں نے اس حدیث کو حضرت سلمان (فارسی) حضرت ابوذر (غفاری) اور مقداد سے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مرجائے اس حال میں کہ اس کا کوئی امام نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ پھر سلیم بن قیس نے یہ حدیث جابر اور ابن عباس کے

سلسلے پیش کی تو دونوں نے کہا کہ ہاں۔ یہ حدیث صحیح ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی رسول اللہ سے سنا ہے۔ اور حضرت سلمان (فارسی) نے رسول اللہ سے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ نے یہ جو فرمایا کہ اگر کوئی مر جائے اس حالت میں کہ اس کا کوئی امام نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا تو یہ کون امام ہے؟ آپ نے فرمایا: اے سلمان! اس امام سے مراد وہ ہیں جو میرے اوصیاء ہوں گے۔ پس جو مر جائے اس حال میں کہ وہ ان میں سے (اپنے زمانے کے امام) کی معرفت نہ رکھتا ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ پس اگر وہ جاہل تھا اور ساتھ ساتھ ان (ائمہ) کی عداوت بھی رکھتا تھا تو وہ مشرک ہے۔ اگر نہ انہیں جانتا تھا اور نہ عداوت رکھتا تھا اور نہ ہی ان کے دشمنوں سے محبت کرتا تھا تو وہ جاہل ہے اور مشرک نہیں ہے۔

باب (۳۰) اس بارے میں روایات کہ امامت جناب حسنین علیہما السلام کے بعد دو بھائیوں میں جمع نہ ہوگی

۱۔ مجھ سے میرے والد اور محمد بن حسن رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ان سے سعد بن عبد اللہ اور عبد اللہ بن جعفر حمیری نے ان دونوں سے محمد بن عیسیٰ بن عمید نے ان سے یونس بن عبد الرحمن نے ان سے حسین بن ثور ابی فاختہ نے بیان کیا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد امامت دو بھائیوں میں کبھی جمع نہ ہوگی۔ ان کے بعد وصیت امامت علی بن حسین علیہما السلام تک پہنچی جیسے کہ ارشاد پروردگار ہے۔ **و اولوا الارحام بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ** (سورۃ انفال آیت ۷۵) اور رشتہ دار آپس میں حق دار زیادہ ہیں ایک دوسرے کے اللہ کے حکم کے مطابق اور علی بن حسین علیہما السلام کے بعد ان کی اولاد اور اولاد در اولاد میں چلے گی۔

۲۔ مجھ سے محمد بن حسن بن احمد بن ولید نے بیان کیا ان سے محمد بن حسن صفار نے ان سے یعقوب بن یزید اور محمد بن عیسیٰ بن عمید نے ان سے حسین بن حسن فارسی نے ان سے سلیمان بن جعفر جعفری نے ان سے حماد بن عیسیٰ نے بیان کیا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امامت حسن و حسین علیہما السلام کے بعد دو بھائیوں میں جمع نہ ہوگی اور اولاد اور اولاد در اولاد میں جاری رہے گی۔

۳۔ مجھ سے محمد بن موسیٰ بن متوکل نے بیان کیا ان سے علی بن حسین سعد آبادی نے ان سے احمد بن محمد بن خالد نے ان سے ان کے والد نے ان سے محمد بن سنان نے ان سے یونس بن یعقوب نے بیان کیا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسن اور امام حسین علیہما السلام کے بعد امامت کو دو بھائیوں میں جمع ہونے کو ممنوع قرار دیا ہے۔

۴۔ مجھ سے محمد بن حسن بن احمد بن ولید نے بیان کیا ان سے حسین بن حسن بن ابان نے ان سے حسین بن سعید نے ان سے محمد بن سنان نے ان سے ابی سلام نے ان سے سوریہ بن کلیب نے ان سے ابو بصیر نے بیان کیا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اس قول باری تعالیٰ وجعلها کلمة باقية فی عقبہ (سورۃ زخرف آیت ۲۸) اور یہی بات پیچھے چھوڑ گیا اپنی اولاد میں ۶ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ آیت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ جن کی اولاد در اولاد میں امامت منتقل ہوگی اور بھائی یا چچا کی طرف نہیں جائے گی۔

۵۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے ان سے سعد بن عبداللہ اور عبداللہ بن جعفر حمیری نے ان دونوں سے ابراہیم بن ہاشم نے ان سے ابو جعفر محمد بن جعفر نے ان سے ان کے والد نے ان سے عبدالحمید بن نصر نے ان سے ابی اسماعیل نے بیان کیا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امامت حسن و حسین علیہما السلام کے بعد دو بھائیوں میں کبھی جمع نہ ہوگی بلکہ یہ اولاد در اولاد منتقل ہوگی۔

۶۔ مجھ سے محمد بن موسیٰ بن متوکل نے بیان کیا ان سے علی بن حسین سعد آبادی نے ان سے احمد بن عبداللہ برقی نے ان سے ان کے والد نے ان سے محمد بن ابی عمیر نے ان سے کئی افراد نے ان سے ابی بصیر نے انہوں نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے امام حسین علیہ السلام کو جہنم دیا تو رسول اللہ نے فرمایا: اے فاطمہ تم کو اللہ نے جو لڑکا عطا کیا ہے اس کو میری امت میرے بعد قتل کر دے گی۔ جناب فاطمہ زہرا علیہا السلام نے فرمایا: بابا مجھے ایسے لڑکے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے فرمایا: اے فاطمہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ امامت کو اسی کی اولاد میں قرار دے گا۔ جناب فاطمہ زہرا علیہا السلام نے عرض کیا: یا رسول اللہ اب میں راضی ہوں۔

۷۔ مجھ سے بیان کیا میرے والد نے ان سے سعد بن عبداللہ اور عبداللہ بن جعفر حمیری نے ان دونوں سے محمد بن حسین بن ابی خطاب اور محمد بن عیسیٰ بن سعید نے ان دونوں سے عبدالرحمن بن ابی نجران نے ان سے عیسیٰ بن عبداللہ علوی عمری نے بیان کیا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا: میں آپ پر قربان اللہ تعالیٰ وہ دن مجھے نہ دکھائے جب آپ نہ ہوں۔ اگر ایسا ہو جائے تو میں کس کی طرف رجوع کروں؟ پس آپ نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے عرض کیا: ان کے بعد؟ آپ نے فرمایا: اس کی اولاد کی طرف میں نے

عرض کیا: اگر ان کا فرزند انتقال کر جائے اور اس کے پیچھے اس کا بڑا بھائی اور چھوٹے بچے ہوں تو پھر کس کی طرف رجوع کروں۔ آپ نے فرمایا: اس کی اولاد کی طرف پھر اسی طرح ہمیشہ۔ میں نے عرض کیا: اگر میں ایسی جگہ ہوں جہاں نہ تو امام کے متعلق جان سکتا ہوں اور نہ ہی ان تک پہنچ سکتا ہوں تو پھر کیا کروں؟ آپ نے فرمایا: یہ دعا کرو کہ اے اللہ گزشتہ امام کی اولاد میں جو بخت خدا ہے میں اس کی ولایت پر قائم رہوں۔ یہ عقیدہ جہارے لئے کافی ہوگا۔

۸۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن موسیٰ بن متوکل نے ان سے عبد اللہ بن جعفر میری نے ان سے احمد بن محمد بن عیسیٰ نے ان سے حسن بن محبوب نے ان سے علی بن رباب نے بیان کیا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جناب فاطمہ زہرا علیہا السلام کے شکم مبارک میں حضرت امام حسین علیہ السلام آئے تو رسول اللہ نے جناب سیدہ سے فرمایا: اے فاطمہ تم کو اللہ تعالیٰ نے لڑکا دیا ہے اس کا نام حسین ہے مگر میری امت اس کو قتل کر دے گی۔ جناب فاطمہ زہرا علیہا السلام نے کہا: یا رسول اللہ مجھے ایسے لڑکے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا: مگر مجھ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ایک وعدہ کیا ہے۔ آپ نے پوچھا: وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ امامت کو اسی کی اولاد میں قرار دے گا۔ (جناب فاطمہ زہرا علیہا السلام نے) فرمایا: یا رسول اللہ پھر میں اس پر راضی ہوں۔

۹۔ مجھ سے محمد بن ابراہیم بن اسحاق نے بیان کیا ان سے احمد بن محمد حمدانی نے ان سے علی بن حسن بن علی بن فضال نے ان سے ان کے والد نے ان سے ہشام بن سالم نے بیان کیا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ امام حسن علیہ السلام افضل ہیں یا امام حسین علیہ السلام؟ آپ نے فرمایا: امام حسن علیہ السلام افضل ہیں امام حسین علیہ السلام سے۔ میں نے عرض کیا: پھر کیا وجہ ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی بجائے امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں امامت قرار پائی۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے حسین علیہما السلام کے معاملے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی سنت کو جاری کیا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ دونوں نبوت میں اس طرح شریک تھے جس طرح امام حسن اور امام حسین علیہما السلام امامت میں شریک ہیں اور اللہ نے نبوت کو حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں قرار دیا اور حضرت موسیٰ کی اولاد میں قرار نہیں دیا اگرچہ کہ حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام سے افضل تھے۔ میں نے عرض کیا: کیا دونوں وقت واحد میں امام تھے؟ آپ نے فرمایا: نہیں۔ ان میں ایک صامت تھا اور دوسرے کی امامت میں تھا۔ اور دوسرا ناطق تھا اور پہلے کے لئے امام تھا۔ دونوں بیک وقت امام ناطق نہیں تھے۔

میں نے کہا: کیا امامت حسین علیہما السلام کے بعد دو بھائیوں میں جمع ہوئی؟ آپ نے فرمایا: نہیں بلکہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں جاری ہوئی۔ جسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ **وجعلها کلمة باقیة فی عقبہ** (سورۃ زعفر آیت ۲۸) اور یہی بات صحیحہ جمود گیا اپنی اولاد میں۔ پس یہ امامت قیامت تک اولاد در اولاد در اولاد جاری

رہے گی۔

۱۰۔ مجھ سے محمد بن موسیٰ بن متوکلؑ نے بیان کیا ان سے محمد بن یحییٰ عطار نے ان سے محمد بن حسین بن ابی خطاب نے ان سے علی بن اسباط نے ان سے علی بن ابی حمزہ نے ان سے ابو بصیر نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت و بئر معطلۃ و قصر مشید (سورۃ حج آیت ۲۵) اور کتنے کنویں بے کار پڑے اور کتنے محل گچ کاری کے کے بارے میں فرمایا بئر معطلۃ سے مراد امام صامت اور قصر مشید سے مراد امام ناطق ہے۔

باب (۳۱) جناب فرجس خاتون "والدہ" امام قائم علیہ السلام کے بارے میں

روایات جن کا نام ملیکہ بنت یثو عابن شاہ قسیر تھا

۱۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن علی بن حاتم نوفلی نے ان سے ابو عباس احمد بن حسین و شہاب بغدادی نے ان سے احمد بن طاہر قمی نے ان سے ابو الحسن محمد بن بحر شیبانی نے کہ میں ۲۸۶ھ میں کربلا معلیٰ گیا اور وہاں رسول اللہ کے عزیز نواسے کی زیارت کی۔ وہاں سے پلٹ کر مدینہ منورہ آیا اور مقابر قریش کا رخ کیا۔ گرمی سخت تھی۔ آسمان تپ رہا تھا۔ اور جب میں وہاں سے روئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور رحمت و مہلت سے بھری اور گھری ہوئی تربت کی خوشبو ناک تک پہنچی تو آنسو بہاتا اور فریاد کرتا ہوا دوڑ کر تربت پر منہ رکھ دیا۔ جب ذرا آنسو تھمے اور آہ داری رکی تو میں نے آنکھ کھولی دیکھا کہ ایک مرد بزرگ ضعیف العمر جن کی کمر خمیدہ تھی، کانوں سے کمان بن گئے تھے، ہتھیلیوں اور پیشانی پر گنگے پڑے ہوئے تھے وہ قبر کے پاس بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے آپ کے اس بچا کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ دونوں آقاؤں نے علوم مخفیہ اور اسرار غیب اس کے حوالے کئے ہیں اور یہ شرف سوائے سلمان کے کسی اور کو حاصل نہیں ہوا مگر آپ کا بچا اب مدت حیات پوری کر چکا ہے۔ عمر عزیز اختتام کو ہے۔ مگر اہل دلالت میں کوئی شخص ایسا نہیں ملا جسے یہ علوم حوالے کر سکوں۔ میں نے کہا کہ اے نفس میں مسلسل طلب علم کے لئے سرگرداں رہا اور مشقت برداشت کرتا رہا۔ اب تیری طاقت اس مرد بزرگ سے ہوئی ہے جس سے ایک ایسا لفظ صادر ہوا جو اس کی علمی وسعت اور اعلیٰ معرفت پر دلالت کرتا ہے۔ یہ سوچ کر میں فوراً اس سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگا کہ اے شیخ وہ دونوں آقا کون ہیں؟ اس نے جواب دیا: وہی دو ستارے جو سرمن رائے کی خاک میں چھپے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ مجھے شرف محبت حاصل ہے اور دونوں آقاؤں کی امامت اور وراثت کی منزلت سے واقف اور ان کے آثار و علوم کا مستلشی ہوں۔ نیز ان کے اسرار کی حفاظت میں اپنی جان لگائے ہوئے ہوں۔ اس نے کہا: اگر تم سچ کہہ رہے

ہو تو مجھے دکھاؤ کہ ناقین اخبار سے کیا کیا روایات ہمارے پاس ہیں۔ میں نے سب کچھ دکھا کر اسے مطمئن کر دیا۔ تو اس نے کہا: تم سچ کہتے ہو۔ پھر بولا۔ اب سنو: میں بشر بن سلیمان بردہ فروش حضرت ابو ایوب انصاری کی اولاد میں سے ہوں۔ اور حضرت امام علی نقی اور حضرت امام حسن عسکری علیہما السلام کا دوست دار ہوں اور سرمن راتے میں ان کا پڑوسی ہوں۔ میں نے عرض کیا: برائے مہربانی جو واقعات و حالات آپ نے دیکھے ہیں ان سے لپٹے بھائی کو بھی آگاہ کر دیں۔ بشر نے کہا: میرے مولا حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے مجھے شریعت کی باریکیاں سکھادی تھیں اس کی بناء پر میں خرید و فروخت میں بڑی احتیاط سے کام لیتا تھا۔ جہاں شبہ ہوتا اس سے پرہیز کرتا۔ یہاں تک کہ مجھے اس سلسلے میں کافی مہارت حاصل ہو گئی اور حلال و حرام کو بخوبی سمجھنے لگا۔

ایک شب میں لپٹے گھر میں تھا جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تھا تو وق الباب ہوا۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کافور خادم ہے اس نے کہا: میرے مولا حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے تم کو بلایا ہے میں نے لپٹے کپڑے پہنے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ امام لپٹے فرزند ابو محمد اور ان کی بہن حکیمہ سے گفتگو فرما رہے ہیں جو پردے کے پیچھے تھیں۔ جب میں بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا: اے بشر۔ تم انصار کی اولاد میں سے ہو اور ہماری محبت اور دوستی ہمیشہ تم لوگوں میں رہی ہے یہ برابر تمہاری میراث چلی آئی ہے۔ اور تم ہم اہلبیت کے معتمدین میں سے ہو میں ایک خاص فضیلت کے لئے تمہیں منتخب کرتا ہوں جس سے ہمارے شیعوں اور دوستوں پر تم بہت لے جاؤ گے اور وہ راز کی بات ہے۔ وہ یہ کہ ایک کنیز کی خریداری کے لئے تمہیں بھیجنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے ایک خط رومی زبان اور رومی خط میں لکھ کر اس پر مہر لگائی اور دو سو تیس اشرفیاں کپڑے میں بندھی ہوئی نکالیں اور فرمایا کہ یہ لاؤ اور بغداد چلے جاؤ فرات کے کنارے پہنچنا۔ وہاں دن چڑھے چند کشتیاں اسیروں کی آئیں گی جن میں تم کنیزیں دیکھو گے۔ ان کی خریداری کے واسطے بہت سے سرداران بنی عباس کے وکیل اور کچھ جوانان عراق جمع ہوں گے۔ تم دور سے اس شخص پر جس کو عمر بن یزید تماس کہتے ہیں نگاہ رکھنا اور دن بھر انتظار کرنا یہاں تک کہ وہ ان صفات کی کنیز خریداروں کے سامنے پیش کرے جو دو جامہ ریشمین پہنے ہوگی اور خریداروں کے سامنے پیش ہونے سے انکار اور ان کے دیکھنے اور ہاتھ لگانے سے منع کرتی ہوگی باریک پردے سے رومی زبان میں اس کو تم یہ کہتے ہوئے سنو گے کہ ہائے کیسی معصیت ہے جو میری پردہ دری کی جاتی ہے۔ اس کی عفت اور پاک دامنی کی یہ صورت دیکھ کر ایک خریدار تین سو دینار میں اس کو لینا چاہے گا جس پر وہ عربی زبان میں کہے گی کہ کیوں اپنا مال ضائع کرتا ہے۔ اگر تو حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام کی مملکت و حشمت بھی لے کر آئے تو بھی تیری طرف مجھ کو رغبت نہیں ہو سکتی اس وقت بردہ فروش (عمر بن یزید) کہے گا کہ تم کو بیچنا تو ضروری ہے پھر تمہارے متعلق کیا کیا جائے۔ وہ جواب دے گی: بھلائی نہ کرو میرا وہ خریدار آنے والا ہے جس کی دیانت اور وفاداری پر مجھ کو اعتماد ہے۔ اے بشر یہ سنتے ہی تم عمر بن یزید کے پاس جانا اور کہنا کہ میرے پاس اشرف میں سے

ایک کا خط ہے جو انہوں نے رومی زبان اور رومی خط میں لکھا ہے۔ اور اس میں اپنے کرم، سخا اور عطا کا ذکر ہے۔ یہ خط لو اور اس کتیز کو دے دو تاکہ وہ صاحب خط کے اخلاق اور اوصاف کو خور سے کچھ لے اگر راضی ہوگی تو خریداری کے لئے میں ان کی طرف سے وکیل ہوں۔

بشر بن سلیمان نغاس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مولا ابو الحسن علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی۔ اور سب کچھ وہی ہوا جو آپ نے فرمایا تھا۔ جب ان خاتون نے وہ خط لے کر دیکھا اور پڑھا تو بہت روئیں اور عمر بن یزید سے کہا کہ جن کا یہ خط ہے ان کے ہاتھ مجھ کو فردخت کر دے اور قسمیں کھائیں کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گی۔ اس کے بعد در تک قیمت کے بارے میں بات چیت ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ اسی رقم پر معاملہ طے ہو گیا جو حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے میرے سپرد کی تھی۔ میں قیمت ادا کر کے بغداد میں اپنی قیام گاہ پر ان کو ساتھ لے آیا۔ وہ نہایت خوش و مسرور تھیں بار بار اس خط کو بوسے دیتی تھیں۔ آنکھوں سے لگاتی تھیں یہ دیکھ کر میں نے تعجب سے کہا کہ تمہارے نزدیک اس خط کی اتنی قدر و قیمت ہے۔ حالانکہ لکھنے والے کو جانتی بھی نہیں ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے عاجز، اے انبیاء کی اولاد اور اوصیاء کے بلند مرتبہ کی کم معرفت رکھنے والے ذرا دل سے متوجہ ہو کر کان لگا کر میرا حال سن لے۔

میں ملکہ دختر یثوما بن قیسر شاہ روم ہوں۔ میری والدہ شمعون بن صفا کی اولاد میں سے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دسی تھے۔ میں ایک عجیب امر کی خبر دیتی ہوں اور وہ یہ کہ جس وقت میں تیرہ سال کی ہوئی تو میرے دادا قیسر نے اپنے بھتیجے سے میرا عقد کرنا چاہا۔ محل میں نسل حواریین اور علماء نصاریٰ سے تین سو بزرگوار کو، صاحبان قدر و منزلت سے سات سو اشخاص کو، امراء لشکر اور سرداران قبائل سے چار ہزار افراد کو جمع کیا۔ ایک محنت جو اہر سے مرصع جو اس نے اپنی بادشاہی کے زمانے میں تیار کرایا تھا اس کو چالیس پایوں پر نصب کیا گیا۔ جنوں کو، صلیبوں کو بلند مقامات پر رکھا گیا۔ اس محنت پر اپنے بھتیجے کو بٹھایا۔ جس وقت پادریوں نے پڑھنے کے لئے انجیل ہاتھوں میں اٹھائی صلیبیں سرنگوں ہو گئیں۔ بہت زمین پر گرنے لگی۔ محنت کے پائے ایسے شکستہ ہوئے کہ زمین پر آگرے۔ دوہا بھی گر کر بے ہوش ہو گیا۔ یہ صورت حال دیکھ کر پادریوں کے چہرے کے رنگ تبدیل ہو گئے ان کے جوڑ اور بند کانپنے لگے اور سب سے بڑے پادری نے میرے دادا سے کہا کہ اے بادشاہ اس کام سے ہمیں معاف رکھ۔ جس کی وجہ سے خوشحیں نمایاں ہوئیں۔ جو دین عیسیٰ اور مذہب ملکائی کے زوال کی علامات ہیں۔ میرے دادا نے بھی اس کو نال بد کھا اور حکم دیا کہ دوبارہ محنت وغیرہ لگائے جائیں اور بجائے اس بد قسمت لڑکے کے اس کے دوسرے بھائی سے عقد کر دیا جائے۔ چنانچہ نئے سرے سے تیاری ہوئی اور دوسرا لڑکا محنت پر بٹھایا گیا۔ انجیل کا پڑھنا شروع ہوا تھا کہ پھر وہی صورت حال پیش آئی اور وہی نحوست رونما ہوئی۔ مگر کسی نے اس راز کو نہ کھا کہ جو کچھ ہوا وہ ان بھائیوں کی نحوست نہیں ہے بلکہ

ایک خاص سردار کی سعادت کا اثر ہے۔ بالآخر سب لوگ متفرق ہو گئے۔ میرا دادا حرم سرا میں آگیا اور خجالت کی وجہ سے پھر باہر نہ نکلا۔

میں جب رات کو سو گئی تو خواب میں دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ تشریف لائے اور نور کا منبر جو بلندی میں آسمان سے مقابلہ کر رہا تھا، قصر شاہی میں اسی جگہ نصب کیا گیا جہاں میرے دادا نے اپنا تخت نصب کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت محمدؐ نے مع اپنے وصی اور داماد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اور مع ان فرزندوں کے جو امام ہیں محل کو اپنے نور سے منور فرمایا۔ جناب حضرت عیسیٰؑ از روئے تعظیم و اجلال خاتم الانبیاء کے استقبال کے لئے آگے بڑھے ان سے گلے ملے اور جناب رسول خداؐ نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے جو ان کے پیٹے ہیں اور جن کا یہ خط ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے روح اللہ میں اس لئے آیا ہوں کہ اپنے اس فرزند کے لئے آپ کے وصی شمعون کی دختر ملیکہ کی خواست گاری کر دوں۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت شمعون کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ خاتم الانبیاءؑ دونوں جہانوں کا شرف تمہارے واسطے لے کر آئے ہیں۔ یہ رشتہ کر دو۔ اور رحم آل محمدؐ سے اپنے رحم کو ملا دو۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے قبول کیا۔ اس کے بعد جناب رسول خداؐ منبر پر تشریف لے گئے۔ غلطہ ارشاد فرمایا اور آپؐ نے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے میرا عقد کر دیا۔ جس کے گواہ فرزند ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حواریین ہوئے۔

جب میں اس خواب سے بیدار ہوئی تو جان کے خوف سے کسی سے میں نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اور اپنے دل میں رکھا۔ مگر ابو محمدؑ کی محبت روز بروز میرے دل میں بڑھتی گئی۔ صبر و قرار جانا رہا یہاں تک کہ کھانا پینا حرام ہو گیا۔ چہرہ متغیر اور جسم لاغر ہو گیا۔ مسکت روم کا کوئی طبیب ایسا باقی نہ رہا جس کو علاج کے لئے میرے دادا نے بلایا نہ ہو۔ مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب مایوس ہو کر میرے دادا نے مجھ سے دریافت کیا کہ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک تیرے دل میں دیا کی جو کچھ بھی خواہش و آرزو ہو وہ بیان کر تاکہ اس کو پورا کروں۔ میں نے جواب دیا کہ میرے دل میں اب کوئی خواہش نہیں۔ صحت سے ناامید ہوں۔ ہاں اگر آپ ان مسلمان قیدیوں کو جو آپ کے قید خانہ میں مغنیہ ہیں آزاد کر دیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی مادر گرامی مجھ کو شفاء عطا فرمائیں۔ یہ سن کر میرے دادا نے ان قیدیوں کو آزاد کرنا شروع کر دیا۔ جب ایسا ہوا تو میں نے بھی کچھ صحت کا اظہار کیا۔ کچھ کھانا بھی کھایا جس سے دادا کو خوشی ہوئی۔ چار راتوں کے بعد میں نے یہ خواب دیکھا کہ جناب فاطمہ زہرا علیہا السلام اور حضرت مریم علیہا السلام بھی مع ہزاروں حوران بہشت کے تشریف لائیں ہیں۔ مجھ سے حضرت مریم علیہا السلام نے فرمایا کہ تیرے شوہر ابو محمد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی یہ مادر گرامی ہیں۔ یہ سن کر میں نے ان کا دامن پکڑ لیا اور رو رو کر یہ شکایت کی کہ ابو محمدؑ مجھے دیکھنے کے لئے نہیں آئے۔ جناب فاطمہ زہرا علیہا السلام نے فرمایا کہ میرا فرزند ابو محمدؑ تیری

ملاقات کو نہیں آئے گا کیونکہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے اور دین نصاریٰ پر ہے۔ میری بہن مریم علیہا السلام بھی تیرے دین سے بیزار ہیں اگر تو چاہتی ہے کہ حق تعالیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہا السلام تجھ سے خوش ہوں اور تو میرے فرزند ابو محمد سے ملنے کی خواہش مند ہے تو کہہ اشھدان لا الہ الا اللہ و اشھدان ابی۔ محمّد الرسول اللہ جب میں نے یہ کلمات طیبہ زبان پر جاری کئے تو ان معظمہ نے مجھ کو لپٹے سینے سے لگایا، مجھے تسلی دی اور فرمایا کہ اب ابو محمد سے ملاقات کی منتظر ہو میں اسے تمہاری طرف بھیجتی ہوں۔ جب میں یہ خواب دیکھ کر اٹھی تو کہہ رہی تھی ہائے ابو محمد سے ملاقات کا شوق کب پورا ہوگا۔ رات ہوئی تو خواب میں انہوں نے شرف زیارت سے مشرف فرمایا۔ میں نے کہا: اے میرے محبوب آپ نے مجھے اسیر محبت کر کے کیوں جدائی اختیار کی ہوئی ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ تم مشرک تھیں۔ اب مسلمان ہو گئی ہو لہذا ہر شب برابر آتا رہوں گا۔ یہاں تک کہ خداوند تعالیٰ مجھے اور تمہیں بظاہر یکجا فرمائے۔ چنانچہ اس کے بعد کوئی رات ایسی نہیں گزری جو حضرت کو خواب میں نہ دیکھا ہو۔

بشر بن سلیمان نے پوچھا: آپ اسیروں میں کیسے شامل ہو گئیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ایک شب کو ابو محمد نے مجھے یہ خبر دی کہ جہار ادادا فلاں روز مسلمانوں کی طرف لشکر بھیجنے والا ہے۔ اور خود بھی پیچھے جائے گا۔ تم بھی اس طرح اپنا علیہ جہدیں کر کے کہ کوئی نہ پہچانے کئیروں، خدمت گزاروں میں پوشیدہ شریک ہو کر اپنے دادا کے پیچھے روانہ ہونا اور فلاں راہ سے چلنا۔ جب وہ وقت آیا تو میں نے ایسا ہی کیا چلتے چلتے مسلمانوں کی جاسوس جماعت نے ہمیں دیکھ لیا اور گرفتار کر کے لے گئے اور آفرکار یہ ہوا جو تم دیکھ رہے ہو اور اس وقت تک سوائے تمہارے کسی کو نہ معلوم ہو سکا کہ میں شاہ روم کی دختر ہوں۔ ایک بوڑھے شخص نے جس کے حصہ میں آئی تھی میرا نام پوچھا تو میں نے ترجمہ بتایا۔ جس پر اس نے کہا کہ یہ تو کئیروں کا سانا نام ہے۔ اس کے بعد بشر بن سلیمان نے کہا کہ تعجب ہے کہ تم اہل فرنگ ہو مگر عربی خوب جانتی ہو۔ جواب دیا کہ میرے دادا کو مجھ سے بہت محبت تھی اور وہ یہ چاہتا تھا کہ مجھے آداب سند سکھائے اس لئے اس نے ایک ایسی محلہ کو میرے واسطے مقرر کیا جو فرنگی اور عربی زبان جانتی تھی۔ وہ صبح شام آتی اور عربی زبان کی تعلیم مجھے دیتی تھی یہاں تک کہ میں خوب عربی بولنے لگی۔

بشر بن سلیمان کہتے ہیں کہ جب میں ان معظمہ کو سرمن دانے (سامرہ) لے کر آیا اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ خدا نے دین اسلام کی عزت اور دین نصاریٰ کی ذلت اور اہلبیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کس طرح تم کو دکھائی۔ انہوں نے عرض کیا: اے فرزند رسول! میں اس بات کو کیا بیان کر سکتی ہوں۔ جس کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں۔ ان دو صورتوں میں سے کونسی صورت تم کو پسند ہے۔ دس ہزار دینار تم کو دوں یا شرافت ابدی کی بشارت دوں۔ انہوں نے

عرض کیا کہ میں مالی کی خواہش مند نہیں ہوں بلکہ شرف کی خوشخبری چاہتی ہوں آپ نے فرمایا کہ تم کو بشارت ہو ایک ایسے فرزند کی جو مشرق و مغرب کا بادشاہ ہوگا۔ اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جب یہ قلم و جوہر سے بھر چکی ہوگی۔ انہوں نے عرض کیا یہ فرزند کس سے ہوگا۔ آپ نے فرمایا: کس سے فلاں رات، فلاں شہر میں، فلاں سن میں روم میں حضرت محمدؐ نے تمہاری خواستگاری کی تھی! انہوں نے کہا حضرت مسیح اور ان کے وصی سے۔ فرمایا: یہ بتاؤ کہ کس کے ساتھ تمہارا عقد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے وصی نے کیا تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے فرزند ابو محمدؑ کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو پہچانتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا: جس شب سے ان کی والدہ جناب فاطمہ زہرا علیہا السلام کے ہاتھ پر ایمان لائی ہوں وہ ہر رات مجھے دیکھنے کے لئے آتے رہے ہیں۔

اس کے بعد آپ نے اپنے خادم کافور کو طلب فرمایا اور کہا کہ جاؤ میری بہن عیسیٰ کو بلا لاؤ۔ جب وہ آئیں تو آپ نے فرمایا کہ یہی وہ کنیز ہے جس کے لئے میں نے کہا تھا۔ یہ سن کر انہوں نے گلے سے لگایا اور بہت مہربانی سے پیش آئیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے دختر رسولؐ اس کو اپنے گھر لے جاؤ اور واجبات اور سنن کی تعلیم دو۔ یہ ابو محمدؑ کی زوجہ اور صاحب الزمان (علیہ السلام) کی والدہ ہیں۔

باب (۴۲) وہ روایات جو امام قائم علیہ السلام کی ولادت سے متعلق ہیں

۱۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن حسن بن ولید نے ان سے محمد بن یحییٰ عطار نے ان سے ابو عبد اللہ حسین بن رزق اللہ نے ان سے موسیٰ بن محمد بن قاسم بن حمزہ بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب علیہم السلام نے بیان کیا ہے کہ مجھ سے جناب عیسیٰ خاتون بنت محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب علیہم السلام نے بیان کیا ہے کہ ایک دن مجھے جناب حسن عسکری علیہ السلام نے بلوایا اور ارشاد فرمایا کہ اے پھوپھی آج رات میرے پاس افطار کریں۔ یہ نصف شعبان کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو اپنی زمین پر اپنی رحمت کو ظاہر کرنے والا ہے۔ میں نے دریافت کیا: یہ ولادت کس سے ہوگی؟ آپ نے فرمایا نرجس خاتون سے۔ یہ سن کر میں نے عرض کیا: میں آپ پر قربان نرجس خاتون میں تو کوئی حمل کے آثار نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا جو کہا گیا ہے وہی ہوگا۔ میں اٹھ کر جناب نرجس خاتون کے پاس آئی۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ اے میری اور میرے اہل کی سردار آپ کیسی ہیں؟ میں نے کہا کہ میں نہیں بلکہ تم میری اور میرے اہل کی سردار ہو تو انہوں نے مجھے ایسا کہنے سے منع کیا اور کہا: اے پھوپھی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو میں نے کہا: اے بیٹی آج شب تم کو اللہ تعالیٰ ایک بچہ عطا کرے گا جو دنیا اور آخرت میں سردار ہوگا۔ یہ سن کر وہ فحش ہونیں اور شرمانگئیں۔

نماز مغربین اور کھانے سے فارغ ہو کر نرجس خاتون کے پاس ہی آرام کیا۔ آدھی رات کو اٹھی۔ نرجس خاتون

سو رہی تھیں میں نے نماز شب پڑھی، ادعیہ اور تعقیبات میں مشغول تھی کہ نرجس خاتون بھی بیدار ہوئیں وضو کر کے نماز پڑھی اور پھر سو گئیں۔

جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ لٹنے میں صبح ہونے لگی اور میرے دل میں طرح طرح کے خیالات گزرنے لگے۔ جس پر امام حسن عسکری علیہ السلام نے اسی جگہ سے جہاں وہ تشریف فرما تھے مجھے آواز دی کہ اے بھوپھی اماں جلدی مت کیجئے وہ وقت قریب آگیا ہے۔ پس میں مطمئن ہو کر بیٹھ گئی اور سورہ الم سجدہ و یسین پڑھنے لگی۔ اسی اثناء میں، میں نے دیکھا کہ نرجس خاتون مضطرب ہو رہی ہیں۔ میں ان کے پاس گئی اور کہا کہ اسم الہی کا ورد کرو۔ پھر پوچھا کیا کچھ محسوس کرتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں بھوپھی جان۔ تب میں نے کہا کہ اطمینان رکھو وہی ہونے والا ہے جو تم سے کہہ چکی ہوں۔ حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ کبھی وہ مجھ سے لپٹ جاتیں اور کبھی میں انہیں لپٹنے بیٹنے سے لگاتی۔ لٹنے میں، میں نے لپٹنے آٹا کی آمد کو محسوس کیا۔ پس پردہ ہٹایا گیا۔ ناگاہ ایک بچہ کو دیکھا جو سجدے کی حالت میں تھا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے آواز دی: اے بھوپھی میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ میں بچہ کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے لپٹنے دونوں ہاتھ بچہ کے نیچے اور کر پر رکھ دیتے اور اس کے قدم لپٹنے بیٹنے پر رکھے اور اپنی زبان مبارک کو بچہ کے منہ میں ڈال دیا۔ اپنا ہاتھ اس کی دونوں آنکھوں، دونوں کانوں اور جوڑوں پر پھیرا۔ پھر فرمایا: اے فرزند کلام کرو۔ پس فرمایا: اشھدان لا الہ الا اللہ وحد لا شریک له، و اشھدان محمداً رسول اللہ (میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور حضرت محمدؐ اس کے رسول ہیں)۔ پھر آپ نے امیر المؤمنین اور ائمہ علیہم السلام پر درود بھیجا حتیٰ کہ آپ نے لپٹنے والے پر درود بھیجا اور خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا: اے بھوپھی اس بچہ کو اس کی ماں کے پاس لے جاؤ تاکہ ان کو سلام کرے۔ آپ نے بچہ (امام قائم علیہ السلام) کو میرے حوالے کیا۔ میں بچہ کو اس کی ماں کے پاس لے آئی۔ بچہ نے اپنی ماں کو سلام کیا۔ پھر میں بچہ لے کر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کے پاس رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا: اے بھوپھی ساتواں روز ہو تو ہمارے پاس آنا۔ صبح ہوئی تو میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو سلام کرنے حاضر ہوئی۔ میں نے کپڑا ہٹایا تو بچہ کوٹ پایا۔ میں نے عرض کیا کہ میں تربان بچہ کیا ہوا۔ آپ نے فرمایا: اے بھوپھی ہم نے اس کو اس کے سپرد کیا جس کے سپرد مادر موسیٰ نے موسیٰ کو کیا تھا۔

حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ جب ساتواں روز ہوا تو میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ کو سلام کیا اور بیٹھ گئی۔ آپ نے فرمایا: میرے پاس میرے فرزند کو لے آؤ۔ میں جناب قائم علیہ السلام کو آپ کے پاس لے آئی وہ کپڑے میں لپٹے تھے۔ آپ نے امام قائم کے ساتھ پہلے کی طرح برتاؤ کیا اور اپنی زبان چھائی گویا انہیں دودھ یا شہد چٹا

رہے تھے پھر کہا: اے فرزند بولو۔ پس امام قائمؑ نے شہادتیں پڑھیں اور لپٹے آباء کرام پر ایک کے بعد ایک پر درود پڑھا۔ یہاں تک کہ لپٹے والد پر درود پڑھا پھر یہ آیت تلاوت کی۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○ ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمة و نجعلہم الوارثین ○ ونمکن لہم فی الارض ونری فرعون و ہامن وجنودہما منہم ماکانوا یحذرون (سورہ قصص آیات ۵-۶) اور ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور ہوئے پڑے تھے ملک میں اور ان کو سردار کر دیں اور ان کو قائم مقام کر دیں اور ان کو ملک میں جہادیں اور فرعون اور ہامان کو اور ان کے لشکروں کو جو انہی میں سے تھے وہ کچھ دکھلا دیں جس کا خوف کیا کرتے تھے ○۔

موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے عقبہ خادم سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ خاتون نے سچ فرمایا۔

۲۔ مجھ سے حسین بن احمد بن ادریس نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے محمد بن اسماعیل نے ان سے محمد بن ابراہیم کوئی نے ان سے محمد بن عبداللہ طھوی نے بیان کیا کہ میں جناب عیسیٰ خاتون بنت محمد کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد ہجرت خدا کے بارے میں معلوم کروں اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے انتقال کے بعد جو لوگوں میں اشتباہات پیدا ہوئے ہیں ان کے بارے میں بات کر سکوں۔ پس جناب عیسیٰ خاتون نے مجھے بیٹھنے کے لئے کہا۔ میں بیٹھ گیا تو انہوں نے فرمایا: اے محمد اللہ اپنی زمین کو اپنی ہجرت (امام) سے خالی نہیں چھوڑے گا چاہے وہ ناطق ہو یا مسامت اور حضرت امام حسن اور امام حسین علیہما السلام کے بعد امامت دو بھائیوں میں جمع نہیں ہوگی امام حسن اور امام حسین کی فضیلت اور برائیوں سے پاک ہونے کے سبب اور یہ کہ زمین میں کوئی ان کی نظیر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد کو امام حسن کی اولاد پر فضیلت دی اور امامت کو ان کی اولاد میں مخصوص کر دیا ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ کی اولاد کو چھوڑ کر حضرت ہارون کی اولاد میں نبوت مخصوص کی تھی۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ہارون پر ہجرت تھے۔ پس تاقیامت امامت کا فضل امام حسین علیہ السلام کی اولاد کے لئے ہے اور ضروری ہے سرگردانی اور شک و شبہ اس امت میں پیدا ہو جائے اور اس کے نتیجے میں اہل باطل اس کا شکار ہو جائیں اور اہل حق پہچانے جائیں تاکہ ہم مخلوقات کے لئے اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے اور یقیناً حیرت اور سرگردانی کا دور ابو محمد حسن عسکری کی شہادت کے بعد آئے گا۔ میں نے عرض کیا: کیا امام حسن عسکری علیہ السلام کی بھی کوئی اولاد ہے؟ وہ مسکرائیں اور فرمایا: اگر نہیں ہے تو پھر ان کے بعد ہجرت کون ہے اور میں نے تمہیں ابھی بتایا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہما السلام کے بعد امامت دو بھائیوں میں جمع نہ ہوگی۔ میں نے کہا: میری سردار مجھے میرے آقا کی ولادت اور نبیت کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے فرمایا: ہماری ایک

کبیر تھی جس کو زرجس کہا جاتا تھا۔ ایک دن میرے بھائی کے فرزند ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ زرجس کو غور سے دیکھتے تھے۔ میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ کو اس کی دلی خواہش ہو تو میں آپ کو بخش دوں۔ آپ نے فرمایا: نہیں۔ بلکہ مجھے حیرانی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا: کس بات کی حیرانی تو فرمایا کہ عنقریب اس سے ایک فرزند پیدا ہوگا۔ جو اللہ کے نزدیک عزت والا ہوگا۔ وہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ علم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ میں نے کہا: اس کو آپ کی خدمت میں بھیج دوں۔ آپ نے فرمایا: اس سلسلے میں پدر زرجس کو از سے اجازت طلب فرمائیے۔ میں اپنے بھائی حضرت علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی انہیں سلام کیا اور بیٹھ گئی تو آپ نے گفتگو میں پہل کی اور فرمایا: اے حکیم زرجس کو میرے فرزند ابو محمد کے حوالے کر دو۔ میں نے عرض کیا: اے میرے آقا میں اسی عرض سے حاضر ہوئی ہوں تاکہ اس بارے میں آپ سے اجازت حاصل کروں۔ آپ نے فرمایا: اے میری برکت والی بہن۔ اللہ تعالیٰ نے اس امر کو دوست رکھا ہے کہ وہ آپ کو اس کام میں شریک کرے اور بھلائی میں آپ کا حصہ مقرر کرے۔ حکیم خاتون فرماتی ہیں: میں نے اپنے گھر آنے میں درندہ کی اور زرجس خاتون کو سنوار کر ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام کو بخش دیا اور دونوں کو اپنے گھر کے ایک کمرے میں جمع کر دیا۔ آپ میرے پاس کئی دن تک قیام پذیر رہے، پھر جناب حسن عسکری علیہ السلام زرجس خاتون کو لے کر اپنے والد جناب علی نقی علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔

جناب حکیم خاتون کہتی ہیں کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے والد کے قائم مقام ہوئے۔ ایک دن میں آپ کی زیارت کے لئے حاضر ہوئی جس طرح ان کے والد کی زیارت کے لئے حاضر ہوئی تھی تو زرجس میرے پاس آئیں اور میرے جوتے اتارنے لگیں اور کہا: اے میری آقا میں آپ کی جراب اتار دوں اور آپ کی خدمت کروں۔ میں نے جواب دیا: بلکہ تم میری آقا ہو۔ خدا کی قسم میں اپنی جراب اتارنے کے لئے تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ بلکہ میں بذات خود ہسر و چشم تمہاری خدمت کروں گی۔ جب یہ باتیں جناب امام حسن عسکری علیہ السلام نے سنیں تو فرمایا: اے پھوپھی خدا آپ کو جزا پیر دے۔ میں غروب آفتاب تک وہیں رہی پھر واپسی کا ارادہ کیا اور کبیر کو آواز دی اور اس سے کہا کہ میری چادر لے آؤ تاکہ میں چلی جاؤں تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا: اے پھوپھی آج رات ہمارے ساتھ اظفار فرمائیں۔ عنقریب وہ فرزند کریم میرے یہاں پیدا ہونے والا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرے گا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ ولادت کس سے ہوگی؟ کیوں کہ زرجس میں تو میں کوئی آثار حمل نہیں دیکھ رہی۔ آپ نے فرمایا کہ زرجس ہی سے یہ پیدائش ہوگی۔ میں اٹھی اور زرجس خاتون کے پاس پہنچی۔ شکم و پشت کو دیکھا مطلق آثار حمل نہ پائے۔ واپس آکر پھر میں نے یہی کہا۔ جس پر آپ مسکرائے اور فرمایا کہ جب صبح ہوگی تو معلوم ہو جائے گا۔ اس کا حال مادر موسیٰ کی مثل ہے کہ وقت ولادت

تک کسی کو علم نہیں ہوا اور نہ حمل کے آثار ظاہر ہو سکے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ کی جستجو میں فرعون کے حکم سے حاملہ عورتوں کے شکم چاک کئے جا رہے تھے۔ یہ فرزند بھی موسیٰ کی نظیر ہے۔

حکیمہ کہتی ہیں کہ میں دوبارہ نرجس خاتون کے پاس آئی اور جو کچھ آپ نے فرمایا تھا اس کی خبر دی اور حال پوچھا۔ جس پر انہوں نے جواب دیا اسے میری سردار میں ایسی کوئی بات لپٹنے میں نہیں پاتی۔ حکیمہ خاتون کہتی ہیں انزفرض رات دہاں ٹھہر گئی اور نرجس خاتون کے پاس آرام کیا۔ میں طلوع فجر تک ان کی نگرانی کرتی رہی جب کہ وہ اس طرح سوئی ہوئی تھیں کہ پہلو بھی نہیں بدلا آخر شب میں طلوع فجر کے قریب میں نے دیکھا کہ نرجس مضطرب ہو رہی ہیں یہ دیکھتے ہی میں اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کو سینے سے لگا کر اسما۔ الہی بڑھ کر دم کئے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے آواز دی کہ سورہ انا انزلناہ پڑھیے۔ میں نے نرجس خاتون سے پوچھا کہ اب کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جو کچھ مولانا نے فرمایا تھا ظاہر ہو گیا ہے۔ اس وقت میں نے سورہ انا انزلناہ کی تلاوت شروع کر دی اس کے پڑھتے ہی شکم مادر کے اندر سے ہی مولود کے بھی سورہ انا انزلناہ پڑھنے کی آواز آتی رہی اور اس نے مجھ کو سلام کیا۔

حکیمہ خاتون کہتی ہیں: یہ امور دیکھ کر میں ڈر گئی۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے آواز دی کہ پھوپھی اماں اللہ کی قدرت سے تعجب نہ کریں۔ خداوند عالم ہمارے بچوں کو حکمت کے ساتھ گویائی کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ اور روسے زمین پر بزرگی میں ہم کو اپنی حجت قرار دیتا ہے۔ ابھی آپ کا کلام ختم نہ ہوا تھا کہ نرجس خاتون میری نظروں سے غائب ہو گئیں۔ گویا میرے اور ان کے درمیان ایک پردہ ساحل ہو گیا۔ میں فریاد کرتی ہوئی ابو محمد کی خدمت میں آئی آپ نے فرمایا اے پھوپھی اماں اندیشہ کی بات نہیں۔ واپس جلیے۔ نرجس خاتون کو آپ وہیں پائیں گی۔

(حکیمہ خاتون) فرماتی ہیں کہ میں واپس آئی تو دیکھا کہ پردہ اٹھا دیا گیا ہے اور نرجس خاتون سے ایک ایسا نور ساطع ہو رہا ہے جس سے آنکھوں کو خیرگی ہوتی ہے۔ اور ایک صاحبزادے لپٹے گھٹنوں کے بل سجدے میں جھکے ہوئے انگشت شہادت آسمان کی طرف بلند کئے ہوئے فرما رہے ہیں۔ اشھدان لاله الا للہ [وحدہ لا شریک لہ] وان جدی محمد رسول اللہ وان ابی امیر المؤمنین (میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں۔ اور میرے نانا محمد خدا کے رسول ہیں۔ اور میرے دادا امیر المؤمنین) اس طرح ایک ایک امام کا نام لیا۔ جب لپٹے نام پر پہنچے تو فرمایا اے میرے پروردگار جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ اس کو میرے لئے وفا فرما اور میرے امر کو پورا کر۔ اور مجھے ثابت قدم رکھ اور میرے ذریعہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے۔

جناب امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے آواز دی کہ اے پھوپھی اس کو اٹھا کر میرے پاس لائیے۔ پس میں نے سچے کو اٹھایا اور ان کی طرف لے کر چلی جب میں نے اس کا رخ باپ کی طرف کیا تو لپٹے والد کو سلام کیا۔ پس جناب امام حسن عسکری نے اس کو مجھ سے لے لیا۔ (درحالیکہ پرندے اس کے سر پر منزلارہے تھے)۔ آپ نے جواب دیا اور

اپنی زبان مبارک چسائی پھر فرمایا: اس کو اس کی ماں کے پاس لے جلیئے تاکہ وہ اس کو دودھ پلائے۔ بعد میں میرے پاس لے آنا۔ میں اس کی ماں کے پاس لے گئی۔ انہوں نے دودھ پلایا۔ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں بچہ کو لائی۔ آپ نے ان مرغان سفید میں سے جن کی آدورفت ہو رہی تھی ایک کو حکم دیا کہ اس مولود کو لے جا اور اس کی حفاظت کر اور ہر چالیس روز کے بعد لے آنا۔ چنانچہ وہ لے گیا۔ اور اس کے پیچھے باقی پرندے بھی اڑ گئے۔ اس وقت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرما رہے تھے کہ میں نے تم کو اس اللہ کے سپرد کیا ہے جس کی سپردگی میں حضرت موسیٰ کو مادر موسیٰ نے دیا تھا۔ نرجس خاتون اس واقعہ سے رونے لگیں۔ آپ نے انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ۔ عنقریب یہ فرزند تمہارے پاس آئے گا۔ اور تمہارے سوا کسی کا دودھ نہیں پینے گا۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پاس لوٹے تھے جیسے کہ پروردگار کا ارشاد ہے۔ **فَرَدَدْنَا لَآ اِمَہَ کَی تَقَرَّ عَیْنُہَا وَ لَا تَحْزَنَ** (سورۃ قصص آیت نمبر ۱۳)۔ پھر ہم نے پہنچا دیا اس کو اس کی ماں کی طرف کہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ اور ٹنگیں نہ ہو۔

عیکہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ یہ پرندے کیسے تھے، آپ نے فرمایا جو لے گیا وہ روح القدس ہے اور ائمہ علیہم السلام پر موکل ہے۔ جو ان کو ہر لغزش اور خطا سے محفوظ رکھتا ہے، انہیں کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے، ان کی بھرپور مدد کرتا ہے اور علم کی روشنی سے انہیں آراستہ کرتا ہے۔

عیکہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں چالیس روز کے بعد گئی تو میں نے ایک بچہ کو وہاں چلتے پھرتے دیکھا۔ جس پر میں نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے عرض کیا کہ صاحب زادے تو دو سال کے معلوم ہوتے ہیں۔ آپ مسکرائے اور فرمایا کہ انبیاء اور اوصیاء کے فرزند جو امام ہوتے ہیں ان کی نشوونما خلاف عادت ہوتی ہے۔ وہ ایک ماہ میں اتنا بڑھتے ہیں جتنا ایک عام بچہ ایک سال میں اور ہمارے بچے شکم مادر میں کلام کرتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں اور خداوند تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ ملائکہ صبح و شام ان کے پاس آتے ہیں۔

عیکہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں ہر چالیس روز کے بعد انہیں دیکھتی یہاں تک کہ ان کے والد کے انتقال سے چند روز پہلے میں نے انہیں جو ان مرد دیکھا تو میں پہچان نہ سکی تو میں نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے عرض کیا: یہ کون شخص ہے جو مجھے بیٹھنے کو کہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ نرجس کا فرزند ہے یہ میرے بعد میرا خلیفہ ہے۔ پس کچھ عرصہ بعد یہ جہاری نظروں سے پوشیدہ ہو جانے لگا۔ اس کے بارے میں میری بات سنو اور میری اطاعت کرو۔

عیکہ خاتون فرماتی ہیں کہ اس کے چند دن بعد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا جیسا کہ ہم نے دیکھا۔ خدا کی قسم میں ہر روز صبح و شام صاحب الامر علیہ السلام کے پاس جایا کرتی اور جو کچھ لوگ مجھ سے سوالات کرتے، آپ سے ان کے جوابات لے کر سوال کرنے والوں کو بتلا دیتی۔ خدا کی قسم کبھی

بھی ایسا ہوتا کہ میں نے دریافت کرنے کا ارادہ کیا اور سوال کرنے سے پہلے ہی آپ نے جواب دے دیا۔ انہوں نے گزشتہ شب مجھے خبر دی تھی کہ تم آج میرے پاس آؤ گے اور مجھے حکم دیا کہ میں تم کو حق بات بتاؤں گی۔ محمد بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جیسے خاتون نے مجھے وہ بات بتائی جس کی خبر سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے صدق و عدل ہے۔ بے شک اللہ عزوجل نے مطلع کیا اس بات سے جس پر اپنی مخلوق میں سے کسی کو مطلع نہیں کیا۔

۳۔ بیان کیا مجھ سے جعفر بن محمد بن مسرور نے ان سے حسین بن محمد بن عامر نے ان سے معلیٰ بن محمد بصری نے بیان کیا کہ زبیری کے قتل کے وقت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس شخص کا انجام ہے جس نے اللہ پر اس کے اولیاء کے بارے میں جھوٹ باندھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ مجھے قتل کر دے گا اور میرا کوئی جانشین نہ ہو سکے گا۔ پس اس نے قدرتِ خدا کو دیکھ لیا۔ آپ کے ایک صاحبزادے تھے جن کا اسم مبارک "محمّد" تھا جو سن دو سو پچھن میں پیدا ہوئے۔

۴۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن محمد بن عصام نے ان سے محمد بن یعقوب کلینی نے ان سے علی بن محمد نے بیان کیا کہ صاحب امر علیہ السلام کی ولادت نصف شعبان سن دو سو پچھن میں ہوئی۔

۵۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن علی ماجیلویہ اور احمد بن محمد بن یحییٰ عطار رضی اللہ عنہما نے ان سے محمد بن یحییٰ عطار نے ان سے حسین بن علی نیشاپوری نے ان سے ابراہیم بن محمد بن عبد اللہ بن موسیٰ بن جعفر علیہما السلام نے ان سے ساری نے بیان کیا کہ نسیم اور ماریہ کنیزیں کہتی ہیں کہ جب جناب صاحب امر علیہ السلام اپنی والدہ کے شکم سے پیدا ہوئے تو آپ نے دونوں گھٹنوں کو زمین پر ٹیک دیا اور اپنی دونوں سبابہ انگلیوں (انگھٹھوں) کو آسمان کی طرف بلند کیا پھر آپ نے چھینک لی اور فرمایا: تمام کائنات کے پلنے والے کا شکر ہے اور اللہ کی رحمت محمد اور آل محمد علیہم السلام پر نازل ہو۔ ظالم گمان کرتے ہیں کہ اللہ کی حجت باطل ہو گئی۔ اگر ہمیں اجازت ہوتی تو (ابھی) ان کے شکم کو زائل کرتے۔

ابراہیم بن محمد بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ نسیم کنیز کا بیان ہے کہ امام قائم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ایک شب میری حاضری ہوئی تو مجھے چھینک آئی۔ آپ نے فرمایا: یرحمک اللہ جس کو سن کو مجھے خوشی ہوئی۔ پھر کہا کہ کیا اس کے متعلق تجھ کو خوشخبری دوں۔ میں نے عرض کیا کہ ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ چھینک کا آنا تین دن تک موت سے امان کا باعث ہے۔

۶۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن علی ماجیلویہ اور محمد بن موسیٰ بن متوکل اور احمد بن محمد بن یحییٰ عطار رضی اللہ عنہم نے ان سے محمد بن یحییٰ عطار نے ان سے اسحاق بن رباح بصری نے ان سے ابو جعفر عمری نے کہ جب امام قائم علیہ السلام

کی ولادت ہوئی تو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو عمرو (یعنی عثمان بن سعید) کو بلاؤ۔ جب وہ حاضر ہوئے تو فرمایا کہ دس ہزار رطل روئی اور دس ہزار رطل گوشت خرید کر تقسیم کر دو علی بن ہاشم کہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ بکری وغیرہ سے کیا۔

۷۔ مجھ سے محمد بن علی ماجلیہ نے بیان کیا ان سے محمد بن یحییٰ عطار نے ان سے ابو علی خیزرانی نے کہا کہ میری ایک کنیز تھی جس کو میں نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کیا تھا۔ جب جعفر کذاب نے آپ کے گھر پر قبضہ کیا تو اس کنیز سے نکاح کر لیا۔ ابو علی کہتے ہیں کہ وہ کنیز بیان کرتی ہے کہ میں امام قائم علیہ السلام کی ولادت کے وقت موجود تھی۔ آپ کی والدہ کا نام صقیل تھا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے جب آپ کی والدہ کو اپنے بعد ہونے والے واقعات سے مطلع کیا جو آپ کے عیال پر گزریں گے تو انہوں نے پروردگار سے دعا کی تھی کہ اے اللہ انہیں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت سے قبل ہی دنیا سے اٹھالے۔ پس ان کا انتقال آپ کی زندگی میں ہی ہو گیا۔ ان کی قبر کی لوح پر لکھا ہے "یہ ام محمد کی قبر ہے" ابو علی کا بیان ہے یہی کنیز کہتی ہے کہ امام قائم علیہ السلام کی ولادت کی شب میں نے دیکھا کہ ایک نور ساطع ہے جو زمین سے آسمان تک پھیلا ہوا ہے اور سفید پرندے آسمان پر پرواز کر رہے ہیں۔ اور اپنے پردوں کو مولود کے سر، چہرہ اور تمام بدن سے مس کرتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں۔ میں نے اس کی خبر جناب حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو دی تو وہ مسکرا دیئے اور فرمایا یہ ملائکہ ہیں جو اس مولود سے برکت حاصل کر رہے ہیں۔ اور یہ ہی اس بچے کے انصار ہیں جب یہ خروج کرے گا۔

۸۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن موسیٰ بن متوکل نے ان سے عبداللہ بن جعفر حمیری نے ان سے محمد بن احمد علوی نے ان سے ابو قائم خادم نے بیان کیا کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے یہاں ایک بچہ کی ولادت ہوئی جس کا نام محمد تھا۔ آپ نے تیسرے دن اپنے اصحاب کو اس بچہ کی زیارت کرائی اور فرمایا کہ یہ میرے بعد جہارا امام اور تم پر میرا خلیفہ ہے۔ یہ ہی قائم (علیہ السلام) جس کا ہمیں طویل انتظار کرنا ہے۔ اور یہ ہی زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔

۹۔ بیان کیا مجھ سے علی بن حسن بن فرج مؤذن نے ان سے محمد بن حسن کوفی نے کہ ہمارے اصحاب میں سے ایک شخص ابو ہارون کا کہنا ہے کہ میں نے صاحب امر علیہ السلام کو دیکھا ہے وہ جمعہ کے دن سن دو سو چھپن میں پیدا ہوئے۔

۱۰۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن موسیٰ بن متوکل نے ان سے عبداللہ بن جعفر حمیری نے ان سے محمد بن ابراہیم کوفی نے کہ ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام نے میرے پاس اپنے قابل اعتماد شخص کو بھیجا جو ایک ذبح شدہ بکری لے کر آیا تھا۔

۱۱۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن علی ماجلیہ نے ان سے محمد بن یحییٰ عطار نے ان سے حسین بن علی نیشاپوری نے ان سے حسن بن منذر نے کہ ایک دن میرے پاس حمزہ بن ابی فتح آئے اور کہا: مبارک ہو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ اور آپ کا حکم ہے کہ اس امر کو راز میں رکھو۔ میں نے پوچھا اس بچہ کا کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس کا نام محمد اور کنیت ابو جعفر رکھی ہے۔

۱۲۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن ابراہیم بن اسحاق نے ان سے حسن بن علی بن ذکریا نے مدینہ میں، ان سے ابو عبد اللہ محمد بن خلیلان نے ان سے ان کے والد نے ان سے ان کے والد نے ان سے ان کے جد نے ان سے خیث بن اسید نے کہ جناب قائم علیہ السلام جمعہ کے دن پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ صحابہ تھیں جن کو زہرا اور صیقل اور سوسن بھی کہا جاتا ہے۔ صیقل اس لئے کہا گیا کہ بتین (حمل) کی وجہ سے وہ نورانی ہو گئیں جناب امام قائم علیہ السلام شجبان کی آٹھ راتیں گزرنے کے بعد سن دوسو چھپن میں پیدا ہوئے۔ آپ کے وکیل عثمان بن سعید تھے۔ عثمان بن سعید نے انتقال کرتے ہوئے اپنے صاحبزادہ ابو جعفر محمد بن عثمان کے لئے وصیت کی اور ابو جعفر نے ابو القاسم حسین بن روح کے لئے وصیت کی اور ابو القاسم نے علی بن محمد سمری کے لئے وصیت کی رضی اللہ عنہم جب سمری کا آخری وقت آیا تو ان سے آپ کے وکیل کے بارے میں پوچھا گیا۔ سمری نے کہا اب یہ امر اللہ کے پاس ہے۔ پس سمری کے بعد غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا۔

۱۳۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن ابراہیم بن اسحاق طالقانی نے ان سے حسن بن علی بن ذکریا نے مدینہ میں ان سے ابو عبد اللہ محمد بن خلیلان نے ان سے ان کے والد نے ان سے ان کے والد نے ان سے ان کے جد نے ان سے خیث بن اسید (اسد) نے کہ محمد بن عثمان عمری قدس اللہ روحہ فرماتے ہیں کہ جب امام قائم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے چہرہ سے ایک نور سا طبع ہوا جو آسمان تک پھیلا ہوا تھا۔ ولادت کے بعد آپ نے اپنا چہرہ سجدہ میں رکھ دیا اور ذکر خدا بجالانے پھر چہرہ اٹھایا اور فرمایا **شهد اللہ انہ لالہ الا ہو والملائکة واولوا العلم قائما بالقسط لالہ الا ہو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الا سلام** اللہ نے گواہی دی کہ اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں اور ملائکہ نے جو عدل پر قائم ہیں کہ اس عزیز و حکیم کے علاوہ کوئی نہیں۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔

محمد بن عثمان عمری قدس اللہ روحہ کہتے ہیں کہ امام قائم علیہ السلام کی ولادت بروز جمعہ ہوئی۔

۱۴۔ انہی اسناد کے ساتھ محمد بن عثمان عمری قدس اللہ روحہ سے روایت ہے کہ آپ نختہ شدہ پیدا ہوئے۔ جناب حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ آپ کی والدہ کے نفاس کا خون جاری نہیں ہوا اور یہ ہی پاک و پاکیزہ سنت امہ علیہم السلام کی اہمات کے لئے جاری رہی ہے۔

۱۵۔ بیان کیا مجھ سے عبدالواحد بن محمد بن عبدوس عطار نے ان سے علی بن محمد بن قتیبہ نیشاپوری نے ان سے حمدان بن سلیمان نے ان سے محمد بن حسین بن زید نے ان سے ابو احمد محمد بن زیاد ازدی نے کہ جب حضرت امام ابوالمسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے یہاں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ نے فرمایا۔ میرا یہ بیٹا مخنون (خشنہ شدہ) اور طاہر و مطہر پیدا ہوا ہے۔ اور ائمہ ہمیشہ مخنون اور طاہر و مطہر پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن ہم موسیٰ پر سنت کی درستی اور دین حنیفی کی پیردی سے گزریں گے۔

۱۶۔ بیان کیا مجھ سے ابو العباس احمد بن حسین بن عبداللہ بن مہران ابی ازدی عروسی نے مرو میں ان سے احمد بن حسن بن اسحاق قتی نے کہ جب خلف صالح علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے ایک خط میرے دادا احمد بن اسحاق کو لکھا کہ ہمارے ہاں ایک نو مولود پیدا ہوا ہے پس یہ بات ہمارے پاس راز میں رہے اور تمام لوگوں سے پوشیدہ رہے۔ ہم نے اپنے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار اور اس کی ولایت کے ماننے والوں کے علاوہ کسی کو اس بات سے آگاہ نہیں کیا ہے۔ ہم نے چاہا تمہیں یہ خوشخبری سنائیں تاکہ اللہ جہارا دل شاد کرے جس طرح ہمیں مسرت سے ہمتا کر کیا ہے۔ والسلام

صاحب الزمان علیہ السلام کی ولادت پر ان کے والد کو مبارک باد

۱۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن حسن بن احمد بن ولید نے ان سے محمد بن حسن کرفی نے ان سے عبداللہ بن عباس علوی نے ان سے ابو الفضل حسن بن حسین علوی نے کہ حضرت امام قائم علیہ السلام کی ولادت کی خبر پاکر میں سرمن رائے (سامرہ) میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت تہنیت کے لئے حاضر ہوا۔

باب (۳۳) ان لوگوں کا ذکر جنہوں نے حضرت امام قائم علیہ السلام کی زیارت کی

۱۔ بیان کیا مجھ سے علی بن حسن بن فرج موذن نے، بیان کیا ان سے محمد بن حسن کرفی نے انہوں نے ابو ہارون جو ہمارے دوستوں میں سے تھا سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے صاحب الزمان علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ کا چہرہ چودہویں کے چاند کے مانند جگمگا رہتا تھا۔ آپ کی ناف پر بالوں کی لکیر تھی۔ میں نے کہہ دیا تو دیکھا حضور مخنون (خشنہ شدہ) ہیں۔ میں نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: ہاں یہ بچہ اسی طرح پیدا ہوا ہے اور ہم ائمہ اسی طرح پیدا ہوتے ہیں۔

۲۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن علی ماجیلوی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن یحییٰ عطار نے ان سے جعفر بن محمد بن مالک فزاری نے ان سے معاویہ بن حکیم اور محمد بن ایوب بن نوح اور محمد بن عثمان عمری نے انہوں نے کہا

کہ ہم چالیس افراد ایک ساتھ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے اپنا فرزند ہمیں دکھایا اور فرمایا کہ یہ میرے بعد تمہارا امام اور تم لوگوں پر میرا خلیفہ ہے۔ اس کی اطاعت کرو اور میرے بعد دین میں تفرقہ نہ ڈالنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج کے بعد تم لوگ اس کو نہ دیکھو گے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس ملاقات کے چند دنوں کے بعد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔

۳۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن حسن نے ان سے عبداللہ بن جعفر حمیری نے انہوں نے کہا کہ میں نے محمد بن عثمان عمری سے کہا کہ میں تم سے ایک ایسا سوال پوچھتا ہوں جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ پوچھا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتی قال اولم تو من قال بلی ولكن لیطمئن قلبی (سورۃ بقرہ آیت ۲۶۰) اے میرے پروردگار مجھے دکھلا دے کہ کیوں کر زندہ کرے گا تو مردوں کو۔ فرمایا کیا تو نے یقین نہیں کیا۔ کہا کیوں نہیں لیکن چاہتا ہوں کہ تسکین ہو جائے میرے دل کو۔ پس تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم نے صاحب الزمان علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں اور ان کی گردن ایسی ہے اور اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا۔

۴۔ بیان کیا مجھ سے علی بن احمد دقاق، محمد بن محمد بن عصام کلینی اور علی بن عبداللہ درّاق رضی اللہ عنہم نے ان سب سے محمد بن یعقوب کلینی نے ان سے علی بن محمد نے ان سے محمد اور حسن جو علی بن ابراہیم کے بیٹے تھے نے سن ۲۷۹ ہجری میں ان سے محمد بن علی بن عبدالرحمن عبیدی نے ان سے عبد قیس نے ان سے ضوہ ابن علی عجللی نے ان سے اہل فارس کے ایک شخص نے بیان کیا کہ میں سرمن رائے (سامرا) میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے در دولت پر حاضر ہوا۔ ابھی میں چاہتا ہی تھا کہ اجازت لوں۔ اندر سے آپ کی آواز آئی اور آپ نے مجھے بلایا۔ میں داخل ہوا اور سلام کیا۔ آپ نے فرمایا: کہو کیسے ہو؟ پھر مجھے بیٹھنے کے لئے کہا اور میرے اہل و عیال کے حالات معلوم کئے۔ پھر فرمایا: کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کیا: آپ کی خدمت کی عرض سے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا: پھر ہمیں رہو۔ میں خادموں کے ساتھ آپ کے گھر میں رہنے لگا۔ ایک دن میں بازار سے اشیاء ضرورت خرید کر واپس لوٹا۔ جب در دولت میں داخل ہوا تو آپ نے مجھے آواز دی کہ اپنی جگہ رک جاؤ۔ نہ باہر نکلنا نہ اندر آنا۔ میں ایک کنیز اندر سے نکلی جس کے ہاتھ میں کوئی چیز کپڑے میں لپیٹی ہوئی تھی۔ پھر امام نے مجھے بلایا اور کنیز کو بھی آواز دی۔ جب کنیز آئی تو آپ نے فرمایا: جو تمہارے پاس ہے وہ دکھاؤ۔ اس نے کپڑا ہٹایا تو میں نے اس کے ہاتھوں پر ایک خوبصورت بچہ دیکھا۔ میں نے اس کا پیٹ دیکھا جس پر سینے سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی۔ آپ نے فرمایا: یہ تمہارا (میرے بعد) امام ہے۔ پھر کنیز کو حکم دیا کہ اسے لے جاؤ۔ اس کے بعد پھر میں نے اس بچہ کو نہ دیکھا جہاں تک کہ امام کا انتقال ہو گیا۔ ضوہ بن علی کہتے ہیں کہ میں نے اس اہل فارس سے پوچھا: اُس وقت امام قائم علیہ السلام کا سن کیا تھا۔ اس نے جواب دیا: دو سال۔ عبیدی کہتے ہیں کہ میں نے ضوہ بن علی سے پوچھا: اِس وقت ان کی عمر کیا ہوگی۔ انہوں نے جواب دیا: چودہ سال۔ ابو علی اور

ابو عبداللہ کہتے ہیں: اس وقت اکیس سال عمر ہوگی۔

۵۔ مجھ سے ابو طالب مظفر بن جعفر بن مظفر طوی سمرقندی نے بیان کیا۔ ان سے جعفر بن محمد بن مسعود نے ان سے ان کے والد محمد بن مسعود عیاشی نے ان سے آدم بن محمد طلی نے ان سے علی بن حسن بن ہارون دقاق نے ان سے جعفر بن محمد بن عبداللہ بن قاسم بن ابراہیم بن اشتر نے ان سے یعقوب بن مقوش نے انہوں نے کہا کہ میں حضرت امام حسن عسکری کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کی دائیں جانب ایک کمرہ تھا۔ جس (کے دروازے) پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے آپ سے عرض کیا: مولا۔ صاحب امر علیہ السلام کون ہیں۔ آپ نے فرمایا: پردہ اٹھاؤ۔ میں نے پردے اٹھایا تو اندر سے ایک آٹھ یا دس سال کے قریب کا ایک خوبصورت لڑکا نکلا جو روشن پیشانی، سفید رو، ستھری آنکھوں، چھوٹے بھرے بھرے ہاتھ اور مضبوط گھٹنوں والا تھا۔ اس کے دائیں رخسار پر تل اور سر پر لمبے بال تھے۔ پس وہ حضرت ابو محمد علیہ السلام کے زانو پر بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا: یہ تمہارے صاحب امر ہیں۔ پھر صاحب امر سے کہا: بیٹا وقت معلوم تک کے لئے لوٹ جاؤ۔ پس وہ (صاحب امر) کمرے میں تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے مجھ سے کہا: اے یعقوب کمرے کے اندر جا کر دیکھو کون ہے؟ میں نے اندر جا کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔

۶۔ بیان کیا مجھ سے ابو بکر محمد بن علی بن محمد بن حاتم نوفلی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے ابوالمسین عبداللہ بن محمد بن جعفر قصبانی بغدادی نے ان سے محمد بن جعفر فارسی المعروف بہ ابن جرموز نے ان سے محمد بن اسماعیل بن بلال بن سمون نے ان سے ازہری سرور بن العاص نے ان سے مسلم بن فضل نے انہوں نے کہا کہ میں ابو سعید غانم بن سعید ہندی کے پاس کوفہ گیا اور اس سے اس کا حال دریافت کیا اور ان امور کے بارے میں معلوم کیا جو اس کے ساتھ پیش آئے تھے وہ بولا: میں ہند کے ایک شہر میں رہتا تھا جس کا نام کشمیر تھا اور میں ان چالیس افراد میں سے ہوں جو بادشاہ کے مصاحب تھے۔

(یہ ہی روایت ایک اور سند کے مطابق) بیان کیا مجھ سے میرے والد نے ان سے سعد بن عبداللہ نے ان سے علان کلینی نے ان سے علی بن قیس نے ان سے غانم ابو سعید ہندی نے۔
(ایک اور سند کے مطابق) علان کلینی کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک جماعت نے بیان کیا ان سے محمد بن محمد اشعری نے ان سے غانم نے بیان کیا۔

الغرض میں ہند کے بادشاہ کے پاس کشمیر (کشمیر) میں تھا اور ہم چالیس افراد تھے جو بادشاہ کے اطراف میں کرسی پر بیٹھتے تھے اور ہم تورمت، انجیل اور زبور کے عالم تھے ایک دن ہمارے درمیان حضرت محمد کے متعلق گفتگو ہوئی اور ہم نے کہا کہ ہم نے ان کا ذکر اپنی کتابوں میں پایا ہے۔ اور یہ طے پایا کہ میں ان کی تلاش میں جاؤں اور ان سے دین حق کا احوال پوچھوں۔ پس میں کچھ مال لے کر نکل پڑا۔ راستے میں ڈاکوں نے لوٹ لیا۔ میں کسی طرح کابل پہنچا اور

کابل سے بلخ گیا۔ وہاں کا امیر ابن ابو شور تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے اپنا مدعا بیان کیا۔ اس نے فقہاء اور علماء کو جمع کیا تاکہ اسلام کے بارے میں مجھ سے مناظرہ کریں۔ پس میں نے ان لوگوں سے حضرت محمدؐ کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے کہا: وہ ہمارے نبی ہیں اور ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے کہا: ان کا خلیفہ کون تھا۔ ان لوگوں نے جواب دیا: ابو بکرؓ۔ میں نے کہا: ان کا نسب بیان کرو۔ انہوں نے اس کا نسب قریش سے ملایا۔ میں نے کہا: پھر وہ شخص (جس کے خلیفہ ابو بکر ہیں) نبی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ اس کا خلیفہ اس کا ابن عم ہے۔ جو اسی کی بیٹی کا شوہر اور اس کے بچوں کا باپ ہے۔ پس وہ یہ سن کر وہ سب لہنے امیر سے بولے کہ یہ شخص شرک سے نکل کر کفر میں داخل ہو گیا ہے۔ اسلئے اس کی گردن مار دی جائے۔ میں نے کہا: میں ایک دین پر عمل پیرا ہوں اور میرا مقصد صرف اپنے علم کا بیان ہے۔

پس امیر نے حسین بن اسکیب کو بلوایا اور کہا کہ اے حسین اس شخص سے مناظرہ کرو اس نے کہا کہ اس کو تو علماء اور فقہاء نے گھیرا ہوا ہے میں کیسے اس سے مناظرہ کروں پس (امیر نے) کہا: اس سے مناظرہ کر دجیسے میں نے کہا ہے، اسے خلوت میں لے جاؤ اور مہربانی سے پیش آؤ۔ پس حسین بن اسکیب مجھ کو علیحدگی میں لے گئے۔ میں نے حضرت محمدؐ کے متعلق سوال کیا۔ تو انہوں نے کہا: جیسے کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ وہ ہمارے نبی ہیں۔ مگر یہ کہ ان کے خلیفہ ان کے ابن عم علی بن ابی طالب علیہما السلام ہیں جو ان کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے شوہر اور ان کے بچوں حسن و حسین علیہما السلام کے والد ہیں۔ میں نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں اور محمدؐ اس کے رسول ہیں۔ وہ مجھ کو امیر کے پاس لے گیا اور میں نے اسلام کا اعلان کیا۔ پس میں حسین بن اسکیب کے ساتھ اس کے گھر آیا۔ اس نے مجھے اسلام کی تعلیمات بیان کیں۔ میں نے کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ہر خلیفہ کا ایک جانشین ہوتا ہے۔ پھر حضرت علیؓ کا جانشین کون ہے۔ جواب دیا حسن پھر حسین پھر ایک ایک امام کا نام بیان کیا یہاں تک کہ امام حسن عسکریؑ کے نام پر پہنچے اور کہا تم اب خود حسن عسکریؑ کے جانشین کو تلاش کرو۔ پس میں ان کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔

محمد بن محمد نے کہا: اور وہ ہمارے ساتھ بغداد تک گیا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ اس کا ایک دوست تھا جو اس معاملہ میں اس کا ساتھ دے رہا تھا لیکن اسی دوران میں اس کی بعض عادات و خصلتوں سے تنگ ہوا اور اس سے جدا ہو گیا۔

اس نے کہا: میں امام مہدیؑ کی تلاش میں بغداد آیا۔ میں بل پر منتظر حالت میں چل رہا تھا کہ آپؑ کو کہاں پاؤں اسی دوران میں میرے پاس ایک شخص آیا اور مجھ سے کہا: اپنے آقا کے پاس چلئے۔ وہ میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ آخر کار اس نے مجھے ایک گھر میں داخل کیا۔ جس میں باغ موجود تھا۔ ناگاہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے آقا تشریف فرما ہیں۔

جب آپ نے مجھے دیکھا تو مجھ سے ہندی میں گفتگو فرمائی، اور مجھے سلام کیا، مجھے نام لیکر مخاطب کیا اور ان چالیس آدمیوں کے متعلق فرداً فرداً دریافت کیا، پھر فرمایا: تم اس سال قم کے رہنے والوں کے ساتھ حج ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، اس سال تم حج ادا نہ کرو غراسان چلے جاؤ۔ آئندہ سال حج ادا کرنا۔ آپ نے میری طرف ایک تھیلی کو پھینک کر فرمایا: اس کو اپنے فرج میں صرف کرو اور بغداد میں کسی کے گھر میں نہ ٹھہرنا۔ اور جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس کے متعلق کسی کو آگاہ نہ کرنا۔

ہم عقبہ سے چلے اور ہمارا حج پورا نہیں ہوا تھا اور غانم غراسان چلا گیا اور اگلے سال حج کیا۔ پھر ہماری طرف لطف و محبت سے آیا اور قم میں داخل نہیں ہوا اور نہ حج کیا اور غراسان گیا وہیں اس کی موت واقع ہوئی۔ اللہ اس پر رحم فرمائے۔

محمد بن شاذان نے کابلی سے روایت کی ہے میں نے اس کو ابو سعید کے پاس دیکھا پس اسے یاد آیا کہ میں دین حق کی تلاش میں جو میں نے انجیل میں پایا تھا کابل سے نکلا تھا۔ محمد بن شاذان نے مجھ سے کہا کہ مجھ تک یہ خبر پہنچی کہ وہ یہاں پہنچ گیا ہے۔ میں اس کی تلاش میں رہا یہاں تک کہ اس سے میں ملا اور اس کا حال احوال پوچھا۔ اس نے کہا کہ اب بھی وہ تلاش میں ہے۔ وہ مدینہ میں مقیم ہو گیا تھا۔ جس شخص سے بھی اس بات کا تذکرہ کرتا تھا۔ وہ اس کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ بنی ہاشم کے ایک شیخ سے ملا جس کا نام یحییٰ بن محمد عریضی تھا اس نے کہا: جس شخص کو تم تلاش کرتے ہو وہ صریا میں موجود ہے۔ اس نے کہا: میں صریا میں وارد ہوا، ایک چمڑکاڑکی ہوئی دہلیز پر پہنچا اور لپٹنے آپ کو وہاں گرا دیا تب ایک سیاہ نام غلام نے مجھے چمڑکا اور کہا: اس جگہ سے اٹھ جاؤ۔ میں نے کہا: میں اس جگہ سے نہیں اٹھوں گا۔ غلام گھر میں گیا۔ پھر آیا اور مجھے اندر چلنے کو کہا۔ میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ میرے آقا گھر کے درمیان تشریف فرما ہیں۔ آپ نے مجھے میرے نام کے ساتھ پکارا۔ حالانکہ میرے نام کو میرے اہل کے سوا جو کابل میں تھے اور کوئی شخص نہیں جانتا تھا۔ پھر آپ نے مجھے چند چیزوں کے متعلق آگاہ فرمایا۔ میں نے عرض کیا: میرا نفقہ ضائع ہو گیا ہے تو مجھے عطا کیجئے۔ آپ نے فرمایا: وہ تمہارے جھوٹ کی وجہ سے ضائع ہوا ہے۔ پھر آپ نے میرا نفقہ مجھے عطا کیا۔ تو جو کچھ میرے پاس بچنے سے تھا وہ ختم ہو گیا لیکن ان کا دیا میرے پاس باقی رہا۔ پھر میں آپ کے پاس سے واپس چلا آیا۔ جب میں دوسرے سال واپس گیا تو میں نے اس گھر میں کسی کو نہیں پایا۔

۴۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے ان سے سعد بن عبداللہ نے ان سے جعفر بن محمد بن مالک کوئی نے ان سے اسحاق بن محمد صیرفی نے ان سے یحییٰ بن شئی عطار نے ان سے عبداللہ بن بکیر نے ان سے سعید بن زرارة نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ اپنے امام کو کھودیں گے۔ پس وہ (امام) ہر سال موسم حج میں (خانہ کعبہ) آئیں گے۔ وہ تو لوگوں کو دیکھیں گے مگر لوگ انہیں نہیں دیکھ سکیں گے۔

۸۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن موسیٰ بن متوکل نے ان سے عبداللہ بن جعفر حمیری نے ان سے محمد بن عثمان عمری نے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ ارشاد سنا کہ خدا کی قسم صاحب الامر ہر سال حج کے موقع پر تشریف لاتے ہیں۔ وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ لوگ بھی انہیں دیکھتے ہیں مگر پہچانتے نہیں ہیں۔

۹۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن موسیٰ بن متوکل نے ان سے عبداللہ بن جعفر حمیری نے انہوں نے کہا کہ میں نے محمد بن عثمان عمری سے پوچھا: کیا تم نے صاحب الامر علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے انہیں بیت اللہ کے پاس دیکھا ہے۔ وہ فرما رہے تھے اللھم انجز لی ما وعدتني (اے اللہ اس وعدے کو پورا کر جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے)۔

۱۰۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن موسیٰ بن متوکل نے ان سے عبداللہ بن جعفر حمیری نے انہوں نے کہا کہ محمد بن عثمان عمری بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام قائم علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ آپ مستبار میں خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے فرما رہے ہیں: اللھم انتقم لی من اعدائی (اے اللہ میرے دشمنوں سے انتقام لے)۔

۱۱۔ بیان کیا مجھ سے ابو طالب مظفر بن جعفر بن مظفر بن جعفر بن محمد بن عبداللہ بن محمد بن عمر بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے جعفر بن محمد بن مسعود نے ان سے ابو نصر محمد بن مسعود نے ان سے آدم بن محمد بلخی نے ان سے علی بن حسن دقاق نے ان سے ابراہیم بن محمد علوی نے انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسن عسکری کی کنیز نسیم کہتی ہے کہ امام قائم کی پیدائش سے ایک شب بعد میری حاضری ہوئی تو مجھے چھینک آئی۔ نو مولود نے فرمایا: یرحمک اللہ۔ جس کو سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی پھر فرمایا کہ اس کے متعلق تجھ کو خوشخبری دوں۔ میں نے عرض کیا کہ ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا: چھینک کا آنا موت سے تین دن تک امان ہے۔

۱۲۔ انہی استاد کے ساتھ ابراہیم بن محمد علوی سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے طریف ابو نصر نے کہ میں امام زمانہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے سرخ صندل مجھے دی اور فرمایا: کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا: ہاں۔ آپ نے فرمایا: میں کون ہوں؟ میں نے کہا: آپ میرے سردار اور میرے سردار کے فرزند ہیں۔ آپ نے فرمایا: یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ میں نے کہا: میں آپ پر قربان جاؤں۔ آپ ہی بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا: میں خاتم الاولیاء ہوں۔ میرے ذریعہ سے میرے اہل اور میرے شیعوں پر سے مصیبتیں دور ہوں گی۔

۱۳۔ بیان کیا مجھ سے مظفر بن جعفر بن مظفر علوی سرقدنی نے ان سے جعفر بن محمد بن مسعود نے ان سے ان کے والد نے ان سے جعفر بن معروف نے انہوں نے کہا کہ ابو عبداللہ بلخی نے مجھے لکھ کر بھیجا ہے کہ بیان کیا مجھ سے عبداللہ سوری نے انہوں نے کہا کہ میں بنو عامر کے باغ میں گیا تو دیکھا کہ لڑکے حوض میں کھیل رہے ہیں۔ اور ایک نوجوان مصلیٰ پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا: یہ کون ہیں؟ تو لڑکوں نے جواب دیا: یہ "م ح م د" ابن حسن ہیں۔

آپ کی صورت آپ کے والد سے مشابہ تھی۔

۱۴۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد اور محمد بن حسن نے ان سے عبداللہ بن جعفر عمیری نے انہوں نے کہا کہ میں احمد بن اسحاق کے ساتھ عمری کے پاس تھا۔ میں نے عمری سے کہا کہ میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں جیسا کہ اللہ عزوجل نے ابراہیم کے قصے میں کہا۔ اولم تو من قال بلی ولكن لیطمئن قلبی (سورۃ بقرہ آیت ۲۶۰) کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ کہا کیوں نہیں۔ لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسکین ہو جائے۔ یہ فرمائیے کہ کیا آپ نے میرے آقا امام زمانہ کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اور ان کی گردن ایسی تھی یہ کہہ کر اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے پوچھا کیا نام ہے؟ کہا: تم ایسے شخص کے متعلق گفتگو کر رہے ہو جس کے متعلق لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوئے۔

۱۵۔ بیان کیا مجھ سے مظفر بن جعفر بن مظفر طوسی عمری نے ان سے جعفر بن محمد بن مسعود نے ان سے ان کے والد نے ان سے جعفر بن معروف نے ان سے ابو عبداللہ لحنی نے ان سے محمد بن صالح بن علی بن محمد بن قنبر الکبیر نے جو حضرت امام رضا علیہ السلام کے غلام تھے بیان کیا کہ امام حسن عسکری کے انتقال کے بعد جب جعفر کذاب نے میراث میں جھگڑا کیا تو صاحب الزمان جعفر کذاب کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: اے جعفر آپ کو کیا ہو گیا ہے۔ جو آپ میرے حقوق میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ جعفر حیران و ششدر رہ گیا اور آپ غائب ہو گئے۔ جعفر نے اس کے بعد آپ کو لوگوں میں تلاش کرایا لیکن پھر نہ دیکھا۔ جب حضرت امام حسن عسکری کی والدہ کا انتقال ہوا تو ان کی وصیت کے مطابق ان کو گھر میں دفن کیا جانے لگا تو اس نے اس بات پر جھگڑا کیا اور کہا: یہ میرا گھر ہے۔ پس صاحب الزمان تشریف لائے اور فرمایا: اے جعفر کیا یہ آپ کا گھر ہے؟ اور پھر آپ غائب ہو گئے اور پھر آپ کو نہیں دیکھا گیا۔

۱۶۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن محمد غزالی نے ان سے ابو علی اسدی نے ان سے ان کے والد نے کہ محمد بن ابو عبداللہ کوفی نے ان افراد کے نام بتائے جنہوں نے امام قائم کی زیارت کی ان میں وہ افراد جو آپ کے وکیل تھے یہ وہ تھے جنہوں نے امام عصر کے معجزات دیکھے تھے۔

بغداد میں رہنے والوں میں عمری اور ان کے صاحب زادے، حاجز، بلالی اور عطار، اہل کوفہ میں عاصمی، اہل اہواز میں محمد بن ابراہیم بن مہربار، اہل قم میں احمد بن اسحاق، اہل ہمدان میں محمد بن صالح، اہل رے میں بسامی اور اسدی، یعنی نفسہ، اہل آذربایجان میں قاسم بن علاء، اہل نیشاپور میں محمد بن شاذان۔

غیر دکلا۔ میں جو افراد ہیں وہ یہ ہیں۔ بغداد سے ابوالقاسم بن ابو حلیس، ابو عبداللہ کندی، ابو عبداللہ جنیدی، ہارون قرآز، نیلی، ابوالقاسم بن دبیس، ابو عبداللہ بن فروخ، امام حسن عسکری کا غلام مسرور طباطبائی، احمد بن حسن، محمد بن حسن، اسحاق کاتب بنی نبخت سے اور صاحب النوار، صاحب العرۃ نمونہ اور ہمدان سے محمد بن کشرود، جعفر بن

حمدان ، محمد بن ہارون بن عمران ، دشور سے حسن بن ہارون ، احمد بن احمیہ اور ابوالحسن ، اصفہان سے ابن ہاذشمالہ ، صیرہ سے زیدان ، قم سے حسن بن نصر ، محمد بن محمد ، علی بن محمد بن اسحاق اور ان کے والد اور حسن بن یعقوب ۔ اہل رے سے قاسم بن موسیٰ اور ان کا بیٹا ، ابو محمد بن ہارون ، صاحب المصاۃ ، علی بن محمد ، محمد بن محمد کلینی ، ابو جعفر رقاہ ، قزوین سے مرداس اور علی بن احمد ، فائق سے دو افراد ، شہر زور سے ابن الخال ، فارس سے محروج ، مرو سے صاحب اللالیہ ، دینار اور صاحب المال اور الرقۃ البیضاء اور ابو ثابت ، نیشاپور سے محمد بن شعیب ابن صالح ، یمن سے فضل بن یزید ، ان کا بیٹا ، حسن جعفری ، ابن اچھی اور شمشاطی ، مصر سے صاحب المولودین اور صاحب المال ہکک اور ابو جہاد ، نصیبین سے ابو محمد بن الوجتاء اور ابو از سے حصینی ۔

۱۶۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن ابراہیم بن اسحاق طالقانی نے ان سے علی بن احمد کوفی المعروف بابی القاسم خدیجی نے ان سے سلیمان بن ابراہیم بقی نے ان سے ابو محمد حسن بن وجتاء نصیبی نے بیان کیا ہے کہ میں اپنے ۵۴ ویں حج کے موقع پر ایک تہائی رات گزر جانے کے بعد میزاب کے نیچے سجدہ کر رہا تھا ۔ میں دعا میں گریہ و زاری کر رہا تھا کہ ناگاہ مجھے ایک کنیز نے حرکت دی اور کہا ۔ اے حسن بن وجتاء انھو ۔ وہ کنیز زور رو اور نحیف البدن تھی اور چالیس سال سے اوپر نہیں تھی ۔ میں اس کے ساتھ خاموشی سے چلتا رہا یہاں تک کہ وہ مجھے حضرت خدیجہ علیہا السلام کے مکان تک لے آئی اس میں ایک گھر تھا جس کا دروازہ دیوار کے درمیان میں تھا اور وہاں ایک لکڑی کا زینہ تھا ۔ پس کنیز کھڑی ہو گئی اور مجھ تک ایک آواز آئی : اے حسن اوپر آؤ ۔ پس میں اوپر گیا اور دروازہ پر کھڑا ہو گیا ۔ مجھ سے صاحب الزمان نے فرمایا : اے حسن کیا تم مجھے تمہارا پتہ نہ تھا ۔ خدا کی قسم جو حج بھی تم نے ادا کیا ہے میں تمہارے ساتھ ہوتا تھا پھر آپ نے ایک ایک کر کے میرے معمولات مجھے بتائے ۔ میں نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال لی اور میں نے ایک ہاتھ کا احساس کیا جو مجھ سے مس ہوا تو میں کھڑا ہو گیا ۔ پس فرمایا : اے حسن تم جعفر بن محمد کے گھر پر قیام کرو اور اپنے کھانے پینے اور ستروشی کی فکر نہ کرو ۔ پھر آپ نے مجھے ایک کتاب دی جس میں دعاء فرج اور آپ پر درود لکھا تھا ۔ فرمایا : دعا پڑھو اور مجھ پر اس طرح درود بھیجا کرو ۔ میرے خالص دوستوں کے سوا اس دعا کو کسی اور کو نہ بتانا ۔ اللہ جل جلالہ تمہیں توفیق دے گا ۔ میں نے عرض کیا : مولا کیا اس کے بعد آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے ؟ فرمایا : اے حسن جب اللہ چاہے گا ۔ میں حضرت بخت سے رخصت ہوا اور حضرت جعفر بن محمد علیہما السلام کے مکان میں قیام کیا ۔ میں جب بھی اس گھر سے نکلتا تھا تو صرف تین وجوہات یعنی تجدید وضو یا آرام کرنے یا افطار کرنے کے لئے واپس آتا تھا ۔ جب افطار کے وقت اپنے گھر میں داخل ہوتا تو مجھے ایک چوتھائی پانی سے بھرا ہوا گلاس اور اس کے اوپر روٹیاں اور وہ چیز جس کی خواہش مجھے دن میں ہوتی تھی ملتی ۔ پس میں اسے کھاتا اور وہ میرے لئے کافی ہوتی تھی اور موسم سرما میں سردی کا لباس اور موسم گرما میں گرمی کا لباس بھی ملتا ۔ میں دن میں (نہانے کے لئے) پانی میں داخل ہو جاتا تھا اور پانی گھر میں بھی چمڑک دیتا تھا ۔

خالی کوزہ لیتا تھا اور اس میں کھانا بھر لیتا تھا اور جو میری ضرورت سے زائد ہوتا تھا اسے رات میں تصدق کر دیتا تھا تاکہ جو میرے ساتھ تھے ان کو معلوم نہ ہو۔

۱۸۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن ابراہیم بن اسماعیل طالقانی نے ان سے ابو القاسم علی بن احمد خدیجی کوئی نے ان سے ازدی نے بیان کیا کہ میں طواف کعبہ میں مصروف تھا۔ چہ طواف کر چکا تھا اور ساتویں کا ارادہ کیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کعبہ کے دائیں جانب ایک خوبصورت نوجوان موجود ہیں۔ جن کے پاس سے خوشبو آرہی ہے۔ ان کی ہیبت لوگوں پر طاری ہے اور لوگ انہیں گھیرے ہوئے ہیں تاکہ ان سے گفتگو کریں۔ میں نے ان کے کلام سے زیادہ بہتر، ان کے نطق کے مقابلے میں شیریں تر اور ان سے بہتر نشست و برخاست رکھنے والا کوئی شخص نہیں دیکھا میں بھی اس جانب گیا تاکہ ان سے کچھ بات کر سکوں۔ مگر مجمع نے مجھے پیچھے دھکیل دیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا: یہ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا: یہ فرزند رسول ہیں۔ جو ہر سال ایک دن اپنے خواص سے ملنے کے لئے تشریف لاتے ہیں تاکہ ان سے کلام کریں۔ میں نے آواز دی: اے میرے سردار میں بھی آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں تاکہ آپ میری ہدایت فرمائیں۔ یہ سن کر اس نوجوان نے میری جانب چند کنکریاں پھینکی جنہیں میں نے جن لیا۔ لوگوں نے پوچھا: اس جوان نے جہاری طرف کیا پھینکا۔ میں نے کہا کنکریاں اور یہ کہہ کر مٹھی کھولی تو دیکھا وہ سونے کے ڈالے تھے۔ پس میں ان کے پیچھے پیچھے چل دیا یہاں تک کہ ان سے ملتی ہو گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا اب تو حج پر میری بخت ثابت ہو گئی۔ حق ظاہر ہو گیا اور تجھے بصیرت مل گئی۔ تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں نے کہا: نہیں۔ فرمایا: میں مہدی ہوں۔ میں ہی قائم الزماں ہوں۔ میں ہی دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھردوں گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ زمین بخت خدا سے کبھی خالی نہیں رہتی یہ امانت ہے اس کے متعلق اپنے ان بھائیوں کو آگاہ کرنا جو حق پر قائم ہیں۔

۱۹۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن موسیٰ بن متوکل نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے عبداللہ بن جعفر حمیری نے ان سے ابراہیم بن مہزیار نے انہوں نے کہا کہ میں مدینہ میں اس غرض سے وارد ہوا تاکہ احادیث ابو محمد الحسن بن علی الاخیر علیہما السلام کی تفتیش کروں مگر کہیں سراخ نہ ملا۔ مجبور ہو کر مکہ معظمہ آ گیا۔ ایک دن دوران طواف کعبہ ایک گندمی رنگت، حیران کن حسن، بہترین خیالات رکھنے والے اور صاحب فراست جوان کو دیکھا۔ میں ان کی طرف اس غرض سے چلا کہ اپنی حاجت ان سے بیان کروں اور اپنے موجودہ امور میں ان سے کچھ مشاورت حاصل کروں۔ اس غرض سے جب میں ان کے قریب پہنچا تو میں نے سلام کیا۔ انہوں نے نہایت خندہ پیشانی اور حسن اخلاق سے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا کہ عراق کا رہنے والا ہوں۔ پھر پوچھا کہ عراق کے کس شہر میں رہتے ہو؟ میں نے کہا کہ شہر ابوازا کا رہنے والا ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے خوش ہو کر سر جبا کہا اور بولے: خدا میرے لئے جہاری ملاقات کو مبارک کرے۔ تم ابوازا میں جعفر بن حمدان حصینی کو جلتے ہو؟ میں نے کہا: ہاں۔ میں

انہیں خوب جانتا ہوں ان کا تو انتقال ہو گیا۔ یہ سن کر انہوں نے کہا: رحمت اللہ علیہ۔ وہ شب و روز عبادت میں گزارتے اور پرہیزگاری میں بسر کرتے تھے۔ انہی محاسن اعمال کے صلے میں خداوند عالم نے ان کو ثواب جمیل اور اجر جزیل عطا فرمایا۔ اسنا کہہ کر انہوں نے پھر پوچھا کہ ابراہیم بن مہزیار کو جلتے ہوۓ میں نے کہا: میں ہی ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے مجھ سے معاف کیا اور کہا: مرحبا تمہیں اے ابو اسحاق وہ علامت کہاں ہے جس کے ذریعے تمہارے اور ابو محمد علیہ السلام کے درمیان جو سنگی قائم ہوئی؟ میں نے کہا: شاید آپ اس انگوٹھی کی بات کر رہے ہیں جس کے ذریعے اللہ نے ابو محمد حسن بن علی علیہما السلام کے ہاتھوں مجھے فضیلت عطا فرمائی۔ انہوں نے کہا: میں اس کے سوا کچھ اور نہیں چاہتا۔ پتہ چنانچہ میں نے اسے نکالا۔ اس جوان صالح نے نہایت شوق سے اس کو لپٹے ہاتھ میں لیا اور نہایت عظمت و اکرام سے اس کو آنکھوں سے لگایا اور بوسے لئے۔ پھر جو کچھ اس انگوٹھی کے حلقہ پر تحریر تھا پڑھا۔ اس میں اسمائے مقدسہ "یا اللہ، یا محمد، یا علی" متوش تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری جان ان حضرات پر نفاذ ہو۔ میں نے مسائل آپ کی خدمت میں عرض کئے اور ان کا خاطر خواہ جواب پایا اور مختلف احادیث کے فنون کے بارے میں گفتگو کی جہاں تک کہ مجھ سے فرمایا: اے ابو اسحاق اپنے اس مقصد عظیم سے جس کی تقدیم و تعمیل کا قصد تم بعد فراغت حج اپنے دل میں رکھتے ہو مجھ سے بیان کرو۔ میں نے کہا کہ میں اپنا کوئی مطلب آپ سے پوشیدہ نہیں رکھوں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ مناسب تو ایسا ہی ہے۔ اب اس وقت تم کو جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو ان شاء اللہ تمہارے تمام مطالب و مقاصد کی تفصیل و تشریح تم سے سن و من بیان کر دوں گا۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ امام حسن مہسکریٰ کی اولاد کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ جواب دیا: خدا کی قسم آپ کے دو صاحبزادے ہیں۔ محمد اور موسیٰ اور میں ان دونوں بزرگوں کی پیشانی سے انوار ہدایت کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ میں انہی کا بھیجا ہوا ہوں۔ تم کو بلایا ہے۔ اگر تم ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہو اور اس سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ طائف چلے چلو لیکن اپنے رفقاء میں سے کسی کو بھی اس کی مطلق خبر نہ کرو۔

ابراہیم کہتے ہیں: یہ سنتے ہی میں طائف کے لئے اس جوان صالح کے ہمراہ ہوا، ہم ریگستان کے لٹے دووق میدان سے گزرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے جہاں صحرا کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پہنچ کر میں نے ایک بہت بڑا عظیم الشان بالوں کا شیمہ ایک بلند زمین پر لگا ہوا دیکھا جس کی وجہ سے اس ویران میدان کے چاروں طرف کا حصہ شاداب و آباد معلوم ہوتا تھا۔ جب ہم یہاں پہنچے تو میرا ہمراہی جوان صالح مجھ سے جدا ہو کر اس شیمہ کے اندر چلا گیا اور وہاں میری حاضری کی اطلاع کی۔ ان دونوں بزرگوں میں سے وہ حضرت جو عمر میں بڑے تھے باہر نکلے آجیناب "م ر ح م د" ابن الحسن علیہما السلام تھے۔ نہایت پاکیزہ صورت اور جوان، جسم اطہر کا رنگ بالکل صاف، پیشانی چوڑی، ابرو ہائے مبارک ایک دوسرے سے باہم ملے ہوئے، رخسار نرم اور بینی مقدس اونچی تھی۔ سیدھے رخسار پر تل تارے کی طرح روشن تھا اور وہ عالم دکھا رہا تھا جیسے آئینہ پر مٹک کا رنہ۔ فرق اقدس پر تین گیسو کانوں کی لو تک لٹکے ہوئے تھے اور ایسی

علامات جنہیں میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا اور ایسے حسن و طہائیت اور حیا سے میں واقف نہ تھا۔ میں دوڑتا ہوا ان کے قریب پہنچا اور بے ساختہ ان کے قدموں پر گر پڑا اور ان کے پائے مبارک کو جو منے لگا۔ ارشاد فرمایا: اے ابو اسحاق تمہیں مبارک ہو کہ میں تمہاری ملاقات کے لئے کافی عرصے سے کوشاں تھا۔ گو کہ تمہارا گھر اور زیارت گاہ کافی دور تھی لیکن تمہاری صورت میرے تصورات میں تھی گویا کوئی لمحہ بھی بہترین گنگو اور ملاقات کے خیال سے خالی نہیں رہا۔ میں اپنے رب کا شکر اور سپاس ادا کرتا ہوں کہ جو صاحب حمد ہے اور (شکر) اس پر کہ اس نے مجھے ملاقاتوں اور گنگوؤں سے محفوظ رکھا۔ اور گزرے ہوئے اور آنے والے حالات میں سر بلند رہنے کا موقع فراہم کیا۔

اسی تقریر کے بعد پھر آپ نے ابواز کے دیگر مومنین کو پوچھا تو میں نے عرض کیا: مولا جس وقت حضرت امام حسن عسکری نے انتقال فرمایا میں نے آپ کی تلاش میں اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور اس وقت سے لے کر اب تک برابر آپ کی جستجو میں حیران و پریشان و سرگردان پھر رہا ہوں۔ اس وجہ سے میں ان حضرات کی کچھ بھی خبر نہیں رکھتا مگر اب الحمد للہ خدا نے مجھ کو میرے مقصد تک پہنچا دیا۔

اس کے بعد آپ مجھے ایک الگ جگہ خلوت میں لے گئے اور مجھ کو اطمینان سے بٹھایا اور ارشاد فرمایا:

حقیقت حال یہ ہے کہ میرے والد بزرگوار نے مجھے وصیت فرمائی اور مجھ سے ان امور کی نسبت عہد و پیمانہ لیا ہے کہ میں دنیا میں کسی ایک مقام کو اپنا وطن اور اپنا مسکن نہ بناؤں اور دور دراز اور پوشیدہ سے پوشیدہ مقامات میں سکونت اختیار کروں۔ تاکہ گمراہوں اور روکنے ہوئے افراد کے مکر و فریب سے جو گمراہ امتوں میں ہوتے ہیں خود کو محفوظ رکھوں۔ پس مجھے زمین کے بلند مقامات کی طرف بھیجا گیا اور میں نے زمین کے ان حصوں کو کہ جن میں کاشت نہیں ہوتی اپنے لئے ضروری سمجھا۔ مجھے وہ غلیمت و کھائی گئی کہ جس سے امور حل ہو جاتے ہیں اور پریشائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ نیز آپ نے مجھے حکمتوں کے فرائض اور علوم کے باریک نکات سے واقف کیا کہ جن سے میں واقف نہ تھا یا مختصر طور پر واقف تھا میرے والد نے اسرار غیب و حکمت کے فرائض میں سے مجھے عطا کیا ہے کہ اے ابو اسحاق! اگر ان میں سے کوئی جز یا کوئی حصہ میں تم کو بتلا دوں تو پھر تم کو دنیا میں کسی دوسرے سے کسی شے کے پوچھنے یا سیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ میرے والد نے فرمایا کہ خدا نے کسی وقت میں کسی زمانے میں اور کسی حالت میں دنیا کے کسی حصہ کو ایسا نہیں چھوڑا ہے جس میں اپنی بخت کو نہ باقی چھوڑا ہو جو امور دینی اور دنیاوی میں ان کا حامی اور معین ہو اور دنیا و آخرت میں ان کا ہادی اور پیٹھا ثابت ہو اس وجہ سے میں تمہیں بتلائے دیتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ میرے بعد اے میرے فرزند تم مقدس لوگوں میں ضرور ہو جو منجانب اللہ حق کو حق کرنے اور باطل کو باطل کرنے کے لئے دنیا میں آج تک کے بعد دیگرے بھیجے گئے ہیں یہی مقدس سلسلہ حق کو حق اور ناحق کو ناحق کرتا ہے اور اساس ناحق شناسی کو مٹاتا ہے۔ آتش کفر و الحاد کو بجھاتا ہے۔ تم کو لازم ہے کہ تم مصائب زمانہ سے بچنے کے لئے ہمیشہ دور دراز

پوشیدہ سے پوشیدہ مقامات میں اپنی سکنہ اور اعتبار کرو کیونکہ ہر زمانے میں ہر ولی خدا کا ایک دشمن بھی ضرور پیدا کیا گیا ہے۔ اور وہ اس ولی خدا کی مخالفت میں ہمیشہ اس کے ساتھ مخالفت پر کمر بستہ رہا کرتا ہے۔ اور اس کی مخالفت کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ دشمن، خدا کے ساتھ جہاد کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ پس تم کو تمہارے دشمنوں کی کثرت غافل نہ کر دے اور یہ بھی یقین کر لو کہ اہل خلوص و عقیدت کے قلوب تمہارے دہار کے ایسے مشتاق ہیں جیسے طاہر لہنے آشیانے کے شائق ہوتے ہیں۔ اور خاصاً اہل اعتقاد اور کامل القلوب وہی حضرات ہیں جو دنیا میں ظاہری طور پر نہایت معمولی اور گئی گزری حالتوں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ مگر خدا کی بارگاہ میں ان کے بڑے بڑے اعتبار و اقتدار ہیں اور لہنے خالق کی نگاہ میں ضرور عزیز تر ہیں۔ گو وہ خلائق کی آنکھوں میں نیسبہ ہی ذلیل و حقیر اور پریشان حال و محتاج سمجھے جاتے ہوں۔ وہ اہل قناعت ہیں اور گناہوں سے باز رہتے ہیں۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو دین الہی کو مستنبط کرتے ہیں اور وہ دشمنانِ دین کے ساتھ جہاد پر آمادہ اور تیار رہتے ہیں۔ خدا نے ان کو صبر و تحمل کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے۔ اور وہ ہمیشہ دنیا میں انہی صفات کے ساتھ رہیں گے جب تک کہ خدا ان کو بہشت کے دائمی قیام پر مشرف اور معزز نہ فرمائے ان کی جنبیتوں میں صبر کی مخصوص صفات اس لئے پیدا کی گئی ہیں کہ وہ ظلم و ایذاء کے وقوع کے وقت لہنے صبر کے جوہر دکھلائیں اور دنیا کے تمام مصائب کو نہایت خاموشی کے ساتھ برداشت کر جائیں تاکہ ان تمام مراحل کو طے فرما کر درجاتِ عقیبی پر فائز ہوں۔ پس علم سے فائدہ اٹھاؤ۔ اے فرزندِ بلا و مصیبت اور ذلت و حقارت کے تمام تاریک امور کو صبر کے انوار سے منور کرو تاکہ اللہ وہ بلا و مصیبت تم سے اٹھالے اور یہ بھی یقین کر لو کہ جتنے مصائب اور بلائیں تم پر گزری ہیں وہ سب حقیقت میں تمہاری عزت و وقعت کا باعث ہیں اس لئے کہ تم تمام دنیا میں نیک بخت اور سعادتمند مشہور ہو اور اسی وجہ سے تمام مقامات پر تمہاری توصیف و تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اے فرزندِ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ زمانہ آگیا ہے کہ تم تائیدِ ربانی سے موید کئے گئے ہو اور اس کی وجہ سے تم لہنے دشمنوں پر فتح و ظفر و عزت و غلبہ پاگئے ہو۔ اور گویا زرد اور سفید علمِ عظیم اور دزم کے درمیان تمہارے چاروں طرف دیکھ رہا ہوں۔ اور تمہارے شیعہ) تمہاری الفت و محبت میں نہایت صفائی اور رسوم سے کام لیتے ہیں۔ اور تمہارے پاس مثل موتیوں کے جمع ہوتے ہیں اور اپنی پناہ اور حفاظت کے لئے تمہارے گھر کی طرف اس طرح اپنی آنکھیں اٹھاتے ہیں جیسے حجرِ اسود کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ خدا دند عالم نے جن کے قلوب کو خالص محبت اور مبارک چلنت کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ان کو خباثت اور نفاق کی تمام غلیظ اور آلودہ اشیاء سے پاک و صاف پیدا کیا ہے۔ وہ طریقہ دین الہی اور اس کے اوامر و نواہی کو بہت جلد قبول کر لیتے ہیں اور ان کے قلوب فتنہ و فساد اور ظلم و تعدی وغیرہ سے دور رہتے ہیں۔ اور بوجہ قبولیتِ بارگاہِ الہی کے ان کے چہرے ہمیشہ منور اور روشن رہتے ہیں۔ ان کے جسمِ ففلس کے باعث مضبوط اور تروتازہ رہتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دین حق پر ایمان لاتے ہیں اور یہی لوگ طاعتِ اشتیاقی سے ایک دوسرے پر گر پڑ کر تمہاری بیعت

اختیار کریں گے۔ خدا نے ان کے جسموں کو قوی اور ان کی عمروں کو طویل بنایا ہے۔ اور وہ ایک درخت سایہ دار کے نیچے جس کی شاخیں بہت گھنی ہوتی ہیں اس مقام خاص میں جو بحیرہ طبریہ کے اطراف میں واقع ہے تم سے بیعت کریں گے اور ان بزرگوں کے اجتماع کی وجہ سے اہل بدعت اور اہل فطالت کے قوم و قبیلہ کے لوگ متفرق اور پراگندہ ہو جائیں گے۔ اسی زمانے میں حقیقت کی صبح روشن ہوگی اور شام جہالت و فطالت کی تاریکی زائل ہو جائیگی اور ان سامانوں سے خداوند عالم فتنہ و فساد کو دیا سے اٹھالے گا۔ اور دین و ایمان کے طریقوں کو محو ہو جانے کے بعد پھر حالت اول پر لے آئے گا۔ اور یہ تمام امور تمہارے باعث ہوں گے۔ انسان اس زمانے میں امراض روحانی میں ہلکا ہونگے مگر تمہارے رفقاء اور اعموان کو ان امراض کا کوئی اثر نہیں پہنچے گا اور تمہاری عام قبولیت کا اس وقت یہ عالم ہوگا کہ ایک بچہ تک جو اپنے گہوارے میں ہوگا وہ بھی تم سے بیعت کرنے کے لئے گہوارے سے حاضر ہونے کی آرزو کرے گا۔ مگر وہ جو صراط مستقیم سے الگ اور جانوروں کی طرح عالم وحشت میں گرفتار ہوگا وہ اللہ تمہاری طرف مائل نہ ہوگا۔ باقی تمام دنیا تمہاری خدمت سے تحصیل سعادت کرے اپنی زندگی چین سے بسر کرے گی۔ تمہاری وجہ سے عزت کی شاخیں تروتازہ ہوگی اور عزت و وقعت کی عمارت اپنے مقام پر قیام و قرار کرے گی اور احکام شریعہ اور نصاب دینیہ کے گم شدہ اوراق تمہاری وجہ سے پھر اپنے مقام پر دستیاب ہوں گے۔ ابر فح و نفرت تمہارے لئے برسائے جائیں گے۔ اس وقت تم اپنے دشمنوں کے گلے گھونٹ ڈالو گے اور اپنے رفقاء اور اصحاب کی امداد اور اعانت کرو گے۔ پس اس زمانے میں تمام روئے زمین پر کوئی ایسا ستم گار نہیں رہے گا جو امر حق سے عدول کرنے والا ثابت ہوتا ہو اور نہ کوئی ایسا منکر پایا جائے گا جو احکام حق کو ذلیل و حقیر جانتا ہو۔ نہ تمہارا کوئی دشمن رہے گا اور نہ عیب لگانے والا نہ تمہارا کوئی ایسا مخالف موجود ہوگا جو تمہارے امور سے اعراض و اغماض کرے۔ پس جو بندہ اللہ پر توکل اختیار کرتا ہے خدا اس کی مدد کرتا ہے کیونکہ خدا جس کام کا ارادہ کرتا ہے وہ اس کی قدرت سے پورا اور مکمل ہو جاتا ہے۔

پھر فرمایا: اے ابو اسحاق! یہ جگہ اور یہ محفل تم پوشیدہ رکھنا سوائے ان کے جو اہل تصدیق ہوں اور تمہارے بچے دینی بھائی ہوں۔ پس جب تمہارے لئے ظہور و غلبہ کے امور ظاہر ہونے لگیں تو تم ہم تک پہنچنے کے لئے اپنے بھائیوں سے بچھے نہ رہنا اور نور یقین اور دین کے چراغوں کی روشنی حاصل کرنے کے لئے جلدی کرنا۔ تاکہ تم ہدایت کو پالو۔ ان شاء اللہ۔ ابراہیم بن مہزیار نے کہا: میں آنجناب کے پاس ٹہرا رہتا تھا کہ ان کے ذریعے وہ کچھ نہ حاصل کر لیا جو آگاہی کی وضاحتوں اور احکام کی روشن دلیلوں کے لئے ضروری ہے۔ نیز دلوں کی سرسبزی اور تازگی کو ان لطیف حکمتوں اور طرفہ فضیلتوں سے سیراب کیا جو اللہ نے ان کی طبیعت میں ودیعت کی ہیں۔ اور جب ابوازا میں جن لوگوں کو میں نے بچھے چھوڑ دیا تھا ان کی ملاقات کی ہوک انہی میں نے آپ سے واپسی کی اجازت چاہی نیز میں نے اس عظیم وحشت سے آنجناب کو مطلع کیا جو آپ کی فرقت اور جدائی اور اپنے گھر سے سفر کرنے کے دوران واقع ہوئی تھی۔ پس آنجناب نے

مجھے اجازت دی اور مجھ کو ایک صالح دعا سے نوازا جو اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا خزانہ ہے اور میری اولاد اور عزیزوں کے ان شاء اللہ کام آئے گی۔

میرے پاس مال موجود تھا جو پچاس ہزار درہم سے زیادہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ میں نے عرض کیا کہ حضور اسے قبول فرما کر مجھ پر مہربانی فرمائیں۔ آپ مسکرا دیئے اور فرمایا اے ابو اسحاق اس سے لپٹنے واپس جانے میں مدد حاصل کرو۔ اس بات کا غم نہ کرو کہ ہم نے اس کے قبول کرنے سے اعراض کیا ہے۔ ان شاء اللہ اللہ تمہارے مال میں کثرت دے جو تمہارے پاس ہے۔ اس کو ہمیشہ برقرار رکھے۔ نیکو کاروں کا بہترین ثواب تمہارے لئے تحریر کرے اور اطاعت گزاروں کے بہترین آثار تمہیں عطا کرے بے شک فضل اس کا ہے اور اس سے ہے اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ انتہائی آسانی کے ساتھ اور سلامتی سے تمہیں لپٹنے اصحاب تک واپس پہنچائے اور تم آرام وہ واپسی کے ساتھ رشک کا سبب نہو اور اللہ تمہارا راستہ دشوار نہ کرے اور تمہارا راہ دکھانے والا تمہیں کسی پریشانی میں نہ ڈالے۔ میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ تم اس کے احسان اور مہربانی سے متعلق نہ ہو گے۔ ان شاء اللہ۔

اے ابو اسحاق ہم نے اس کے عظیم احسانات اور شکر کے فوائد کی وجہ سے قناعت اختیار کی ہے۔ اور ہم نے اپنے نفوس کی حفاظت کی ہے اولیاء کی معاونت، اخلاص بیت اور خالص نصیحت سے۔ اور محافظت کی ہے اس چیز پر جو انتہائی صاف ستھری ہے اور جس کا ذکر انتہائی بلند ہے۔

ابو اسحاق نے کہا: میں اللہ عزوجل کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے مجھے راہ راست دکھائی آپ کی حضوری سے واپس لوٹنا اور اس بات پر یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی زمین کو معطل نہیں رکھے گا اور نہ اس کو واضح جنت سے خالی رکھے گا۔ اور میں نے اس خبر ماثور اور نسب مشہور کو اہل یقین کی بصیرتوں میں اضافہ کے لئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرار دی گئی ذریت طیبہ اور پاک فطرت کو پہنچانے کے لئے مشہور کیا۔ اور میں نے امامت کی ادا بھی اور اس چیز کو جو ظاہر ہوئی تسلیم کرنے کا ارادہ کیا تاکہ اللہ عزوجل ہدایت کرنے والی ملت کے لئے اور اس راہ مستقیم کے لئے جو پسندیدہ ہے عزم کی قوت، نیت کی تائید، قوت کی شدت اور عصمت کا اعتقاد دو چند کر دے۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔

۲۰۔ میں نے ایک بزرگ احمد بن قاسم ادیب سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے ہمدان میں لپٹنے بعض بھائیوں سے یہ حکایت سنی اور کسی کو اس حکایت کی مخالفت کرتے ہوئے نہیں پایا۔

ہمدان میں ایک بنیید ہے جو بنو راشد کہلاتا ہے وہ سب کے سب شیخ امامیہ ہیں میں نے جب ان سے شیخ ہونے کا سبب دریافت کیا تو ان کے ایک بزرگ کہ جن کو میں نے نیکو کار اور راست رو پایا، نے بتایا کہ ہمارے جد راشد ہمدانی سے روایت ہے کہ جب میں حج ادا کر کے واپس لوٹا اور صحرا کی منزلیں طے کرنے لگا تو مجھے قیام کرنے اور

سفر کرنے میں نشاط حاصل ہو رہا تھا۔ میں نے ایک طویل سفر پیدل طے کیا جہاں تک کہ میں تھک گیا اور آرام کی خواہش پیدا ہوئی تو سوچا کہ کچھ در سولوں تاکہ آرام مل جائے۔ جب قافلہ کا آخری حصہ آئے گا تو میں چلنے کے لئے تیار ہو جاؤں گا۔

(پھر ہوا یہ کہ) میں سورج کی تپش سے بیدار ہوا اور میں نے وہاں کسی کو نہ پایا مجھے وحشت ہوئی کیونکہ میں نے راستہ بھی نہ دیکھا تھا اور نہ اس کے نشانات سے واقف تھا۔ پس میں نے اللہ عزوجل پر بھروسہ کیا اور سوچا کہ جس طرح میرا رخ ہے اسی طرف چلوں۔ تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک سرسبز و شاداب زمین پر پہنچا جس پر کچھ در پہلے بارش ہو چکی تھی اور اس کی مٹی بہت خوشبودار تھی۔ میں نے اس کے درمیان میں نظر کی تو ایک محل دیکھا جو تلوار کی مانند چمک رہا تھا۔ میں نے خود سے کہا: کاش میں اس محل کے بارے میں جان سکتا جس کو نہ میں نے کبھی دیکھا اور نہ جس کے بارے میں کبھی سنا ہے۔ جب میں اس کے دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے سفید فام خادموں کو دیکھا انہیں سلام کیا تو انہوں نے خوش اسلوبی سے جواب دیا اور کہا: بیٹھے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ ایک نظام قصر کے اندر گیا پھر باہر آیا اور کہا: ٹھو اندر چلو۔ میں قصر میں داخل ہوا۔ میں نے اس قصر کی بنیادوں سے بہتر بنیاد اور اس سے روشن تر عمارت نہیں دیکھی تھی۔ خادم ایک گھر کے پردے کے پاس کھڑا ہوا۔ اسے اٹھایا اور مجھ سے کہا: داخل ہو جاؤ پس میں گھر میں داخل ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان اس حالت میں تشریف فرما ہے جس نے اپنے سر مبارک پر ایک لمبی تلوار لٹکائی ہوئی ہے اور وہ جوان گویا تاریکی میں بدر کامل کی طرح ہے۔ میں نے آپ کو سلام کیا آپ نے مجھے لطف و مروت سے سلام کا جواب دیا پھر بوجھ میں کون ہوں؟ میں نے عرض کیا: خدا کی قسم مجھے علم نہیں۔ آپ نے فرمایا: میں وہ قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جو آخری زمانے میں ظاہر ہوں گا۔ میں اس تلوار کے ذریعہ زمین کو عدل و انصاف سے بھروں گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ میں اپنے منہ کے بل گر پڑا۔ آپ نے فرمایا: ایسا نہ کرو اپنے سر کو اٹھاؤ۔ تم ہمدان کے رہنے والے راشد ہو۔ میں نے عرض کیا: میرے سید و سردار آپ نے درست فرمایا۔ آپ نے فرمایا: کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ اپنے اہل و عیال کے پاس واپس جاؤ۔ میں نے عرض کیا: جی ہاں میرے سردار اور جو کچھ اللہ عزوجل نے مجھے عطا کیا اس کی خوش خبری سناؤں گا۔ آپ نے ایک تھیلی مجھے عنایت فرمائی اور خادم کو اشارہ فرمایا وہ چند قدم میرے ساتھ چلا۔ میں نے ٹیلیں، درختوں اور مسجد کے مینار کو دیکھا تو (خادم نے مجھ سے) کہا: تم اس شہر کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا یہ میرے شہر اسد آباد جیسا لگتا ہے۔ پس (خادم نے) کہا: اسے راشد یہ اسد آباد ہے۔ اب چلے جاؤ۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو اسے نہ پایا۔ میں اسد آباد میں وارد ہوا۔ تھیلی میں چالیس یا پچاس دینار موجود تھے۔ میں ہمدان گیا۔ میں نے اپنے اہل کو جمع کیا اور اس بات کی بشارت دی۔ جب تک ہمارے پاس یہ دینار موجود رہے ہم خیر و بھلائی پر قائم رہے۔

۲۱۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن علی بن محمد بن حاتم نوفلی المعروف بہ کرمانی نے ان سے ابو العباس احمد بن عیسیٰ و شام بغدادی نے ان سے احمد بن طاہر قمی نے ان سے محمد بن بحر بن سہل شیبانی نے ان سے احمد بن مسرور نے ان سے سعد بن عبداللہ قمی نے بیان کیا کہ مجھے دقیق اور پیچیدہ علوم پر مشتمل کتابوں کے جمع کرنے کا بہت شوق تھا تاکہ حقیقت حال واضح ہو جائے۔ صحیح حقیقتوں کا اظہار میں اپنا فریضہ گردانتا تھا اور تشابہ اور گجگج باتوں کو یاد کرنے کا عادی تھا اور کتابوں کی گرامیوں اور مشکلات پر کامیابی حاصل کرنے میں بڑا حریص تھا۔ میں مذہب امامیہ پر پختہ اعتقاد رکھتا تھا اور مخالفین سے مناظرے کیا کرتا تھا۔ ان کے عیوب کا پردہ چاک کیا کرتا تھا اور ان کے اماموں کی کمزوریوں کو بیان کیا کرتا تھا۔ ان کے رہنماؤں کے پردے چاک کرتا تھا یہاں تک کہ انتہائی سخت ناصیبوں سے جھگڑے کی آزمائش میں ڈالا گیا اور ان سے دشمنی طول پکڑ گئی اور ان سے جنگ و جدل کثرت سے ہوئی۔ میں سوالوں کے ذریعے انہیں طعن و تشنیع کرتا رہا اور ثابت کیا کہ وہ باطل پر قدم جمائے ہوئے ہیں۔

ایک دفعہ ایک کٹر ناصبی سے مناظرہ ہوا۔ دوران بحث اس نے مجھ سے کہا: اے سعد اللہ تمہارا اور تمہارے علماء کا برا کرے تم گروہ رافضہ مہاجرین اور انصار کو برا کہتے ہو۔ رسول اللہ سے ان دونوں کی ولایت اور امامت کو جھٹلاتے ہو حالانکہ وہ صدیق ہیں۔ جو شرف سابق الایمان میں تمام صحابہ سے بالاتر ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ غار میں لے گئے کہ آپ جانتے تھے کہ میرے بعد یہ ہی خلیفہ ہوں گے۔ وہ امر تادیل کی پیروی کرنے والے ہوں گے، امت کی باگ ڈور انہی کے ہاتھ میں ہوگی، اختلاف کی وادی میں وہ ان کی پناہ گاہ ہوں گے۔ ان کی پراگندگیوں کی اصلاح کریں گے اور ان کے مفاسد میں رکاوٹ بنیں گے۔ حدود قائم کریں گے اور بلاد شرک کو فتح کرنے کے لئے فوجیں ترتیب دیں گے۔ جس طرح حضور اکرم نے نبوت کے لئے اپنی حفاظت کی اور غار میں جا چھپے اسی طرح خلافت کے لئے ان کو بچایا اور کیا شر سے حفاظت چاہنے والے کے لئے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ ایسی جگہ کا ارادہ کرے جہاں وہ پوشیدہ ہو سکے اور ہم نے رسول اللہ کو اس غار کی طرف جاتے ہوئے دیکھا جب کہ یہ موقع نہ تھا کہ کسی سے مدد طلب کی جا سکے۔ تو اس طرح رسول اللہ کا ارادہ ابو بکر کو غار میں لے جانے سے وہی تھا جس کی وضاحت ہم نے کی ہے اور حضرت علی نے اپنے بستر پر رات گزار دی جبکہ انہیں کسی قسم کی فکر نہ تھی اور انہوں نے اس سے بچنے کی کوئی تدبیر بھی نہ کی۔ اور اس علم کے باوصف کہ اگر وہ قتل کر دیئے گئے تو ان کی جگہ کسی دوسرے کا آجانا قابل عذر نہیں ہوگا۔

سعد کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بہت سے سوالات کے جوابات دیئے مگر وہ ہر ایک کو رد کرتا گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا: اے سعد اسی طرح کی دوسری دلیلیں بھی ہیں جو روافض کی ناک میں دم کر دیں گی۔ تم لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ وہ صدیق ہو شک و شبہ سے بالاتر ہیں اور وہ فاروق جو ملت اسلامیہ کے محافظ ہیں یہ دونوں منافق تھے اور

دلیل میں عقبہ کے واقعہ کو پیش کرتے ہو۔ اچھا بتاؤ صدیق و فاروق خوشی سے اسلام لائے تھے یا جبریہ اسلام قبول کیا۔ سعد کہتے ہیں کہ میں اس کے اس سوال کو ٹال گیا کیونکہ اگر میں کہہ دوں کہ خوشی سے اسلام لائے تو پھر نفاق ثابت نہیں ہوتا کہ نفاق کی ابتدا اور ان کا دل میں نشوونما پانا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک قبر و غلبہ کی ہوائیں نہ چلیں اور انتہائی سخت تکلیف اور خوف کا اظہار ایسے شخص کے لئے بار ہوتا ہے جس کا دل اس کا مطیع و فرمانبردار نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ” فلما راوا باسنا قالوا آمنا باللہ و حذوا و کفرنا بما کنابہ مشرکین فلم یک یمنفعهم ایمانهم لما راوا باسنا (سورہ مومن آیت ۸۵) ” پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے اب ہم خدا نے یکتا پر ایمان لائے اور جن چیزوں کو اس کا شریک کیا کرتے تھے اب ہم ان سب سے منکر ہو گئے۔ مگر جب ہمارا عذاب دیکھ چکیں گے تو ان کا ایمان لانا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔“ اور اگر کہوں کہ مجبوراً اسلام لائے تھے تو اس کا مقصد اپنے اوپر طعن تھا کیونکہ اس وقت تلواریں کند تھیں اور یہ دنوں حالت خوف میں دیکھے جاتے تھے۔ میں نے کسی بہانے سے اس وقت اس سے جان چھڑائی مگر دل میں ایک خلفشار کی کیفیت تھی۔ میں نے ایک فاضل ترتیب دی تھی جس میں چالیس سے زیادہ ایسے ہی مشکل سوالات لکھ لئے تھے جن کا جواب دینے والا اب تک مجھے کوئی نہ مل سکا اور ارادہ تھا کہ احمد بن اسحاق جو حضرت امام حسن عسکری کے اصحاب میں سے ہیں سے دریافت کروں گا۔ میں ان کے پاس گیا تو معلوم ہوا کہ وہ سامرا جانے کے ارادہ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ میں راستے میں ان سے جا ملا۔ جب ہم نے مصافحہ کر لیا تو انہوں نے کہا: تمہارا ملنا خیر کے ساتھ ہو۔ میں نے کہا: شوق اور پھر سوال کرنے کی عادت (نے آپ تک پہنچایا ہے) انہوں نے کہا: ہمیں یہی ایک کام کافی ہے۔ اور مجھے ہم سب کے مولا ابو محمد کی ملاقات کی تحریک پیدا ہوئی اور میں چاہتا ہوں کہ آنجناب سے تاویل کی پیچیدگیوں اور تنزیل کی مشکلات کے بارے میں سوالات کروں۔ پس ان کی صحبت مبارک کو ہاتھ سے جانے نہ دو کہ اگر تم سمندر کے کنارے پر کھڑے رہو گے تو اس کے عجائب و غرائب سے واقف نہ ہو سکو گے اور وہ تو ہمارے امام ہیں۔

پس ہم سرزمین رائے پہنچے اور اپنے سردار کے دروازے تک پہنچے، اجازت طلب کی اور ہمیں داخلہ کی اجازت مل گئی احمد بن اسحاق کے کندھے پر ایک چمڑے کی تھیلی تھی جس میں ایک سو ساٹھ تھیلیاں دیناروں اور درہموں کی موجود تھیں۔ اور ہر تھیلی پر اس کے مالک کی مہر لگی ہوئی تھی۔ سعد کہتے ہیں: جب ہم نے اپنے مولا ابو محمد علیہ السلام سے روئے روشن پر نظر کی تو ایسا محسوس ہوا گویا چودھویں رات کا بدر کا من ہو اور آپ کے دائیں زانو پر ایک بچہ بیٹھا تھا جو اپنی خلقت اور شمائل میں مشتری کی طرح تھا۔ اس کے سر پر کانوں تک آئے ہوئے لمبے بال (مانگ کی وجہ سے) اس طرح بدلتے جیسا ”واوین“ کے درمیان ”الف“۔ ہمارے آقا کے سامنے ایک سونے کا انار پڑا ہوا تھا جو عجیب و غریب نقوش کی وجہ سے چمک رہا تھا۔ اور نادر قسم کے نیگینے اس میں جڑے ہوئے تھے۔ آپ کی خدمت میں اس کو بصرہ کے

روسا نے پیش کیا تھا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک قلم تھا جب آپ چاہتے کہ بیاض پر کچھ لکھیں تو بچہ آپ کی انگلیوں کو پکڑ لیتا تھا ہمارے آقا اس انار کو لڑکا دیتے تھے تاکہ اس لڑکے کو اس میں مصروف رکھیں اور بچہ آپ کو لکھنے سے روک نہ سکے۔ (۱)

ہم نے سلام کیا تو آنجناب نے بڑے لطف کے ساتھ جواب دیا اور ہمیں بیٹھنے کو کہا۔ جب آپ لکھنے سے فارغ ہوئے تو احمد نے چڑے کی تھیلی کو اپنی چادر سے باہر نکالا۔ آپ نے بچے کو دیکھا اور فرمایا: اے بیٹا لہنے دوستوں اور شیعوں کے صحف کی مہر کو توڑ دو۔ بچے نے عرض کیا: اے میرے آقا کیا یہ بات جائز ہے کہ میں اپنے پاک ہاتھ جس شخصوں اور پلیدی مال کی طرف پھیلاؤں؟ آپ نے فرمایا: اے ابن اسحاق جو کچھ چڑے کے تھیلے میں ہے باہر نکالو تاکہ حرام اور حلال میں تمیز کی جائے۔ ابن اسحاق نے پہلی تھیلی نکالی تو بچے نے کہا کہ یہ تھیلی فلاں بن فلاں کی ہے۔ جو قم کے فلاں محلہ میں رہتا ہے۔ یہ تھیلی باسٹھ دیناروں پر مشتمل ہے یہ اس بہتروں والی زمین کی قیمت میں سے ہے جو اس کے مالک نے خریدی تھی اور جس کو دراشت میں اپنے باپ سے بیٹا لیس دینار ملے تھے۔ اور نو کپڑوں کی قیمت میں سے چودہ دینار اور دوکان کی اجرت میں سے تین دینار، ہمارے مولانا نے فرمایا: میرے بیٹے تم نے سچ کہا۔ اب جو اس میں حرام ہے اس کے بارے میں بتاؤ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: رے کے دیناروں کے بارے میں ان سے پوچھا جائے۔ ان پر تاریخ اور سن یوں ہے جن میں ایک طرف کا آدھا نقش مٹ چکا ہے اور اس کا وزن چوتھائی دینار کم ہو گیا ہے۔ اور اس کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس تھیلی کے مالک نے فلاں ماہ اور فلاں سال اپنے ہمسائے جو لاپے کو سوامن اون تول کر دی تھی۔ جو لاپے کے ہاں سے اس کو چور چرا کر لے گیا تھا۔ جو لاپے نے اس بات سے اس کو آگاہ کر دیا تھا لیکن اس نے

(۱) ہمارے جو طبع حرفی میں ہے اسی طرح کہا گیا کہ یہ ضرب حدیث ہے اس حیثیت میں کہ بچے کو ابو محمد نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور اسی طرح سونے کے پھینکنے کے بارے میں کہ جس سے وہ بچہ کھیل رہا تھا کہ وہ ان کو کتابت میں رکاوٹ نہ ہو اور کافی جز۔ ۱۔ صفحہ ۳۱۱ میں صفوان بن محرز سے روایت ہے اس نے کہا: میں نے ابو عبد اللہ سے دریافت کیا صاحب امر کے متعلق تو آپ نے فرمایا کہ یہ امر والا بودعب میں مبتلا نہیں ہوتا کہ لسنے میں ابو الحسن موسیٰ جو بچے تھے آئے اور ان کے ساتھ مکہ کا بکری کا یک سالہ بچہ تھا جس سے وہ کہہ رہے تھے کہ تو اپنے پروردگار کو سجدہ کر تو حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام نے انہیں اپنی آغوش میں لیکر فرمایا میرے ماں باپ خدا ہوں اس پر کہ جو بودعب میں مبتلا نہیں ہوتا (روایت ختم) اب میں کہتا ہوں کہ اس روایت کے طریقہ میں معلیٰ بن محمد بصری موجود ہے علامہ رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ حدیث مذہب میں مضطرب ہے اور اسی طرح نہاشی نے بھی اس کے بارے میں فرمایا ہے اور ابن غضائری نے کہا کہ ہم اس کی حدیث کو پہچانتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ وہ ضعیف لوگوں سے روایت کرتا ہے۔ مناسب ہے کہ اس کی شہادت کو سند نہ سمجھا جائے (علی اکبر خفاری)۔

جو لہجے کی بات کو جھٹلا دیا۔ اس کے عوض میں فزحہ من کاتی ہوئی اور اس سے وصول کر لی تھی۔ اس نے اس سے کپڑے بنائے اور انہیں فروخت کر ڈالا یہی دینار اس کی قیمت میں سے ہیں۔ تحصیل کو جب کھولا گیا تو دیناروں کے درمیان سے ایک خط برآمد ہوا جس پر اس شخص کا نام موجود تھا جس کے بارے میں بتایا گیا تھا اور ان دیناروں کی تعداد اتنی ہی تھی جس قدر اس بچے نے بتائی تھی۔ اور دیناروں کی علامت بھی وہی تھی۔

ابن اسحاق نے ایک اور تحصیل کو نکالا۔ بچے نے کہا یہ فلاں بن فلاں کی ہے۔ جو قم میں فلاں محلہ میں رہتا ہے۔ اس میں پچاس دینار ہیں ان کو ہاتھ لگانا ہمارے لئے حلال نہیں ہے۔ پوچھا گیا: ایسا کیوں؟ جواب دیا: یہ ایسے گہوں کی قیمت ہے جس کے مالک نے خیانت کی ہے۔ جب گہوں کو یا تو زیادہ تول کر لیا ہے اور جب فروخت کیا تو کم تول کر دیا ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا: اے بیٹا تم نے سچ کہا۔

پھر ہمارے آقا نے فرمایا: احمد بن اسحاق تم ان تمام تھیلیوں کو اٹھاؤ اور ان کو ان کے مالکان کے پاس واپس کر دو اور ہم لوگوں کو بڑھیا کا کپڑا دے دو۔ احمد نے کہا: وہ کپڑا میرے کھانے کے تھیلے میں رہ گیا تھا اور میں اسے بھول چکا تھا۔ جب احمد بن اسحاق وہ کپڑا لینے چلا گیا تو ہمارے آقا نے فرمایا: اے سعید تم کیوں آئے ہو؟ میں نے عرض کیا: کہ احمد بن اسحاق نے آپ کی ملاقات کا شوق دلایا۔ آپ نے فرمایا: اور وہ مسائل جو تم نے اس سے پوچھنے چاہے تھے؟ میں نے عرض کیا: وہ اسی طرح ہیں۔ فرمایا: ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک سے دریافت کرو۔ اور حضرت نے سچے کی طرف اشارہ فرمایا۔ بچے نے کہا جو کچھ ہماری مرضی ہو اسے دریافت کرو۔

میں نے عرض کیا: اے مولا ابن مولا ہم لوگ آپ کے آباؤں طاہرین علیہم السلام سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے اپنی ازواج کو طلاق دینے کا اختیار حضرت علی کو دیا تھا۔ چنانچہ جنگ جمل کے روز آپ نے حضرت عائشہ کے پاس آدمی بھیج کر تمہیں فرمائی تھی کہ تم نے یہ فتنہ برپا کر کے مسلمانوں میں انتشار پیدا کر دیا اور اپنی جہالت کی وجہ سے مسلمانوں کا خون بہایا۔ اگر تم واپس نہ جاؤ گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسالت کی وفات کے بعد ازواج رسول کو لپٹنے آپ طلاق ہو گئی تھی تو پھر اب یہ طلاق کی دھمکی کیسی؟ آپ نے فرمایا: طلاق کا کیا مطلب ہے۔ عرض کیا: راستہ خالی ہونا۔ آپ نے فرمایا: جب وفات رسول کے بعد ان کا راستہ خالی ہو گیا تو پھر ازواج کے لئے کسی اور سے عقد کر لینا کیوں طلاق نہیں ہوا؟ عرض کیا: اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج رسول پر کسی اور سے تزویج حرام قرار دی ہے۔ آپ نے فرمایا: مگر کیوں؟ جبکہ موت کی وجہ سے ان کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور ہو گئی تھیں۔ عرض کیا: مولا پھر آپ ہی فرمائیے کہ یہ طلاق کیسی ہے جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیہ المومنین علیہ اسلام کو تفویض کر دیا تھا۔

آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ازواج رسول کی شان بلند فرمائی اور انہیں امہات المومنین کے شرف سے نوازا لہذا

رسول اللہ نے فرمایا: اے ابوالحسن میری ازواج کا یہ شرف اس وقت تک باقی رہے گا جب تک یہ اللہ کی اطاعت کرتی رہیں۔ اگر ان میں سے جو زوجہ بھی میرے بعد تم پر خروج کر کے اللہ کی نافرمانی کرے تو تمہیں اختیار ہے کہ اسے میری زوجیت سے آزاد کر کے اس سے ام المؤمنین ہونے کا شرف واپس لے لینا۔

میں نے عرض کیا: یہ فرمائیے کہ فاحشہ مبینہ کے لئے کیا حکم ہے کہ اگر زمانے عدت میں کوئی عورت مرتکب ہو تو کیا اس کے شوہر کے لئے جائز ہوگا کہ اسے گھر سے نکال دے؟ آپ نے فرمایا فاحشہ مبینہ سے مراد سخی ہے زنا نہیں۔ اگر کوئی عورت زنا کرے اور اس پر حد جاری کر دی جائے تو حد جاری ہونے کی وجہ سے کوئی شخص اس سے نکاح کرنا چاہے اس کے لئے ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اگر عورت سخی کی مرتکب ہوئی ہے تو اس کی سزا رجم ہے۔ رجم حد درجہ رسوائی ہے۔ اور جس کے لئے اللہ نے رجم کا حکم دیا ہے اس کو رسوا کیا ہے۔ جس کو رسوا کیا اس کو اللہ نے دور کیا اور جس کو اللہ نے دور کیا ہے کسی کے لئے یہ جائز نہیں کہ اسے قریب کرے۔

میں نے عرض کیا: اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی (سورۃ طہ آیت ۱۲) اپنی جوتیاں اتار ڈال تو پاک میدان طوی میں ہے۔ اس حکم کی وجہ فریقین کے فقہاء یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ مردار کے ہڑے کی جوتیاں بچنے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا: جو ایسا کہتا ہے وہ حضرت موسیٰ پر الزام لگاتا ہے اور ان کی نبوت سے ناواقف ہے۔ اس کے دو مطلب نکلتے ہیں۔ ایک یہ کہ ان جوتیوں میں حضرت موسیٰ کے لئے نماز جائز تھی یا نہیں۔ اگر جائز تھی تو وادی مقدس میں بہن کر جانا بھی جائز ہوگا اور اگر یہ وادی مقدس اور مطہر تھی تو نماز سے زیادہ مقدس و مطہر نہیں تھی اور اگر ان جوتیوں میں نماز جائز نہیں تھی تو حضرت موسیٰ پر الزام آتا ہے کہ وہ حلال و حرام کو نہیں جانتے تھے اور انہیں علم نہیں تھا کہ نماز میں کیا جائز ہے اور کیا ناجائز اور یہ کفر ہے۔

میں نے عرض کیا: میرے مولا آپ ہی فرمائیں اس کی تائید کیا ہے آپ نے فرمایا: حضرت موسیٰ نے وادی مقدس میں اللہ سے یہ مناجات کی کہ اے مالک میرے دل میں خالص تیری محبت ہے اور میں نے اپنے دل سے ہر قسم کی محبت کو دھو ڈالا ہے۔ حالانکہ ان کو اپنے اہل و عیال سے بہت محبت تھی۔ ارشاد خداوندی ہوا: فاخلع نعلیک "اتار ڈال اپنی جوتیاں" یعنی اپنے دل سے اہل و عیال کی محبت بھی نکال دو۔ تاکہ جہاری محبت مجھ سے خالص ہو جائے اور جہارے دل سے میرے غیر کی محبت دھل جائے۔

میں نے عرض کیا: فرزند رسولؐ کی کیا تائید ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ حروف غیب کی طرف اشارہ ہیں۔ جس کے ذریعہ سے اللہ نے اپنے بندے ذکر کیا کو مطلع کیا۔ پھر حضرت محمدؐ سے ان کا قصہ بیان فرمایا جو یہ ہے کہ ایک مرتبہ بتاب ذکر کیا نے اللہ سے درخواست کی کہ مجھے پنجتن پاک کے اسماء گرامی تعلیم فرما۔ حضرت جبرئیلؑ نازل ہوئے اور انہوں نے پنجتن پاک کے اسماء گرامی تعلیم فرمائے۔ چنانچہ جب ذکر کیا محمدؐ، علیؑ، فاطمہؑ اور حسنؑ کا نام لیتے تو فرحت

و شادمانی محسوس کرتے مگر جب حسینؑ کا نام لیتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور سانس رکنے لگتا۔ ایک دن انہوں نے عرض کیا پروردگار کیا بات ہے۔ جب میں چار اسماء گرامی لیتا ہوں تو خوشی ہوتی ہے مگر حسینؑ کا نام لیتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور میرا سانس بے قابو ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے انہیں واقعہ کربلا سے آگاہ کیا اور فرمایا: **تُكَلِّمُكَ فِيهِمْ** اس میں "ک" سے مراد کربلا ہے۔ "ح" سے مراد ہلاکتِ عترت ہے۔ "یاد" سے مراد یزید جو حسینؑ پر ظلم کرنے والا ہے۔ "ع" سے مراد حسینؑ کی عطش یعنی پیاس اور "ص" سے مراد صبر ہے۔

جناب زکریا نے یہ سنا تو تین روز تک محرابِ عبادت سے باہر نہ نکلے اور کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں دی۔ پس آپ مسلسل گریہ کرتے رہے اور پکارتے تھے: اے مالک تو اپنے خیر الخلق (محمدؐ) کو ان کے فرزند کا غم دے گا۔ ان کی ذمہ داری کے لئے ایسی مصیبت نازل کرے گا۔ کیا علیؑ و فاطمہؑ کو اس مصیبت کا لباس پہنانے کا؟ الہی کیا اس دردناک واقعہ کی تکلیف کو ان دونوں کے لئے مناسب سمجھے گا؟

اے پروردگار مجھے ایک فرزند عطا کر جس سے بڑھاپے میں میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور اس کو میرا وارث و وصی بنا۔ اس کو مجھ سے وہی نسبت ہو جو حسینؑ کو اپنے بچے سے ہوگی۔ پھر مجھے اس فرزند کی محبت میں ہتلاہ کر اس کے بعد مجھے اس کا غم نصیب کر۔ جس طرح تو اپنے حبیب محمدؐ کو ان کے فرزند حسینؑ کا غم دے گا۔ چنانچہ اللہ نے زکریا کو یہی عطا فرمایا اور اس کے بعد انہیں اس کا غم نصیب فرمایا۔ اور جناب یحییٰ کی مدت حمل بھی چھ ماہ تھی اور حسینؑ علیہ السلام کی بھی۔ اور یہ قصہ طویل ہے۔

میں نے عرض کیا: لوگوں کو اپنے لئے خود امام منتخب کرنے کا اختیار کیوں نہیں دیا گیا۔ آپ نے فرمایا: کیا امام مصلح یا مفسد؟ میں نے عرض کیا: مصلح۔ آپ نے فرمایا: کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ لوگ مصلح کی جگہ مفسد منتخب کر لیں لوگوں کو دوسرے کے دل کا حال تو نہیں معلوم کہ اس میں اصلاح ہے یا فساد۔ میں نے عرض کیا: جی سرکار یہ تو ممکن ہے۔ آپ نے فرمایا: یہی وجہ ہے۔ اچھا ایک اور دلیل سنو۔ یہ بتاؤ وہ انبیاء ماسلف کہ جن کو اللہ نے خود منتخب فرمایا جن پر کتابیں نازل فرمائیں اور وحی و عصمت کے ساتھ ان کی تائید فرمائی اور وہ اپنی امتوں میں سب سے زیادہ عالم تھے جیسے جناب موسیٰ و عیسیٰ کہ باوجود کمالِ عقل و علم کے جب انہوں نے خود انتخاب کا ارادہ کیا تو ان کے انتخاب میں منافق بھی آگئے اور وہ یہ ہی سمجھتے رہے کہ یہ مومن ہیں۔

میں نے عرض کیا: جی ہاں حضور ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا: دیکھو حضرت موسیٰ نے جو کلیم اللہ ہیں میثاق کے لئے افراد کا انتخاب کیا۔ جن کے ایمان و انطاس میں انہیں کوئی شک نہیں تھا۔ مگر ان کے اس انتخاب میں منافق آگئے۔ چنانچہ ارشاد رب العزت ہے۔ **وَ اخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا** (سورہ اعراف آیت ۱۵۵) "اور جن لئے موسیٰ نے اپنی قوم میں سے ستر افراد ہمارے وعدے کے وقت پر لانے کو، مگر ان منتخب شدہ ستر

آدمیوں نے پلٹ کر کہا۔ "نن نو من لک حنتی نری اللہ جھرتا" (سورۃ بقرہ آیت ۵۵)۔ ہم ہرگز تیرا یقین نہ کریں گے جب تک کہ اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ "فاخذتہم الصعقۃ بظلمہم" (سورۃ نساء آیت ۵۱۳)۔ "سو آہڑی ان پر بجلی ان کے گناہ کے باعث، جب ہم دیکھتے ہیں کہ جن معزز ہستیوں کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا ان کا انتخاب غلط نکلا۔ حالانکہ وہ یہ ہی سمجھتے رہے کہ انہوں نے صحیح انتخاب کیا پس انتخاب کا حق صرف ذات باری کو ہے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ حضورؐ کے انتقال کے بعد مہاجرین اور انصار کی نگاہ انتخاب دھوکا کھا سکتی ہے۔ گو ان کا ارادہ مردِ صالح کو منتخب کرنے کا ہو پھر بھی غیر صالح منتخب کر سکتے ہیں۔"

اس کے بعد آپؐ نے فرمایا: اے سدا مخالف جو تمہیں یہ دلیل دیتا ہے کہ رسول اللہؐ ابو بکرؓ کو اپنے ساتھ غار میں اس لئے لے گئے کہ وہ جانتے تھے کہ میرے بعد یہ ہی خلیفہ ہوں گے۔ امورِ تادیل کی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ امت کی باگ ڈور انہی کے ہاتھ میں ہوگی۔ اشکاف کی وادی میں وہ ان کی پناہ گاہ ہوں گے۔ ان کی پراگندگیوں کی اصلاح کریں گے اور ان کے مقاصد میں رکاوٹ بنیں گے۔ حدود قائم کریں گے اور بلادِ شرک کو فتح کرنے کے لئے فوجیں ترمیم دیں گے۔ اور کیا شر سے حفاظت چاہنے والے کے لئے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ ایسی جگہ کا ارادہ کرے جہاں وہ پوشیدہ ہو سکے اور سوائے اس کے نہیں کہ انہوں نے اپنے بستر پر حضرت علیؓ کو سلادیا جبکہ ان کے لئے کوئی ٹکڑا پریشانی نہیں تھی اور نہ اس سے بچنے کا کوئی قصد کیا تھا اور اس علم کے باوصف کہ اگر وہ قتل کر دیئے گئے تو ان کی جگہ کسی دوسرے کا آجانا قابلِ عذر نہیں ہوگا۔ چنانچہ جس طرح نبوت کے لئے خود کو محفوظ فرمایا اسی طرح خلافت کے لئے ابو بکرؓ کو محفوظ فرمایا تو اس سے یہ پوچھو کہ تم لوگوں کا کہنا ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت تیس سال تک رہے گی اس طرح آنحضرتؐ نے جہارے مذہب کے مطابق خلفاء راشدین کی مدت حیات کا تعین کیا۔ جب وہ اس کا اقرار کرے تو کہنا کہ کیا رسول اللہؐ کو یہ معلوم نہ تھا کہ ابو بکر کے بعد عمر، عثمان اور علیؓ کو خلیفہ ہونا ہے۔ لہذا وہ کہے گا ہاں رسول اللہؐ کو علم تھا تو کہنا کہ پھر حضورؐ پر واجب تھا کہ جس طرح ابو بکر کو اپنے ساتھ لے گئے اسی طرح ان سب کو غار تک لے جاتے اور کسی کی قدر و منزلت کو نہ گناتے۔ اور جہارے مخالف نے جو تم سے یہ سوال کیا ہے کہ صدیق و فاروق، مخش ایمان لائے یا بالجبر، تو جا اور کہہ دے کہ یہ دونوں لالچ میں اسلام لائے تھے۔ اس لئے کہ یہ دونوں یہودیوں کے پاس بیٹھتے تھے اور انہیں تورات اور تمام سابقہ کتب سے معلوم ہوا کہ حضرت محمدؐ سارے عرب پر اس طرح قبضہ حاصل کریں گے جس طرح بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حاصل کیا تھا اور آپؐ تمام عرب کو فتح کریں گے جس طرح بخت نصر نے بنی اسرائیل کو فتح کیا تھا۔ بس فرق یہ ہے کہ بخت نصر کاذب تھا اور آپؐ اپنے دعویٰ میں صادق ہیں پس دونوں حضورؐ کے پاس آئے اور اس لالچ میں کھ پڑھا کہ جب ان کی حکومت قائم ہو جائے گی تو ہمیں کسی شہر کا حاکم بنا دیں گے۔ مگر جب اس طرف سے مایوسی ہوئی تو تھملا اٹھے اور اپنے جیسے منافقین کو لے کر عقبہ کی پہاڑیوں میں

چھپ گئے تاکہ حضور کو قتل کر دیں۔ مگر اللہ نے حضور کی حفاظت فرمائی اور ان کی تدبیر کامیاب نہ ہو سکی۔ جس طرح طلحہ اور زبیر نے حضرت علی کی بیعت اس لالچ میں کی تھی کہ انہیں کوئی وزارت ملے گی مگر جب یہ اسید پوری ہوتی نظر نہ آئی تو بیعت توڑ دی اور خروج کیا۔ پس ان دونوں کو اللہ نے بیعت توڑنے والوں کی طرح پھٹا دیا۔

سعد کہتے ہیں: پھر امام حسن عسکری اپنے صاحبزادے کے ساتھ نماز کے لئے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی واپس چلا آیا میں نے ابن اسماعق کو بلایا تو وہ مجھے روتے ہوئے ملے میں نے کہا تمہیں در کیوں ہوئی اور تمہیں کس نے رلایا۔ انہوں نے کہا: میرے مولانا جو کپڑا جھ سے طلب کیا تھا وہ میں نے تم کو دیا ہے۔ میں نے کہا کہ اس کی ذمہ داری تم پر نہیں پس مولانا کو بتادو۔ چنانچہ وہ تیزی سے اندر داخل ہوئے پھر مسکراتے ہوئے واپس آئے اور وہ محمد آل محمد پر درود پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا: کیا ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے وہ کپڑا اپنے مولانا کے قدموں میں دیکھا ہے اور وہ اس پر نماز پڑھ رہے تھے۔

سعد کہتے ہیں: پس ہم نے اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ اس کے بعد ہم دونوں آپ کی خدمت میں برابر کئی دن تک حاضر ہوتے رہے۔ مگر پھر آپ کے فرزند کو نہ دیکھا۔ جب رخصت کا دن آیا تو میں اور ابن اسماعق اپنے شہر کے چند ضعیف العمر اشخاص کے ساتھ مولانا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ احمد بن اسماعق نے عرض کیا: فرزند رسول وقت رخصت ہے جس کا ہمیں بہت دکھ ہے۔ اللہ آپ کے جد حضرت محمد پر آپ کے پدر بزرگوار حضرت علی پر آپ کی والدہ ماجدہ جناب سیدہ پر سرداران جوانان جنت آپ کے چچا اور آپ کے والد اور ان کے بعد آپ کے آباء طاہرین پر آپ پر اور آپ کے فرزند پر رحمت و برکت نازل فرمائے۔ خداوند عالم سے التجا ہے کہ وہ آپ کے مقام کو بلند کرے اور آپ کے دشمنوں کو بیجا دکھائے اور یہ بھی دعا ہے کہ ہماری اور آپ کی آفری ملاقات نہ ہو۔ احمد بن اسماعق کی یہ بات سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا: بس بس اے ابن اسماعق اپنی دعا مختصر کرو۔ اس لئے کہ تم اسی سفر میں اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو۔ یہ سن کر احمد بن اسماعق فحش کھا کر گر پڑے جب ہوش آیا تو عرض کیا: مولانا آپ کو آپ کے جد کا واسطہ آپ اپنا کوئی پہنا ہوا لباس عطا کر دیں تاکہ وہ میرا کفن بن سکے۔ یہ سن کر آپ نے فرش کے نیچے ہاتھ ڈالا اور تیرہ درہم نکالے اور فرمایا: یہ لو اور اس کے علاوہ تم اپنی ذات پر مزید خرچ نہ کرنا اور جو تم نے سوال کیا ہے وہ بھی پورا کر دیا جائے گا۔ اللہ مبارک و تعالیٰ نیکو کار کا عمل فصیح نہیں کرتا۔

سعد کہتے ہیں: جب ہم لوگ امام سے رخصت ہوئے اور ابھی حلوان پہنچنے میں تین فرسخ باقی تھے کہ احمد بن اسماعق کو بخار آیا اور اس قدر بیمار ہوئے کہ زندگی سے یابوس ہو گئے۔ حلوان پہنچنے تو ایک سرائے میں قیام کیا اور وہاں ابن اسماعق نے اپنے اہل شہر میں سے ایک شخص کو بلایا اور کہا: آج کی شب تم مجھے ہنا محو کر کہیں چلے جاؤ۔ چنانچہ ہم لوگ وہاں سے چلے گئے۔ جب رات گزر گئی اور صبح ہوئی تو مجھے احمد بن اسماعق کی فکر ہوئی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ امام کا

خادم کافور کھڑا ہے۔ اور کہہ رہا ہے کہ اللہ تم لوگوں کو احمد بن اسحاق کی موت پر صبر دے اور محبوب کے ساتھ تمہاری مصیبت کو دور کرے۔ ہم ان کے غسل و کفن سے فارغ ہو چکے ہیں انھوں اور انہیں دفن کر دو۔ وہ امام کی نظروں میں بہت مکرم تھے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ ہم لوگ آہ و فغاں کرتے ان کے جنازے پر پہنچے اور ان کے دفن سے فارغ ہوئے۔ اللہ ان پر رحمتیں نازل کرے۔

۲۳۔ بیان کیا مجھ سے ابو الحسن علی بن موسیٰ بن احمد بن ابراہیم بن محمد بن عبداللہ بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب نے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد کی کتاب میں تحریر پایا کہ میں نے محمد بن احمد طوال سے سنا۔ ان سے ان کے والد نے بیان کیا ان سے حسن بن علی طبری نے ان سے ابو جعفر محمد بن حسن بن علی بن ابراہیم بن مزہار نے ان سے ان کے والد نے ان سے علی بن ابراہیم بن مزہار نے بیان کیا ہے کہ میں اپنے بستر میں سو رہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اے علی بن ابراہیم حج کے لئے جاؤ وہاں تمہاری ملاقات صاحب الزماں سے ہو جائے گی۔ یہ خواب دیکھ کر میں بے ہوشا مسرور و شاداں ہوا اور نماز فجر سے فارغ ہو کر باہر نکلا تاکہ حاجیوں سے دریافت کروں۔ تو میں نے ایک قافلے کو روانگی کے لئے تیار پایا پس میں بجماعت ان سب سے پہلے نکلنے والے قافلے کے ساتھ ہویا۔ پس اس طرح ہوتا رہا جہاں تک کہ وہ سب چلے اور میں ان کے ساتھ ساتھ کونے کے ارادے سے چلا۔ کوفہ پہنچ کر میں اپنی سواری سے اترا اور اپنا سامان اپنے جلنے والوں کے پاس رکھوایا۔ اور خود امام حسن عسکری کی اولاد کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا میں نے ایک ایک سے پوچھا مگر کوئی سراغ نہ مل سکا نہ کوئی خبر سنی وہاں سے میں پہلے قافلے کے ساتھ مدینہ کے لئے روانہ ہوا۔ مدینہ پہنچ کر میں اس قابل نہیں رہا تھا کہ سواری سے اتروں بہر حال کسی طرح اترا۔ اپنا سامان ایک قابل بھروسہ شخص کے پاس رکھوایا اور باہر نکل گیا کہ (آل ابو محمد کی) خبر دریافت کروں اور سراغ نگاؤں۔ پس میں نے کوئی خبر نہ سنی۔ اور نہ کوئی سراغ پایا پس اسی طرح ہوتا رہا جہاں تک کہ کچھ لوگوں نے کہہ کا رخ کیا اور میں بھی روانہ ہونے والوں کے ساتھ روانہ ہو گیا جہاں تک کہ مکہ پہنچ گیا وہاں میں اترا اپنے سامان کو رکھا اور آل ابو محمد کی تلاش میں نکل گیا لیکن نہ ان کی کوئی خبر سنی اور نہ ان کا کوئی سراغ پایا۔ ایک رات میں امید و نا امید کی کیفیت میں فکر مند بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ میں نے اپنے آپ سے کہا چلو کعبہ کا طواف کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت عرض کروں۔ وہ میری امید کی مجھے معرفت کرائے۔ جب میں طواف کے لئے چلا تو کعبہ کا رخ میرے سامنے تھا۔ اور اس وقت میں ایک ایسے جوان کے سامنے تھا جس کے چہرے پر ملاحظہ تھی۔ بہترین خوشبو والا تھا اور ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے اور دوسری چادر کے لئے گوشاں تھا۔ اس نے ایک چادر کو اپنے کندھے پر ڈالا اور اس کو حرکت دے رہا تھا۔ وہ نوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور بولا: تم کہاں کے رہنے والے ہو۔ میں نے کہا: اہواز کا۔ اس نے کہا: کیا تم ابن غضیب کو جانتے ہو؟ میں نے کہا: اللہ ان پر رحمت کرے وہ تو انتقال کر چکے ہیں۔ وہ بولا: رحمت

اللہ علیہ۔ وہ سائے انہار اور قائم اللیل تھے۔ قرآن کی تلاوت کرتے اور ہماری محبت رکھتے تھے۔ پھر اس نے کہا: کیا تم علی بن ابراہیم بن مہزیار کو جانتے ہو؟ میں نے کہا میں ہی علی بن ابراہیم ہوں؟ یہ سن کر وہ بولا: مرحبا۔ اے ابوالحسن کیا تم امام کے دونوں فرزندوں کو جانتے ہو؟ میں نے کہا: ہاں۔ وہ بولا: وہ کون ہیں؟ میں نے کہا: محمد اور موسیٰ۔ وہ بولا: تمہارے پاس وہ نشانیاں کہاں ہے جو تم کو امام حسن عسکری نے عطا فرمائی تھی؟ میں نے کہا: وہ میرے پاس ہے۔ وہ بولا: مجھے دکھاؤ۔ میں نے انگوٹھی نکالی جس پر محمد و علی لکھا ہوا تھا۔ جب اس نے انگوٹھی کو دیکھا تو رونے لگا اور بولا: اے ابو محمد اللہ آپ پر رحم کرے آپ امام عادل، امام کے فرزند اور امام کے والد ہیں۔ اللہ آپ کو آپ کے لپٹے آباہ علیہم السلام کے ساتھ جنت الفردوس میں ساکن کرے۔

پھر کہا: اے ابوالحسن اپنی قیام گاہ پر جاؤ اور سامان سفر تیار کرو۔ جب رات کے تین حصے گزر جائیں اور تین باقی رہ جائیں گے تو تم سے ملاقات ہوگی۔ ابن مہزیار کہتے ہیں کہ میں اپنی قیام گاہ پر آیا اور طویل وقت نگر میں گزارا یہاں تک کہ چلنے کا وقت آگیا پس میں کھڑا ہوا اور اپنی سواری کو درست کیا اور اس پر بیٹھ کر آگے بڑھا جب وقت مقرر پر بتائی ہوئی جگہ پہنچا تو اس جوان کو وہاں پایا اس نے کہا: اہلاً و سہلاً۔ اے ابوالحسن تمہیں مبارک ہو کہ تم کو ملاقات کی اجازت مل گئی۔ پھر ہم دونوں روانہ ہوئے اور عرفات اور منیٰ سے ہوتے ہوئے طائف کے پہاڑوں سے نیچے کی طرف چلے۔ اس نے مجھ سے کہا: اے ابوالحسن یہاں اترو اور نماز کا سامان کرو۔ ہم دونوں نے وہاں اتر کر نماز شب ادا کی اور پھر اس نے کہا فجر کی نماز پڑھ لو اور اس میں اختصار کرو۔ پس میں نے نماز میں اختصار کیا اور سلام پھیرا۔ اور اس نے اپنا ہجرہ خاک آلود کیا پھر وہ سوار ہوا اور مجھے بھی سوار ہونے کا حکم دیا۔ پس میں سوار ہوا پھر ہم روانہ ہوئے۔ جب صحرا میں پہنچے تو اس نے مجھ سے کہا: کیا تم کو کچھ نظر آیا؟ میں نے کہا: ہاں میرے سردار ایک مر سبز صحت افزا مقام دیکھ رہا ہوں۔ پھر کہا: اس کے اوپر کچھ نظر آیا؟ میں نے کہا: میں صمت کے ٹیلے پر بالوں سے بنا خیمہ دیکھ رہا ہوں جس سے نور نکل رہا ہے۔ پھر پوچھا: کچھ اور نظر آیا؟ میں نے کہا: ہاں فلاں فلاں چیز نظر آئی۔ وہ بولا: اے ابن مہزیار خدا تمہارے نفس کو پاک اور تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے ہم اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ اپنی سواری سے اترو۔ میں سواری سے اترا تو وہ بولا: اے ابن مہزیار اپنی سواری کی باگیں چھوڑ دو۔ میں نے کہا: میں سواری کس کے حوالے کروں۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا: یہ حرم ہے یہاں صرف دلی ہی آاد جاسکتے ہیں۔ (تمہاری سواری کوئی نہیں لے جائے گا)۔ پس میں نے سواری کو چھوڑ دیا۔ ہم خیمہ کے قریب پہنچے تو اس نے مجھ سے کہا تم یہیں ٹھہرو میں تمہارے لئے اجازت لے کر آتا ہوں۔ پس وہ اندر گیا اور ایک لمحہ میں ہی واپس آگیا اور بولا: مبارک ہو تمہیں حاضری کی اجازت مل گئی۔ میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ امام عصر صلوات اللہ علیہ ایک چڑے کے ٹانچے پر تشریف فرما ہیں۔ میں نے آپ کو سلام کیا۔ امام نے جواب سلام دیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ مثل چاند کے چمک رہا ہے۔ اس میں کسی قسم کی خشکی اور شکن

نہیں تھی نہ وہ طویل تھا نہ چھوٹا اور چپکا ہوا۔ وہ دراز قامت تھے۔ آپ نہایت پاکیزہ صورت ہیں، جسم اطہر کا رنگ بالکل صاف ہے، چوڑی پیشانی ہے اور ہائے مبارک ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، رخسار نرم ہیں آنکھیں بڑی اور بینی مقدس اونچی ہے، سیدھے رخسار پر تل ہے۔ میں نے جب ان کو دیکھا تو میری عقل ان کی ذات و صفات دیکھ کر حیرت میں رہ گئی۔ امام نے مجھ سے فرمایا: اے ابن ہزیمہ عراق میں تمہارے بھائی کس حال میں ہیں؟ میں نے کہا: مولا آپ کے بارے میں گمان باطل پر گامزن ہیں اور ان پر شیاطین کی اولاد مسلط ہے۔ آپ نے فرمایا: قاتلہم اللہ انی یوفکون (سورۃ توبہ آیت ۳۰) اللہ انہیں ہلاک کرے یہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں کہ ایک قوم آنے گی جو انہیں ان کے شہر میں قتل کر دے گی۔ اللہ کا حکم ان کو دن اور رات میں کسی وقت بھی جکڑ لے گا۔ میں نے عرض کیا: فرزند رسول ایسا کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا: ایسا اس وقت ہوگا۔ جب جہازے اور راہ کعبہ کے درمیان ایک ایسی قوم حائل ہوگی جن سے اللہ اور اس کا رسول بیزار ہوں گے آسمان میں تین دن تک مسلسل سرخی نظر آئے گی۔ اس میں ایک ستون نظر آئے گا۔ جیسے چاندی کا ستون ہو جس سے نور ساطع ہوگا۔ پھر آرمینہ اور آذربائیجان سے مروی خروج کرے گا جو رے کے پیچھے جبل اسود پہنچنے کا ارادہ کرے گا۔ جو جبل احمر کے سلمے اور جبل طالقان سے متصل ہے پھر اس کے اور مردی کے درمیان ایسی طویل اور گھمسان کی جنگ ہوگی جس میں بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور بوڑھے کزدور۔ ان دونوں کے درمیان کشت و خون کا مقابلہ ہوگا۔ پھر اس وقت توقع کرنا کہ صاحب الزمان کا خروج ہوگا اور زوراء کی طرف بڑھیں گے۔ وہاں سے ماہان پھر وہاں سے عراق کے شہر واسط پہنچیں گے اور ایک سال تقریباً وہاں قیام کریں گے۔ وہاں سے آگے بڑھ کر کوفہ پہنچیں گے وہاں سے بصرہ اور غزی کی طرف بڑھیں گے۔ وہاں دونوں گروہوں میں ایسی جنگ ہوگی کہ عقل حیران رہ جائے گی۔ نتیجے میں دونوں فوجیں جہاں ہو جائیں گی اور ان میں جو باقی رہ جائیں گے۔ انہیں اللہ کاٹ کے رکھ دے گا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ○ اٹھا امرنا لیللاً او نھارا ف جعلنا حصیداً کان لم تغن بالامس (سورۃ یونس آیت ۲۴) "ناگاہ پہنچا اس پر ہمارا حکم رات کو یا دن کو پھر اس کو کاٹ کر ڈھیر کر ڈالا۔ گویا کل یہاں آبادی نہ تھی" میں نے عرض کیا: فرزند رسول امر سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا: ہم ہی تو اللہ کے امر اور اس کی فوج ہیں۔ میں نے عرض کیا: حضور کیا وہ وقت آگیا ہے؟ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: اقتربت الساعة وانشق القمر (سورہ قمر آیت ۱) "پاس آگئی قیامت اور پھٹ گیا چاند۔"

۲۴۔ بیان کیا مجھ سے احمد بن زیاد بن جعفر ہمدانی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے ابو القاسم جعفر ابن احمد علوی برقی عریضی نے ان سے ابو الحسن علی بن احمد حقیقی نے ان سے ابو نعیم انصاری زیدی نے انہوں نے کہا کہ میں مکہ میں مستجار کے پاس تھا۔ ہمارے ساتھ عمرہ ادا کرنے والوں کی ایک جماعت بھی تھی۔ ان میں محمودی اور علفان کلینی اور

ابو ہشیم دیناری اور ابو جعفر احوال ہمدانی اور محمد بن قاسم علوی وہ تیس افراد تھے اور محمد بن قاسم علوی عشقی کے سوا ان میں کوئی مخلص نہ تھا۔ یہ ذوالحجہ کی چھ تاریخ اور سن ۲۹۳ ہجری تھا۔ ہمارے پاس ایک نوجوان آیا جو احرام باندھے ہوئے تھا اس کے ہاتھ میں اس کی نعلین تھیں۔ وہ ہمارے درمیان آیا۔ ہم لوگ اس کے رعب و ودیدہ کی وجہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے سلام کیا اس نے دائیں بائیں دیکھا اور ہمارے درمیان بیٹھ گیا اور بولا: کیا تم لوگ جلتے ہو کہ حضرت امام جعفر صادق اپنی دعا میں کیا فرمایا کرتے تھے۔ ہم نے دریافت کیا: کیا فرمایا کرتے تھے؟ اس جوان نے کہا: آپ فرمایا کرتے تھے: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِیْ بِہِ تَقُوْمُ السَّمَاوُ وَ بِہِ تَقُوْمُ الْاَرْضُ ، وَ بِہِ تَفْرُقُ بَیْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ ، وَ بِہِ تَجْمَعُ بَیْنَ الْمُتَفَرِّقِ ، وَ بِہِ تَفْرِقُ بَیْنَ الْمُجْتَمِعِ ، وَ بِہِ اَحْصِیْتَ عَدَدَ الرِّمَالِ وَ زِنَةَ الْجِبَالِ وَ کَیْلَ الْبَحَارِ اَنْ تُصَلِّیَ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ اٰلِ مُحَمَّدٍ وَ اَنْ تَجْعَلَ لِیْ مِنْ اَمْرِیْ فَرْجًا وَ مَخْرَجًا اَلْیَوْمِ اَنْ تَجْعَلَ لَیَّ مِنْ اَسْمَائِیْ

مقدمہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں۔ جن کے باعث آسمان و زمین تھے ہوئے ہیں۔ جن کے باعث حق و باطل کا فرق ہوتا ہے۔ جن کی وجہ سے معزق اور پراگندہ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اور جن کے ذریعہ سے جماعتوں میں افتراق اور اختلاف واقع ہوتا ہے۔ اور جن کے وسیلہ سے ریگ بیابان کے اعداد، پہاڑوں کے اوزان اور دریاؤں کے پانی کا اندازہ ہوتا ہے، درود بھیج محمد اور آل محمد پر اور میرے لئے میرے جملہ امور کو کشادہ اور آسان فرما۔

پھر وہ جوان رعنا اٹھے۔ ان کے احترام میں ہم بھی اٹھے وہ طواف میں مشغول ہو گئے۔ ان کی ہیبت کے باعث ہم یہ پوچھنا بھول گئے کہ وہ کون تھے۔ دوسرے دن اس وقت طواف سے فارغ ہو کر تشریف لائے اور اسی طرح ہمارے درمیان بیٹھ گئے۔ پھر دائیں بائیں نظریں کیں اور فرمایا: کیا تم جلتے ہو کہ امیر المؤمنین نماز فریضہ کے بعد کیا دعا مانگتے تھے۔ ہم نے دریافت کیا: کیا دعا فرماتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ یہ دعا فرماتے تھے: اَللّٰهُمَّ اَلِیْکَ رَفَعْتُ الْاَصْوَاتِ [وَدَعِیْتُ الدَّعَوَاتِ] وَ لَکَ عَنَتِ الْوُجُوْہُ ، وَ لَکَ خَضَعَتِ الرِّقَابُ وَ اِلَیْکَ التَّحَاکُمُ فِی الْاَعْمَالِ ، یَا خَیْرَ مَسْئُوْلٍ وَ خَیْرَ مَنْ اَعْطٰی ، یَا صَادِقُ یَا بَارِئُ ، یَا مَنْ لَا یُخْلِیْفُ الْمِیْعَادُ ، یَا مَنْ اَمْرٌ بِالدَّعَاۃِ وَ تَکْفُلُ بِالْاِجَابَةِ ، یَا مَنْ قَالَ : " اَدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ " یَا مَنْ قَالَ : " وَاِذَا سَأَلَکَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا فَلَیْسَتْ جَبِیْبُوْا لَیْ وَ لَیْوُ مِنْوَابِیْ لَعَلَّہُمْ یُرْشِدُوْنَ " یَا مَنْ قَالَ : " یَا عِبَادِی الَّذِیْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰی اَنْفُسِہِمُ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰہِ اِنَّ اللّٰہَ یَغْفِرُ الذَّنُوْبَ جَمِیْعًا اِنَّہُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ " (بروردگار تیری ہی طرف سب کی آوازیں جاتی ہیں۔ تجھ سے ہی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ تیرے ہی سامنے رخصدار رکھے جاتے ہیں۔ تیری بارگاہ میں خضوع و خشوع بجالایا جاتا

ہے۔ تمام اعمال میں تیرا ہی حکم مانا جاتا ہے۔ اے ان سب سے بہتر جن سے سوال کیا جاتا ہے اور اے تمام عطا کرنے والوں سے بہتر۔ اے سچے اور اے عفو کرنے والے۔ اے وہ جو کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اے وہ جو دعا کرنے کے لئے بھی حکم کرتا ہے اور قبول فرمانے کا بھی وعدہ فرماتا ہے۔ اے وہ کہ جس نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے جو کچھ مجھ سے طلب کیا میں اس سے قریب ہوں۔ اس کی دعا قبول کرتا ہوں جس دم وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ پس دین کو قبول کرو اور مجھ پر ایمان لاؤ کہ تم ہدایت یافتہ ہو۔ اور اے وہ جو ارشاد فرماتا ہے: اے میرے بندوں جو اپنے نفسوں پر اسراف کر چکے ہو خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ خدا تعالیٰ تمام گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ کیونکہ وہ بہت بڑا بخشنے والے اور رحم کرنے والا ہے۔)

پھر انہوں نے دائیں بائیں نظریں کیں اور فرمایا: کیا تم کو معلوم ہے کہ امیرالمومنین سجدہ شکر میں کیا فرماتے تھے؟ ہم نے دریافت کیا: کیا فرماتے تھے؟ آپ نے فرمایا: وہ کہا کرتے تھے: "يَا مَنْ لَا يَزِيدُ إِلَّا حَاحَ الْمَلْحَجِينَ إِلَّا جُودًا وَكِرْمًا يَا مَنْ لَهُ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا مَنْ لَهُ خَزَائِنُ مَادِقٍ وَجَلَّ لَا تَمْنَعُكَ أَسَاءَ تَنِي مِنْ إِحْسَانِكَ إِلَهِي، إِنْئِي أَسْأَلُكَ أَنْ تَفْعَلَ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَالْعَفْوِ، يَا رَبَّالَا، يَا اللَّهُ أَفْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ فَأَنْتَ قَادِرٌ عَلَى الْعُقُوبَةِ وَقَدْ اسْتَحَقَّقْتَهَا، لِأَحْجَةِ لِي وَلَا عُدْرَ لِي عِنْدَكَ، أَبُوءُ إِلَيْكَ بِذُنُوبِي كُلِّهَا، وَأَعْتَرَفُ بِهَا كَيْ تَعْفُو عَنِّي وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهَا مِنِّي، بُوْتُ إِلَيْكَ بِكُلِّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ، وَبِكُلِّ خَطِيئَةٍ أَخْطَأْتُهَا، وَبِكُلِّ سَيِّئَةٍ عَمَلْتُهَا، يَا رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ" (روئے والوں کی گریہ و زاری سوائے تیرے جود و کرم کے اصفحہ کے اور کوئی اصفحہ نہیں کرتی۔ اے وہ جس کے پاس آسمان اور زمین کے خزانے ہیں۔ اے وہ جس کے فضل بہت وسیع ہیں۔ میرے گناہ مجھے تیرے احسانات کے ملنے سے نہیں روک سکتے جن کے لئے میں تیری جناب میں استغما کرتا ہوں۔ تو میرے ان امور میں دیباہی کر جیسا کہ تجھے شایان اور مزاوار ہے۔ تو ہر قسم کے عذاب پر قادر ہے تجھ کو ان عذابوں کا پورا استحقاق ہے۔ مجھ کو تیری جناب میں کوئی حجت حاصل نہیں ہے اور نہ تیری درگاہ میں مجھے کوئی عذر کرنے کا موقع ہے۔ میں اپنے گناہ تیری خدمت میں پیش کرتا ہوں اور ان کا اقرار کرتا ہوں تاکہ تو انہیں معاف فرما دے اور تو سب سے بہتر جلتے والا ہے۔ میں ان گناہوں سے جو عمل میں لاجچا ہوں بری ہوتا ہوں اور ان تمام شطاؤں سے جو مجھ سے سرد ہو چکی ہیں اور ان تمام برائیوں سے جو بجالایا ہوں۔ اے میرے پروردگار تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور ان تمام امور سے درگزر فرما جن کو تو سب سے اچھا جانتا ہے کیوں کہ تو سب سے زیادہ عینہ اور مہربانی کرنے والا ہے۔)

پھر وہ حضرت رخصت ہو گئے۔ اگلے روز پھر آئے اور ہم نے روز کی طرح ان کا استقبال کیا۔ پس وہ ہمارے درمیان بیٹھ گئے اور دائیں بائیں دیکھا اور فرمایا: علی بن حسین سید العابدین علیہ السلام اپنے سجدے میں اس جگہ۔ اپنے دست مبارک سے حجر اسود کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا فرمایا کرتے تھے۔ **عَبِيدُكَ بِفَنَائِكَ، وَسَكِينُكَ بِبَابِكَ أَسْأَلُكَ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ سِوَاكَ** (تیرا بندہ تیری چوکھٹ پر، تیرا مسکین تیرے دروازے پر تجھ سے ان چیزوں کا طالب ہے جن پر سوائے تیرے کوئی دوسرا قدرت نہیں رکھتا) پھر انہوں نے دائیں بائیں نظر کی اور محمد بن قاسم علوی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے محمد بن قاسم تم بھلائی پر قائم ہو ان شاہد۔ (یہ کہہ کر) آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور طوائف میں داخل ہو گئے اور ہم میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس نے یہ دعا سیکھی نہ ہو اور ہم بھول گئے تھے لیکن دن کے آخری حصے میں اس بارے میں گفتگو کی۔ محمودی نے ہم سے کہا: اے لوگو! تم جانتے ہو یہ کون تھے؟ ہم نے کہا: نہیں۔ انہوں نے کہا: خدا کی قسم یہ صاحب الزمان تھے۔ ہم نے کہا: اے ابو علی کیسے؟ وہ بولے: میں نے اپنے رب سے سات سال دعا کی تھی کہ وہ مجھے صاحب الزمان کی زیارت کرائے۔

سات سال بیٹے کی بات ہے کہ یہی حضرت حرفہ کی عشاء کی دعا پڑھ رہے تھے۔ میں نے خدمت میں عرض کیا: آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا: انسانوں میں سے ہوں۔ میں نے کہا: کن انسانوں میں سے؟ عربوں میں سے یا ان کے دوستوں میں سے؟ فرمایا: عربوں میں سے۔ میں نے دریافت کیا: کن عربوں میں سے؟ فرمایا: اشراف اور بلند مرتبہ لوگوں میں سے۔ میں نے پوچھا: وہ کون ہیں۔ انہوں نے جواب دیا: بنو ہاشم۔ میں نے عرض کیا بنو ہاشم کی کس شاخ میں سے ہیں؟ جواب دیا جو مشورہ بیٹے میں بلند اور رفعت میں قابل تعریف ہیں۔ میں نے دریافت کیا: ان میں سے کن حضرات سے ہیں؟ فرمایا: ان میں سے ہوں جنہوں نے کھوپڑی کو شکافتہ کیا تھا، کھانا کھلایا تھا، اور رات کو اس وقت نماز پڑھی جب لوگ سوئے ہوئے تھے۔ میں سمجھا یہ کوئی علوی آدمی ہے اور میں علویوں سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آپ پوشیدہ ہو گئے۔ مجھے علم نہ ہو سکا کہ آسمان کی طرف گئے یا زمین کے اندر تشریف لے گئے۔ میں نے ان لوگوں سے دریافت کیا جو آپ کے گرد جمع تھے کہ کیا تم اس علوی کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ ہر سال ہمارے ساتھ پیدل تشریف لا کر حج ادا کرتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کے قدم کے چلنے کا کوئی نشان نہیں دیکھا۔ پھر اپنی جدائی کی وجہ سے حزن و ملال کی حالت میں مزدلہ چلا آیا۔ میں نے اسی رات رسول اللہؐ کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا: اے محمودی تم نے اپنے مطلوب کو دیکھا میں نے عرض کیا: میرے آقا وہ کون تھے؟ فرمایا: عشاء میں تم نے جنہیں دیکھا وہ صاحب الزمان تھے۔

پس ہم نے اس سے یہ بات سنی تو اس پر غصہ کیا کہ اس نے ہمیں اس سے آگاہ کیوں نہ کیا۔ تو اس نے بتایا کہ

وہ گفتگو کے دوران اس بات کو بھول گیا تھا۔

اور مجھ سے اس حدیث کو عمار بن حسین بن اسحاق الاسروشنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا سرزمین فرغانہ میں جبل بونیک پر، ان سے ابو العباس احمد بن حنظل نے ان سے ابوالحسن محمد بن عبداللہ الاسکانی نے ان سے سلیم نے ان سے ابو نعیم انصاری نے بیان کیا ہے کہ میں مستجار کے قریب مکہ میں تھا اور میرے ساتھ عمرہ ادا کرنے والوں کی ایک جماعت بھی تھی جس میں محمودی اور علقان کلینی بھی تھے۔ پھر مذکورہ بالا حدیث بیان کی۔

اور مجھ سے ابو بکر محمد بن محمد بن علی بن محمد بن حاتم نے بیان کیا ان سے ابوالحسن عابد اللہ بن محمد بن جعفر قصبانی بغدادی نے ان سے ابو محمد علی بن محمد بن احمد بن حسین مازدانی نے ان سے ابو جعفر محمد بن علی سنقزی حسنی نے مکہ میں بیان کیا کہ میں مکہ میں مستجار کے قریب تھا میرے ساتھ عمرہ ادا کرنے والوں کی ایک جماعت تھی۔ ان میں محمودی، ابو نعیم الدیناری، ابو جعفر الاحول، علقان کلینی اور حسن بن وختار تھے۔ ہم تیس افراد تھے پھر مذکورہ حدیث بیان کی۔

۲۵۔ بیان کیا مجھ سے ابوالحسن علی بن حسن بن (علی بن) محمد بن علی بن الحسن ابن علی بن ابی طالب نے ان سے ابوالحسن حسن بن وختار نے ان سے ان کے والد نے ان سے ان کے جد نے بیان کیا کہ میں امام حسن عسکری کے گھر میں موجود تھا کہ کچھ لوگوں نے گھر پر حملہ کیا ان میں جعفر کذاب بن علی بھی تھے اور وہ لوٹ مار میں مصروف تھے اتنے میں امام زمانہ دروازے سے ظاہر ہوئے۔ میں نے انہیں دیکھا وہ اس وقت چھ سال کے تھے اس کے بعد کسی نے انہیں نہیں دیکھا۔

میں نے بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا پایا اور محمد بن حسین بن عباد سے بھی روایت سنی کہ حضرت امام حسن عسکری نے جمعہ کے روز بوقت نماز صبح شہادت پائی۔ اس رات آپ نے اپنے ہاتھوں سے کئی غلطو مدنیہ کے لئے لکھے۔ اس دن آٹھ ربیع الاول سن ۲۶۰ ہجری تھا۔ اس وقت آپ کے پاس صیقل کنیز اور عقیدہ خادم اور وہ جو اللہ کے علم میں ہے (یعنی امام زمانہ) موجود تھے۔ عقیدہ نے کہا: امام حسن عسکری نے پانی مانگا میں پانی لے کر آیا۔ پانی سداوار میں جوش دیا گیا۔ پھر ہم اسے لے کر آئے آپ نے فرمایا: نماز کی تیاری کی ابتداء کرو، پھر ہم نے آپ کے حجرہ میں چادر پکھادی پس آپ نے صیقل سے پانی لیا اور اپنے پہرے کو دھویا اور کہنیوں سے انگلیوں کے سرے تک بار بار دھویا اور اپنے سر اور پیروں کا مسح کیا اور اپنے بستر پر ہی نماز ادا کی پھر آپ نے اپنے پینے کے لئے پانی کا کوزہ مانگا۔ پانی پینے ہوئے آپ کا ہاتھ کلپٹنے لگا۔ صیقل نے آپ کے ہاتھ سے کوزہ لے لیا۔ اسی لمحے آپ کا انتقال ہو گیا۔ اور آپ کو ستر من رائے میں آپ کے گھر میں آپ کے والد گرامی کے پہلو میں ہی دفن کر دیا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک اسی سال تھی۔

عباد نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت امام حسن عسکری کی والدہ جن کا نام "حدیث" تھا مدینہ سے تشریف لائیں تب یہ خبر ان کو ستر من رائے میں ملی اور امام حسن عسکری کے بھائی جعفر اور ان کے مطالبہ میراث اور بادشاہ کے پاس

شکایت کے سلسلے کے لیے چولے قصوں کی وضاحت ہوئی کہ اس نے ان تمام امور کو اس کے اہل ظاہر کر دیا جن کا پوشیدہ رکھنا واجب تھا۔ معتد نے آپ کی کنیز صیقیل کو گرفتار کروایا۔ اور لپٹے محل میں ہی قید کر دیا۔ صیقیل نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ حاملہ ہیں۔ جس پر معتد نے اپنی عورتوں اور کنیزوں اور قاضی ابن ابی ثوراب کی بیوی کو اس بات پر مامور کیا کہ وہ صیقیل کی سخت نگرانی کریں یہاں تک کہ کچھ ایسے واقعات ہونے جیسے صید اللہ بن یحییٰ بن خاقان کی موت، سرمن رائے میں بغاوت اور بصرہ میں صاحب زنج کی حکومت جن کی وجہ سے صیقیل کی طرف سے توجہ ہٹ گئی۔

ابو الحسن علی بن محمد جناب کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو الاویان نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ عقیدہ خادم کہتا ہے۔

ابو محمد بن خیرویہ تسری اور حاجر الوشاء نے عقیدہ خادم سے حکایت کی ہے۔ ابو اسہل بن نوبخت نے بھی خادم عقیدہ سے روایت کی ہے کہ جنت خدا امام عمر ابن الحسن ابن علی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین ماہ رمضان میں جمعہ کی رات سن ۲۵۴ ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو القاسم اور بعض نے کہا ابو جعفر ہے۔ آپ کا لقب ہمدی ہے۔ وہ تمام خلق پر اللہ کی حجت ہیں۔ آپ کی والدہ صیقیل تھیں۔ آپ ورب الراضہ میں سرمن رائے میں پیدا ہوئے۔ لوگوں نے آپ کی ولادت کے بارے میں اختلافات کیا۔ ان میں سے کچھ پر انہیں ظاہر کیا گیا۔ کچھ سے چھپایا گیا۔ کچھ نے ان کے ہونے کا انکار کیا۔ اور کچھ نے ہمیشہ ان کا تذکرہ کیا اور اللہ ان کے متعلق زیادہ جانتا ہے۔

ابو الاویان بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت امام حسن عسکری کی خدمت بجالایا کرتا تھا۔ میں آپ کے خطوط کو شہروں میں پہنچایا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ آپ پر وہ بیماری وارد ہوئی جس میں آپ صلوٰۃ اللہ علیہ کی وفات واقع ہوئی۔ آپ نے ایک خط تحریر فرمایا اور مجھے حکم دیا کہ اس کو مدائن لے جاؤ تم پندرہ روز غیر حاضر ہو گے اور سامرا (سرمن رائے) میں پندرہویں دن واپس آؤ گے تو میرے گھر سے موت کی آوازیں سنو گے اور مجھے فصل دینے کی جگہ پر پاؤ گے۔ میں نے عرض کیا: اے آقا آپ کے بعد قائم کون ہوگا۔ آپ نے فرمایا: جو شخص میرے ان خطوط کا تم سے جواب طلب کرے۔ میں نے عرض کیا کہ اور وضاحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا جو شخص میری نماز (جتازہ) پڑھائے گا وہ میرے بعد قائم ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ اور وضاحت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ میرے بعد امام وہ ہوگا کہ جو کچھ تھیلیوں میں ہوگا اس سے تمہیں آگاہ کر دے گا۔ پھر آپ کے رعب اور دبدبہ نے مجھے تھیلیوں کے بارے میں سوال کرنے سے روک دیا۔ میں خطوط لے کر مدائن روانہ ہو گیا وہاں میں نے ان خطوط کے جوابات حاصل کئے اور جیسا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا پندرہویں روز سامرا (سرمن رائے) میں داخل ہوا۔ حضرت کے گھر سے موت کی خبر سنی۔ آپ فصل کی جگہ پر موجود تھے۔ گھر کے دروازے پر آپ کے بھائی جعفر بن علی موجود تھے۔ لوگ انہیں گھیرے ہوئے کھڑے تھے اور پرسہ دے رہے تھے اور امامت پر تہنیت کر رہے تھے۔ میں نے دل میں سوچا اگر یہ شخص امام ہے تو پھر امامت باطل

ہو گئی کیونکہ میں اس کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ ہمیشہ پیٹا، ادبائشوں میں بیٹھتا اور ظہورہ بجاتا تھا۔ بہر حال میں بھی آگے بڑھا اور تعزیت کی، جہنیت دی مگر کوئی اور بات نہ پوچھی۔ لہتے میں عقیدہ خادم گھر سے نکلا اور بولا۔ اے سردار آپ کے بھائی کو کفن دے دیا ہے۔ اب آپ آئیے اور نماز پڑھائیے۔ پس جعفر بن علی اور وہ شیخ جو ان کے ساتھ تھے گھر میں داخل ہوئے نیز سمان اور حسن بن علی بھی جن کو (بعد میں) مستحکم المعروف بہ سلمہ نے قتل کیا۔ جب ہم لوگ گھر میں حضرت امام حسن بن علی صلوات علیہ اللہ کی کفنوں نعش کے پاس پہنچے تو جعفر بن علی آگے بڑھے تاکہ اپنے بھائی کی نماز پڑھائیں انہوں نے تکبیر کا ارادہ کیا تھا کہ ایک بچہ نکلا جس کا چہرہ گندم گوں، بال گھنگریالے اور دانت جدا جدا تھے۔ اس نے جعفر بن علی کی چادر کو کھینچا اور فرمایا اے بچا پیچھے ہو جائیں میں اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھانے کا زیادہ حق دار ہوں۔ پس اس صاحبزادے نے نماز پڑھائی اور امام حسن عسکریؑ کو ان کے والد کے پہلو میں دفن کیا۔ پھر فرمایا اے بصری ان خطوط کے جوابات لاؤ جو تمہارے پاس ہیں میں نے ان کو (خطوط کے جوابات) پیش کئے۔ اور سوچا کہ یہ دو نشانیاں پوری ہوئیں۔ اور ابھی تھیلیوں کی بات باقی ہے۔ جعفر خجالت کے ساتھ باہر نکلے۔ حاجر الوشاء نے ان سے پوچھا اے یرے سردار یہ کون بچہ ہے جس نے تم پر بخت قائم کی؟ وہ بولے خدا کی قسم میں نے آج سے پہلے اس کو کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ اسے جانتا ہوں۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ قم سے ایک جماعت وارد ہوئی۔ اس نے امام حسن عسکریؑ کے متعلق پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا ان کے جانشین کون ہیں؟ لوگوں نے جعفر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ جماعت جعفر کے پاس آئی سلام کیا، تعزیت کی اور امامت کی مبارک باد دی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس خطوط اور مال ہے۔ آپ فرمائیں کہ کس کے خطوط ہیں اور کتنا مال ہے۔ جعفر یہ سن کر سچ پا ہو گئے اور کہا کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ میں خیب کا علم رکھتا ہوں۔ لہتے میں ایک خادم ظاہر ہوا اور اس نے کہا کہ خطوط کے مالک فلاں اور فلاں اشخاص ہیں۔ اور تھیلیوں میں ایک ہزار دس دینار ہیں۔ امام عصرؑ انہیں طلب فرماتے ہیں۔ انہوں نے غلام کو خطوط اور مال دے دیا۔ اور کہا یہی علامت ہے اس شخص کے لئے جو امام ہے۔ پس جعفر بن علی معتد کے پاس آگئے اور یہ تمام حالات بیان کر دیئے۔ معتد نے اپنے سپاہی امام کے گھر پر بھیجے جو صیقل کو گرفتار کر کے لے آئے۔ معتد نے صیقل سے حضرت امام حسن عسکریؑ کے صاحبزادے کو حوالے کرنے کے لئے کہا۔ صیقل نے کسی بھی بچہ کی دلاوت سے انکار کر دیا اور دعویٰ کیا کہ میں حمل سے ہوں تاکہ معتد بچہ کی تشخیص سے غافل ہو جائے۔ پس اس نے صیقل کو ابن ابی شوارب قاضی کے پاس قید کر دیا۔ سہاں تک کہ صدیق بن یحییٰ بن خاتان کی ناہبانی موت واقع ہوئی۔ بصرہ میں صاحب الزنج نے بغارت کر دی۔ ان حالات میں مصروف ہو کر وہ صیقل سے غافل ہو گیا اور اس طرح وہ اس کی قید سے رہا ہوئیں۔ والحمد للہ رب العالمین۔

۲۶۔ مجھ سے ابو العباس احمد بن حسین بن عبداللہ بن محمد بن مہران الآبائی عروضی نے مرو میں بیان کیا ان سے

ابوالحسن بن زید بن محمد بن بغدادی نے ان سے ابو الحسن علی بن سنان موصلی نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد قم سے ایک وفد کچھ اموال کے ساتھ آیا ان لوگوں کو امام کی شہادت کی خبر نہیں تھی۔ جب وہ لوگ سرمن رائے پہنچے اور امام کے متعلق معلوم کیا تو ان لوگوں کو بتایا گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا: ان کا وارث کون ہے؟ کہا گیا کہ ان کے بھائی جعفر بن علی۔ پوچھا: وہ کہاں ہیں؟ ان سے کہا گیا کہ وہ دریائے دجلہ کے کنارے پینے پلانے گئے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ گانے بجانے والے بھی گئے ہیں۔ وفد کے لوگوں نے آپس میں کہا کہ یہ تو امام کی صفت نہیں ہو سکتی۔ پس ہمیں یہ اموال واپس جا کر ان کے مالکوں کو لوٹا دینے چاہئیں۔ ابو العباس محمد بن جعفر حمیری قمی بولے: ہمیں اس شخص کا انتظار کرنا چاہیے اور اس سے مل کر اس کے متعلق خبر کی صحت کی تصدیق کرنا چاہیے۔

جب جعفر لوٹے تو وہ لوگ ان کے پاس گئے۔ انہیں سلام کیا اور بولے: اے ہمارے سردار ہم اہل قم سے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ کچھ شیعوں کی جماعت میں سے اور کچھ غیر ہیں۔ اور ہم کچھ اموال شرعیہ امام حسن عسکری کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے لائے ہیں۔ جعفر نے پوچھا: وہ مال کہاں ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس ہے۔ اس نے کہا: اے وہ مال مجھے دے دو۔ ان لوگوں کو ایسے نہیں بلکہ اس مال کو دینے کا ایک طریقہ ہے۔ اس نے کہا: وہ کیا؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہ مال شیعوں سے جمع ہوا ہے۔ پھر اس کو تھیلیوں میں بند کر کے ان پر سہر لگائی گئی ہے۔ ہم جب بھی امام کی خدمت میں مال پیش کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے: یہ مال اتنا ہے۔ یہ دینا لیتے ہیں اور یہ نکلان لٹاؤں نے بھیجا ہے۔ یہاں تک کہ وہ تمام لوگوں کے نام بتاتے اور جو سہر پر نقش ہوتا وہ بھی بتاتے تھے۔ جعفر بولے: تم لوگ میرے بھائی پر جھوٹ باندھتے ہو۔ یہ علم فیض ہے جس کو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔

جب ان لوگوں نے جعفر کی یہ بات سنی تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ جعفر نے کہا: یہ مال میرے حوالے کر دو۔ وہ بولے: ہم تو صرف صاحبان مال کے امین اور قاصد ہیں۔ ہم صرف ان علامات کو جو ہم نے امام حسن عسکری میں دیکھیں ہیں مشاہدہ کر کے مال دے سکتے ہیں۔ اگر تم امام ہو تو بیان کرو۔ ورنہ ہم اس مال کو ان کے مالکان کے پاس لوٹا دیں گے۔ پھر وہ جو چاہے کریں۔ جعفر نے خلیفہ وقت کے پاس شکایت کر دی جو سامرہ میں موجود تھا خلیفہ نے ان لوگوں کو طلب کیا اور انہیں حکم دیا کہ مال جعفر کے حوالے کر دو۔ انہوں نے خلیفہ کو دعائے خیر دے کر کہا کہ حقیقت حال یہ ہے کہ ہم وہ جماعت ہیں جو ہمارے ملک اور زبان میں اجیر کہے جاتے ہیں۔ ہم لوگ بذات خود ان اموال کے مالک نہیں ہیں۔ بلکہ ان کے اصلی مالکوں کی طرف سے صرف وکیل ہیں۔ اور امین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور ان لوگوں نے ہم کو اپنے اموال اس شرط و عہد پر حوالے کئے ہیں کہ ہم ان کی یہ امامت اس شخص کو دیدیں جس کے پاس علامت اور دلائل موجود ہوں۔ پھر پانچ امام عسکری کی حیات میں ہم لوگ برابر ان کی ذات سے ایسے ہی

اعجاز دیکھتے رہے۔ خلیفہ نے کہا: ابو محمد کی وہ علامت کیا تھی؟ لوگوں نے کہا: آجنتاب ہم کو ان کے اموال کی اقسام تعداد اور ان کے جملہ اوصاف سے پوری خبر دیتے تھے اور ان کے مالکوں کے نام اور ان کے بھینچنے والوں کے پتے اور نشان کامل طور پر بتلا دیتے تھے جب ان کی زبان معجز بیان سے ہم ان کی یہ تفصیل سن لیتے تھے تب اموال ان کے حوالے کر دیتے تھے۔ اب ان کے انتقال کے بعد اگر یہ شخص بھی انہی اوصاف کے ساتھ موصوف ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہی اعجاز جو ہمارے امور خاص کے متعلق ہیں ہم کو دکھلانے جو اس کے بھائی دکھایا کرتے تھے ورنہ ہم مال کو اپنے ہمراہ لے جا کر ان کے مالکوں کو واپس کر دیں گے۔

ان کے یہ بیانات سن کر جعفر (کذاب) نے معتد سے کہا کہ یہ لوگ جوٹے ہیں اور میرے بھائی پر تہمت لگاتے ہیں۔ اور یہ تو علم غیب ہے۔ معتد نے کہا کہ یہ لوگ ان اموال کی نسبت دوسروں کی طرف سے امین اور رسول ہیں اور وہ اداۓ رسالت کے سوا اور کسی امر کے مجاز نہیں ہو سکتے۔ پس جعفر بہوت ہو گیا اور سوائے خاموشی کے کچھ اور کرتے نہ بن پڑا۔ ان لوگوں نے معتد سے درخواست کی کہ چونکہ ہم لوگ مسافر ہیں اور یہاں کے راستوں سے ناواقف ہیں اس لئے کوئی شخص ہمارے ساتھ کر دیا جائے جو ہمیں اس شہر سے نکلنے میں مدد دے۔ معتد نے اپنا ایک خاص ملازم ان لوگوں کے ہمراہ کر دیا اور وہ اس رہبر سلطانی کے ساتھ واپس ہوئے جوں ہی بیرون شہر پہنچے کہ ایک خوش شکل نوجوان ظاہر ہوا۔ مظلوم ہوتا تھا کہ وہ خادم ہے اس نے آواز دی: اے فلاں ابن فلاں اور اے فلاں ابن فلاں تمہارے مولا تمہیں بلاتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا: کیا تم ہمارے مولا ہو؟ اس نے کہا: معاذ اللہ میں تمہارے مولا کا غلام ہوں میں ان کی طرف چلو۔ ہم لوگ اس غلام کے ساتھ چلے اور خانہ امام حسن عسکریؑ میں داخل ہوئے تو ان کے صاحبزادے ہمارے سردار قائم علیہ السلام کو دیکھا کہ ایک پر تکلف تخت پر شان و شوکت کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ آپ کا جمال جہاں آرا جو دہریوں کے چاند کو ماند کر رہا ہے۔ آپ اس وقت سبز لباس زیب تن کئے ہوئے تھے ہم لوگوں نے حاضر خدمت ہوتے ہی نہایت ادب سے سلام کیا۔ آپ نے نہایت خوش اخلاقی سے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کل مال اتنا ہے اتنے دینار فلاں شخص نے اٹھا رکھے ہیں۔ اتنے دینار فلاں بن فلاں کی طرف سے ہیں۔ اور کوئی چیز نہیں چھوڑی کہ جس کی تفصیل بتائی ہو۔ حتیٰ کہ آپ نے ہمارے کپڑوں، ساریوں اور برتنوں تک کے بارے میں بتایا۔ پس ہم اللہ عزوجل کے لئے سجدہ میں گر گئے اور اس کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں (امام کی) معرفت کرائی پس ہم نے اپنے سلسلے کی زمین کا بوسہ دیا۔ ہم نے امام سے کچھ سوالات کئے۔ جن کے جوابات آپ نے عنایت فرمائے۔ پس وہ مال ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے ہمیں حکم دیا کہ اس کے بعد ہم لوگ سامرا کی طرف مال میں سے کوئی چیز لے کر نہ آئیں۔ آپ نے ہمارے لئے بغداد میں ایک شخص مقرر فرما دیا کہ اس کے پاس مال لائیں۔ اور اس شخص کے ہاں سے آپ کے فرمان جاری ہوتے تھے۔ اس کے بعد ہم آپ سے واپس ہوئے اور آپ ابو العباس محمد بن جعفر قمی حمیری کی طرف

مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا: خدا تجھے تیرے نفس پر بیٹنے والی مشکلات پر ابر عظیم عطا فرمائے۔ یہ فرما کر حنوط اور کفن عطا کیا۔ شہر ہمدان کے قریب پہنچ کر محمد بن جعفر قتی نے رحلت فرمائی۔ اللہ ان پر رحمت کرے۔

اس کے بعد ہم لوگ اپنے اموال کو بغداد میں ہی آپ کے مقرر کردہ نائبین تک پہنچاتے اور وہیں سے امام کے احکامات جاری ہوتے۔

اس کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ خلیفہ وقت کو امامِ حاضر کے وجود کا علم تھا اور یہ کہ وہ کہاں ہیں اسی لئے اس نے اس جماعت سے جو اموال لائی تھی کوئی تعرض نہ کیا اور جعفر کے مطالبہ پر کان نہیں دھرائے کہ یہ خبر مخفی رہے اور مشہور نہ ہو۔ درہ لوگ بھی امام قائم کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ جب جعفر حضرت امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد حاکم وقت کے پاس بیس ہزار دینار (بطور رشوت) لے کر آیا اور کہا: میرے بھائی کا مرتبہ و منزلت میرے لئے مقرر کر دو تو خلیفہ وقت نے کہا کہ تمہارے بھائی کا منصب میری طرف سے نہیں تھا۔ بلکہ یہ خدا کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ مجھے دیکھو میں نے اپنی تمام طاقت اس بات پر صرف کر دی کہ تمہارے بھائی کی قدر و منزلت میں کمی ہو جائے مگر میری ہر کوشش ناکام ہو گئی اور بلکہ دن بدن ان کے مرتبہ اور منزلت اور علم اور عبادت میں اضافہ ہوتا رہا۔ اگر تمہارے بھائی کے شیعوں کے نزدیک تمہاری ذات میں بھی وہی اوصاف پائے جاتے تو پھر تم کو ہم سے کسی امداد کی ضرورت نہیں اور اگر ان لوگوں کے نزدیک تمہاری ذات میں وہ اوصاف نہیں پائے جاتے جو تمہارے بھائی میں تھے تو پھر ایسی حالت میں اگر میں تم کو منصبِ امامت پر مامور کر بھی دوں تو میرا یہ نسل تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔

غیبت کا سبب

باب (۴۴)

۱۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن موسیٰ بن متوکل نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن یحییٰ عطار نے ان سے محمد بن عیسیٰ بن عبید نے ان سے محمد بن ابی عمیر نے ان سے سعید بن عروان نے ان سے ابی بصیر نے بیان کیا کہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اس امر کے صاحب کی ولادت خلق سے مخفی ہوگی تاکہ جب وہ فردج کرے تو اس کی گردن کسی کی بیعت میں نہ ہو (یعنی وہ آزاد ہوگا)۔

۲۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد اور محمد بن حسن نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے سعد بن عبد اللہ نے ان سے محمد بن عبید اور محمد بن حسین بن ابی خطاب نے ان سے محمد بن ابی عمیر نے ان سے جمیل بن صالح نے انہوں نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قائم مبعوث ہوں گے تو ان کی گردن پر کسی کی بیعت نہ ہوگی۔

۳۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے سعد بن عبد اللہ نے ان سے یعقوب بن یزید اور حسن بن ظریف نے ان دونوں نے کہا کہ بیان کیا ہم سے محمد بن ابی عمیر نے ان سے ہشام بن سالم نے انہوں نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ قائم علیہ السلام قیام فرمائیں گے اور ان کی گردن میں کسی کی بیعت نہیں ہوگی۔

۴۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن ابراہیم بن اسحاق نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے احمد بن محمد ہمدانی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے علی بن حسن بن علی بن فضال نے ان سے ان کے والد نے ان سے ابی الحسن علی بن موسیٰ الرضا علیہما السلام نے فرمایا کہ میرے تمیرے فرزند کے اٹھ جانے کے بعد شیعہ ہر گاہ تلاش کرتے پھریں گے اور انہیں چرگاہ نہیں ملے گی۔ میں نے عرض کیا: فرزند رسول ایسا کیوں ہوگا۔ آپ نے فرمایا: اس لئے کہ ان کا امام ان سے غائب ہوگا۔ عرض کیا: کیوں؟ آپ نے فرمایا: اس لئے کہ جب وہ تلوار لے کر قیام کرے تو اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہ ہو۔

۵۔ بیان کیا مجھ سے عبد الواحد بن محمد عظام نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے ابو عمرو کثی نے ان سے محمد بن مسعود نے ان سے جبرئیل بن احمد نے ان سے محمد بن عیسیٰ نے ان سے محمد بن ابی عمیر نے ان سے سعید بن عروان نے ان سے ابو بصیر نے انہوں نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اس امر کا صاحب وہ ہے جس کی ولادت خلق سے مخفی ہوگی تاکہ جب وہ خروج کرے تو اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہ ہو اور اللہ اس کے تمام امور کو ایک رات میں درست کر دے گا۔

۶۔ بیان کیا مجھ سے مظفر بن جعفر بن مظفر طوسی سمرقندی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے جعفر بن محمد بن مسعود اور حیدر بن محمد سمرقندی نے ان دونوں نے کہا کہ بیان کیا ہم سے محمد بن مسعود نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے جبرئیل بن احمد نے ان سے موسیٰ بن جعفر بغدادی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے حسن بن محمد صیرفی نے ان سے حنان بن سدر نے ان سے ان کے والد نے انہوں نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ہم لوگوں میں سے جو امام قائم ہوگا اس کے لئے نبیبت ہے اور یہ نبیبت بہت طویل ہوگی۔ میں نے عرض کیا: یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا: اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہی فیصلہ کر رکھا ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں جو نبیبت کا دستور جاری تھا وہی دستور ان میں بھی جاری کرے اور اسے سدر یہ لابدی اور لازمی ہے کہ تمام انبیاء نے جس جس مدت کے لئے نبیبت اختیار کی ان کی مجموعی مدت تک یہ بھی نبیبت میں رہیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَتَرَ كِبْنَ طَبَقًا عَنْ طَبَقِ السَّورَةِ انشقاق آیت ۱۵) تم کو چومنا ہے سیزمی پر سیزمی تم سے پہلے یہی سنت تھی۔

۷۔ انہی اسناد سے بیان کیا محمد بن مسعود نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے عبد اللہ بن محمد بن خالد نے

انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے احمد بن ہنال نے ان سے عثمان بن عیسیٰ روای نے ان سے خالد بن یحییٰ جو ان کے ان سے زرارہ نے کہا کہ امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ اے زرارہ قائم کے لئے غیبت لازم ہے۔ میں نے کہا: وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا: اپنے نفس کے خوف کے باعث اور آپ نے اپنے شکم کی طرف اشارہ کیا (یعنی قتل)۔

۸۔ انہی اسناد کے ساتھ بیان کیا محمد بن مسعود نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن ابراہیم وراق نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے حمدان بن احمد کلانی نے ان سے ایوب بن نوح نے ان سے صفوان بن یحییٰ نے ان سے ابن بکر نے ان سے زرارہ نے کہا کہ حضرت امام محمد باقرؑ نے فرمایا کہ امام قائم کے لئے قیام سے پہلے غیبت ہوگی۔ میں نے عرض کیا وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا وہ ذریں گے اس سے اور یہ کہہ کر آپ نے اپنے شکم کی طرف اشارہ کیا (یعنی قتل سے)۔

۹۔ بیان کیا مجھ سے عبدالواحد بن محمد بن عبدوس عطار رضی اللہ عنہ نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے علی ابن محمد بن قتیبہ نے ان سے حمدان بن سیمان نے ان سے محمد بن حسین نے ان سے ابن محبوب نے ان سے علی بن رناب نے ان سے زرارہ نے انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت امام محمد باقرؑ کو فرماتے ہوئے سنا کہ قائم کے لئے ظہور سے پہلے غیبت ہوگی۔ میں نے عرض کیا یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اس بات سے ذریں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے شکم کی طرف اشارہ کیا۔ زرارہ کہتے ہیں کہ یعنی قتل سے۔

۱۰۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن علی ماجیلویہ نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے میرے چچا محمد بن ابی قاسم نے ان سے احمد بن ابی عبداللہ برقی نے ان سے ایوب بن نوح نے ان سے صفوان بن یحییٰ نے ان سے ابن بکر سے ان سے زرارہ نے ان سے حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ قائم کے لئے اس کے قیام سے پہلے غیبت ہوگی۔ میں نے کہا: وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا ذبح (قتل) کے خوف سے۔

۱۱۔ بیان کیا مجھ سے عبدالواحد بن محمد عبدوس عطار نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے علی بن محمد بن قتیبہ نیشاپوری نے ان سے حمدان بن سلیمان نیشاپوری نے ان سے احمد بن عبداللہ بن جعفر مدائنی نے ان سے عبداللہ بن فضل ہاشمی نے انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ امام آخر الزماں کے لئے غیبت ضروری ہے۔ جس میں ہر باطل پرست کو شک ہوگا۔ میں نے عرض کیا: میں آپ پر قربان یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا: اس کی ایک وجہ ہے کہ جس کے ہاتھ کی ہم لاگوں کو اجازت نہیں ہے۔ میں نے عرض کی مگر اس غیبت میں اللہ کی کیا حکمت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی غیبت میں بھی وہی حکمت ہے جو باقی غیبتوں کی غیبت میں تھی اور ان انبیاء کی غیبت کی حکمت ان کے ظہور سے بعد اللہ کی ہے۔ جیسا کہ حضرت غفر کا کشنی میں سوراخ کرنا۔ ایک بچے کو قتل کرنا۔ لڑتی ہوئی زرارہ و سیاہا کرینہ۔ ان سب کی حکمت، حضرت موسیٰؑ پر اس وقت اللہ کی گئی جب ان دونوں میں

جدائی ہونے لگی۔

اے فضل یہ اللہ کے معاملوں میں سے ایک معاملہ ہے۔ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور اللہ کے غیب میں سے ایک غیب ہے۔ اور جب ہم لوگوں نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے تو اس کا بھی یقین کر لیا کہ اس کے تمام افعال سراسر حکمت ہیں اگرچہ اس کی وجہ ہم لوگوں پر مشکف نہ ہوتی ہو۔

باب (۳۵) توقیعات (امام عصرؑ کے فرمان / احکامات)

۱۔ بیان کیا مجھ سے مظفر بن جعفر بن مظفر علوی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے جعفر بن محمد بن مسعود اور حیدر بن محمد بن سمرقندی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا ہم سے ابو نصر محمد بن مسعود نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے آدم بن محمد بلخی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے علی بن حسن وثاق اور ابراہیم بن محمد نے انہوں نے کہا کہ میں نے علی بن عاصم کوئی کو کہتے ہوئے سنا کہ صاحب الزمان نے ایک توقیع میں فرمایا کہ ملعون ہے ملعون ہے وہ شخص جس نے لوگوں کے درمیان میرا نام لیا۔

۲۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد اور محمد بن حسن بن احمد بن ولید نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا ہم سے عبداللہ بن جعفر حمیری نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن صالح ہمدانی نے کہ میں نے صاحب الزمان کو لکھا کہ میرے گھر والے مجھے اس حدیث کے بارے میں پریشان کرتے ہیں جو آپ کے آباء سے مروی ہے کہ قوامنا و خدا مناشرار خلق اللہ (ہمارے پیروکار اور ہمارے خدام شرار خلق اللہ ہیں)۔

پس امام عصرؑ نے تحریر فرمایا تم پر افسوس ہے۔ کیا تم نے نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وجعلنا بینہم و بین القرى التي برکنا فیہا قرى ظاہرة (سورۃ سبا آیت ۱۸) اور رکھی تھیں ہم نے ان میں اور ان بستیوں میں جہاں ہم نے برکت رکھی ہے ایسی بستیاں جو راہ پر نظر آتی تھیں ہم خدا کی قسم وہ قریہ ہیں جس میں اللہ کی برکت ہے اور تم لوگ قریہ ظاہری ہو۔

عبداللہ بن جعفر نے کہا کہ یہ حدیث ہم سے علی بن محمد کلینی نے بیان کی ان سے محمد بن صالح نے ان سے امام عصرؑ نے بیان کی۔

۳۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن ابراہیم بن اسحاق طالقانی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے ابو علی محمد بن ہمام نے ان سے محمد بن عثمان عمری قدس اللہ روحہ نے انہوں نے کہا کہ آپ کا فرمان ظاہر ہوا کہ جس نے لوگوں کے مجمع میں میرا نام لیا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ابو علی محمد بن ہمام کہتے ہیں کہ میں نے امام کی خدمت میں وقت غروب کے

متعلق سوال بھیجا تو جواب میں آپ نے تحریر فرمایا شک کرنے والے جھوٹے ہیں۔

۴۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن محمد عصام کلینی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن یعقوب کلینی نے ان سے اسحاق بن یعقوب نے انہوں نے کہا کہ میں نے محمد بن عثمان عمری کے ذریعے مختلف مسائل امام کی خدمت میں بھیجے جن کے جوابات امام نے اس طرح تحریر فرمائے۔

۔ اللہ تم کو ہدایت دے اور دین پر قائم رکھے اور ان لوگوں کے امر سے بچائے جو ہمارے اہل بیت اور ہمارے ابن عم میں سے میرے منکر ہیں۔ جان لو کہ اللہ اور کسی بندے کے درمیان کوئی قرابت نہیں ہے۔ جو میرا انکار کرے وہ مجھ سے نہیں اور اس کا راستہ نوع کے بیٹے کا راستہ ہے۔

۔ جہاں تک میرے چچا جعفر اور ان کی اولاد کا معاملہ ہے تو ان کی مثال برادران یوسف جیسی ہے۔

۔ فحاش (جو کی شراب) کا پینا حرام ہے اور شہاب کے پینے میں کوئی حرج نہیں۔

۔ تمہارے اسوال (خمس) ہم اس وقت قبول کرتے ہیں جب وہ پاک ہوں۔ تو جو چاہے وہ متصل رہے اور جو چاہے وہ کٹ جائے کہ جو خیر تم تک آتا ہے وہی اللہ کی طرف سے ہم تک آتا ہے۔

۔ ظہور سے متعلق علم صرف اللہ کو ہے۔ جو اپنے دل سے گزرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔

۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین قتل نہیں کئے گئے وہ کفر کرتے ہیں۔ وہ جھوٹے اور گمراہ ہیں۔

۔ مسائل شریعہ میں ہماری احادیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو وہ تم پر ہماری بحت ہیں اور میں ان پر بحت ہوں۔

۔ محمد بن عثمان عمری اور ان سے پہلے ان کے والد ہمارے قابل بھروسہ آدمی ہیں۔ ان کی تحریر ہماری تحریر ہے۔

۔ محمد بن علی مہزیار ابو ازی کا جہاں تک تعلق ہے تو اللہ اس کے قلب کی جلد ہی اصلاح کرے گا اور اس کے شک کو دور کرے گا۔

۔ جو مال تم ہمارے پاس بھیجتے ہو وہ صرف اسی صورت میں قابل قبول ہوتا ہے جب وہ پاکیزہ ہو اور منہیہ کی

کمانی حرام ہے۔

۔ محمد بن شاذان بن نعیم ہم اہل بیت کے شیعوں میں سے ہیں۔

۔ ابو خطاب محمد بن ابی نسیب اجدع ملعون ہے۔ اس کے ساتھی ملعون ہیں۔ ان سے تعلق نہ رکھو۔ میں اور

میرے آباء علیہ السلام ان سے بیزار ہیں۔

۔ ہمارے اسوال کے ساتھ اگر کسی کا مال مل جائے اور اگر وہ اجازت دیدے تو استعمال کر لو۔

۔ خمس کو میں نے اپنے شیعوں کے لئے وقت ظہور تک حلال قرار دے دیا ہے تاکہ ان کی ولادت پاک ہو۔

- وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین میں شک کیا پھر ان کو ندامت ہوئی اور وہ ہم سے متصل ہو گئے تو ہم نے ان سے درگزر کیا اور شکایت کرنے والوں کے بدلے میں کوئی حاجت نہیں۔

- غیبت کے واقع ہونے کا جو سبب تم نے پوچھا ہے تو پروردگار عالم کا ارشاد ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْلُوا عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَبَدَّلَ لَكُمْ تَسْوِكُمْ** (سورۃ مائدہ آیت ۴۱) "اے ایمان لانے والو مت پوچھو ایسی باتیں کہ اگر تم پر کھول دی جائیں تو تم کو بری لگیں" ہمارے آباء علیہ السلام میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں گزرا جس کی گردن پر اس زمانے کے طاعوت کی گرفت نہ ہو۔ لیکن جب میں غرور کروں گا تو میری گردن پر کسی کی گرفت نہ ہوگی۔

- جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ غیبت میں امام سے کس طرح فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے سورج بادلوں میں چھپنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے۔ میں اہل زمین کے لئے باعث امان ہوں جس طرح ستارے اہل آسمان کے لئے باعث امان ہیں۔ پس اس بارے میں سوال نہ کرو جس کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ اور اس چیز کو جاننے کی زحمت نہ کرو جو ہمارے لئے ضروری نہیں۔ اور تعجیل فرج کی کثرت سے دعا کیا کرو یہی ہمارے لئے باعث کشفادگی ہے۔ اور اے ابو اسحاق تم پر سلام ہو اور ہر اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔

۵۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن حسن بن احمد بن ولید نے ان سے سعد بن عبداللہ نے ان سے علی بن محمد رازی المعروف بہ علان کلینی نے ان سے محمد بن شاذان بن نعیم نیشاپوری نے بیان کیا کہ میرے پاس پانچ سو درہم مال امام جمع ہوئے۔ ان میں سے بیس درہم کھوٹے تھے۔ مجھے اچھا نہیں لگا کہ ناقص مال امام کے پاس بھجوں۔ میں نے اپنے پاس سے بیس درہم ملا کر محمد بن جعفر کے پاس بھجوا دیئے اور کوئی تفصیل تحریر نہیں کی۔ کچھ دنوں بعد مجھے جو رسید وصول ہوئی اس میں تحریر تھا پانچ سو درہم موصول ہوئے جس میں بیس درہم ہمارے ہیں۔

۶۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے سعد بن عبداللہ نے ان سے اسحاق بن یعقوب نے انہوں نے کہا کہ میں نے شیخ عمری سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ اہل سواد میں سے ایک شخص نے کچھ مال امام کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے وہ مال واپس کر دیا اور فرمایا کہ اس میں سے اپنے ابن عم کا حق نکال دو جو چار سو درہم ہے تحریر پڑھ کر سب حیرت میں رہ گئے۔ خیر حساب کیا گیا تو واقعی اس کے ہاتھ میں اس کے ابن عم کا کچھ سرمایہ تھا اس نے کچھ جانکاد ان لوگوں کو لوٹا دی تھی اور کچھ حصہ بچا لیا تھا۔ اور ان کو صدقے کے طور پر دیدیا تھا اور وہ چار سو درہم تھا جیسا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ وہ نکال کر دوبارہ آپ کی خدمت میں بھیجا گیا تو آپ نے قبول کر لیا۔

۷۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے ان سے سعد بن عبداللہ نے ان سے علی بن محمد رازی نے کہ ہمارے اصحاب کی ایک جماعت نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ امام نے ابو عبداللہ بن جنید کے پاس جو واسط میں تھے ایک غلام بھیجا اور حکم دیا کہ اس کو بیچ دو۔ انہوں نے اس کو بیچ کر رقم حاصل کی جب دیناروں کو کسوٹی پر کسا تو اس میں سے اٹھارہ

قیراط اور کچھ رتی کم ہونگے تو انہوں نے اپنے پاس سے اٹھارہ قیراط اور کچھ رتی شامل کر کے امام کی خدمت میں بھیجے۔ امام نے وہ اٹھارہ قیراط اور کچھ رتی واپس کر دیئے۔

۸۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن حسن نے ان سے سعد بن عبداللہ نے ان سے علی بن محمد رازی المعروف بہ علان کھننی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن جبرئیل ابوہادی نے ان سے ابراہیم بن فرج اور محمد بن فرج نے ان سے محمد بن ابراہیم بن مزیار نے بیان کیا کہ میں (حضرت امام حسن عسکری کے بعد) شک اور حیرانی میں عراق پہنچا۔ پس میرے نام امام کی توقیع آئی۔ مزیار سے کہو کہ تم نے جو باتیں اپنے مولا کے بارے میں کہیں وہ ہم نے سن لیں۔ تو اس سے کہو کیا تم نے خدا کا یہ ارشاد نہیں سنا یا ایھا الذین امنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم (سورۃ نسا۔ آیت ۵۹) "اے ایمان لانے والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور صاحب امر کا جو تم میں سے ہو" کیا امر اس شخص کے علاوہ بھی کسی کے لئے ہے جو قیامت تک ہے۔ اور تمہاری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے تاکہ غور کرو اور تمہارے لئے نشانیاں مقرر کی ہیں تاکہ آدم سے لے کر حضرت امام حسن عسکری تک تم ان کے ذریعہ سے ہدایت پاؤ۔ پھر ایک نشانی غائب ہو گئی تو دوسری ظاہر ہوئی جیسے ایک ستارہ ڈوبتا ہے تو دوسرا ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت امام حسن عسکری کے انتقال کے بعد کیا تمہارا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بندوں کے درمیان کوئی وسیلہ نہیں رکھا، ایسا نہیں ہے بلکہ قیامت تک حکم خدا ظاہر ہوتا رہے گا اور وہ ہدایت کرتے رہیں گے۔

اے محمد بن ابراہیم اپنے دل میں شک داخل نہ کرو کیونکہ خدائے عزوجل کبھی زمین کو اپنی جت سے خالی نہیں چھوڑتا۔ کیا تمہارے والد نے مرنے سے پہلے نہیں کہا تھا: وقت آگیا ہے کہ کوئی شخص ان دنوں کو جو میرے پاس ہیں کسوٹی پر کسے۔ جب یہ کام انجام پانے میں تاخیر ہوئی اور شیخ نے خود جلدی فوت ہو جانے کے خوف کا اظہار کیا تو مجھ سے اس نے کہا تھا کہ تم ان دنوں کو کسوٹی پر کسو اور میں تمہیں ایک بڑا کسیر نکال کر دیتا ہوں اور تمہارے سلسلے تین کیسے اور کچھ تھیلیاں تمہیں جن میں مختلف تعداد میں دنار تھے پھر تم نے ان کو کسوٹی پر کسا اور شیخ نے اس پر اپنی انگوٹھی سے مہر لگائی اور تم سے بھی کہا کہ میری انگشتری کے ساتھ تم بھی مہر لگاؤ۔ پس اگر میں زندہ رہا تو میں ان کا زیادہ حقدار ہونگا اور اگر میں مر گیا تو تم اللہ سے اپنے اور میرے بارے میں ڈرنا۔ اور مجھ سے جدائی کے بعد میری خواہش کے مطابق خود کو ڈھال لینا۔ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے۔ ان دنوں میں سے جو میں نے اپنے حساب میں سے تم کو دینے میں نکالی ہو اور وہ دس دنار ہیں اور جو تم نے لیا تھا اسے واپس کر دو اس لئے کہ زمانہ جو کچھ گزر چکا اس سے کہیں زیادہ دشوار گزار ہے۔ و حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔

محمد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں عسکر گیا تاکہ امام سے ملاقات کروں۔ اس وقت مجھے ایک عورت ملی اس نے مجھ

سے کہا: کیا تم محمد بن ابراہیم ہو؟ میں نے کہا: ہاں۔ وہ بولی: اس وقت لوٹ جاؤ، رات کو آنا اور دروازہ تمہارے لئے کھلا ہوگا اس میں چلے جانا اور اس کمرے کی طرف آنا جس میں چراغ جل رہا ہو پس میں نے ایسا ہی کیا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں داخل ہوا بتائے ہوئے کمرے کی طرف بڑھا تو لپٹنے کو دو قبروں کے درمیان پایا میں رونے لگا تو ایک آواز آئی: اے محمد اللہ سے ڈرو اپنے امور (یعنی وکالت) کو انجام دو کہ یہ امر عظیم ہے۔

۹۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن حسن بن احمد بن ولیڈ نے ان سے سعد بن عبد اللہ نے ان سے علی بن محمد رازی نے ان سے نصر بن صباح یثلی نے انہوں نے کہا کہ مرو میں ایک خود ستانی کاتب تھا۔ اس کو میری طرح نصر کہہ کر پکارتے تھے۔ اس کے پاس مال امام کے ایک ہزار دینار جمع ہو گئے تھے تو اس نے مجھ سے مشورہ لیا۔ میں نے کہا: یہ حاجری کو بھیج دو۔ پس اس نے کہا: اس کی ذمہ داری تمہاری ہے اگر اللہ عزوجل نے قیامت کے روز اس کے متعلق مجھ سے سوال کیا۔ میں نے کہا: ٹھیک ہے۔ نصر نے کہا: پس میں اس کے بعد اس سے جدا ہو گیا۔ پھر میں دو سال بعد اس سے ملنے کے لئے اس کی طرف گیا تو اس سے (مذکورہ) مال کے بارے میں سوال کیا۔ اس نے بتایا کہ اس مال میں سے دو سو دینار حاجری کو بھیجے تھے۔ تو اس کی رسید دعا کے ساتھ آئی اور یہ بھی لکھا آیا کہ یہ ایک ہزار دینار تھے جس میں سے تم نے دو سو دینار بھیجے ہیں۔ اگر باقی بھیجنا چاہتے ہو تو رے میں ہمارے عامل اسدی کو پہنچا دو۔

نصر نے کہا: مجھ تک حاجری کی موت کی خبر پہنچی تو مجھے پر شدید گریہ گلوگیر ہوا۔ پس میں نے (خود سے کہا): دل تنگ نہ ہو اور مت روؤ کیونکہ اللہ نے دو دلیلوں سے تم پر احسان کیا ہے۔ ایک یہ کہ تم کو مکمل مال کی خبر دی گئی دوسرے حاجری کی موت کی خبر (کہ ان کی جگہ ابوالحسنین کو مقرر کیا گیا)۔

۱۰۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے سعد بن عبد اللہ نے ان سے علی بن محمد رازی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے نصر بن صباح نے کہ اہل بلخ میں سے ایک شخص نے پانچ دینار حاجری کی معرفت امام کو بھجوائے اور ساتھ ہی ایک رقعہ بھی رکھا جس میں اپنا نام لکھنے کے بجائے ایک فرضی نام لکھ دیا۔ اس کے لئے جو رسید امام نے جاری کی اس میں اس کا (صحیح) نام و نسب اور دعا تھی۔

۱۱۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے ان سے سعد بن عبد اللہ نے ان سے ابو حامد مراغی نے ان سے محمد بن شاذان بن نعیم نے کہا کہ اہل بلخ کی جانب سے ایک شخص آیا جس کے پاس کچھ مال اور ایک رقعہ تھا جس میں کچھ تحریر تھی بلکہ انگلیوں سے دائرے ڈالے ہوئے تھے۔ اہل بلخ نے اس قاصد سے کہا تھا کہ یہ مال اس شخص کے حوالے کرنا جو تم کو اس قصہ کی بابت بتائے جو ہمارے ساتھ پیش آیا۔ اور اس رقعہ کا جواب دے۔ پس وہ شخص عسکر آیا اور جعفر (کذاب) کے پاس گیا اور اس کو خبر دی تو جعفر نے اس سے کہا: کیا تم بد پر یقین رکھتے ہو؟ اس شخص نے کہا: ہاں۔ (تو جعفر نے) کہا: بیشک تمہارے صاحب (مال) کو بد ہوا تھا اور انہوں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ مال تجھے دیدینا۔ مال

لانے والے نے کہا: میں اس جواب پر قناعت نہیں کر سکتا۔ پھر وہ وہاں سے نکلا اور ہمارے اصحاب کے پاس آیا۔ تو اس کے لئے امام کی توثیح ظاہر ہوئی۔ یہ مال بڑا سبے وفا ہے۔ یہ ایک صندوق میں رکھا تھا۔ چور گھر میں داخل ہونے اور صندوق میں جو کچھ تھا لے گئے۔ مگر مال بچ گیا۔ اس کے اوپر رقعہ موجود تھا اور اس میں دائرے بنے ہوئے تھے جن کے ذریعے دعا کی گزارش کی گئی ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ (جہاری خواہش کے مطابق) ایسا ہی کرے۔

۱۲۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے ان سے سعد بن عبد اللہ نے ان سے محمد بن صالح نے انہوں نے کہا کہ میں نے امام کی خدمت میں سوال کیا کہ ایک شخص بادشاہ جو ابن عبد العزیز کی قید میں ہے۔ اس کی رہائی کے لئے دعا کریں نیز اپنی ایک کنیز سے ایک اولاد کی خواہش ظاہر کی۔ توثیح ظاہر ہوئی۔ کنیز سے اولاد ہوگی۔ اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اسیر رہائی پائے گا۔ پس اس کنیز سے ولادت ہوئی۔ اس کے بعد وہ کنیز مر گئی اور توثیح ظاہر ہونے کے دن ہی اسیر کو رہائی ملی۔

بیان کیا مجھ سے ابو جعفر نے کہ میرے گھر بچہ کی ولادت ہوئی۔ میں نے امام سے اس کے عقیقہ کو ساتویں دن یا آٹھویں دن کرنے کی اجازت چاہی۔ امام نے کوئی جواب نہ دیا۔ آٹھویں دن وہ بچہ مر گیا۔ میں نے امام کو اس کے مرنے کی اطلاع لکھی۔ آپ نے توثیح میں فرمایا۔ کہ غم نہ کرو۔ جلدی ہی تمہارے یہاں دو بیٹے ہونگے ایک کا نام احمد اور بعد والے کا نام جعفر رکھنا۔ پس ویسا ہی ہوا جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا۔ میں نے ایک عورت سے غفیہ طور پر شادی کر لی۔ وہ ایک لڑکی سے حاملہ ہوئی۔ اس بات سے میں پریشان ہو گیا۔ میں نے امام کو لکھا تو امام نے جواب دیا جلد ہی تمہیں اس سے نجات مل جائے گی۔ وہ لڑکی چار سال زندہ رہنے کے بعد مر گئی۔ پس امام نے مجھے لکھا۔ اللہ صاحب تدبیر ہے اور تم عجلت پسند نہ۔

نیز وہ کہتے ہیں کہ جب ابن بلال ملعون کی موت کی خبر امام کی طرف سے ظاہر ہوئی تو شیخ (حسین بن روح) میرے پاس آئے اور بولے وہ صندوق جو تمہارے پاس ہے نکالو۔ میں نے نکالا تو اس میں ایک رقعہ تھا جس میں تحریر تھا۔ تم نے جو ابن بلال (ملعون) کا تذکرہ کیا پس اللہ نے اس کی عمر مختصر کر دی۔ اس کی موت کے بعد دوسرے رقعہ میں جو ظاہر ہوا تحریر تھا۔ ہم نے صبر کیا پس اللہ نے ہماری دعاؤں کی بدولت اس کی عمر مختصر کر دی۔

۱۳۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے سعد بن عبد اللہ نے ان سے علان کلینی نے ان سے حسن بن فضل یامانی نے انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں شہر سترمن رائے گیا تو (جناب قائم آل محمد کی طرف سے) ایک تھیلی میرے لئے آئی جس میں چند دینار تھے اور اس کے ساتھ دو کپڑے بھی تھے میں نے ان کو واپس کر دیا اور لپٹنے دل میں یہ سوچا کہ میری موجودہ حیثیت ایسی نہیں ہے کہ میں ایسا چھوٹا اور بے مقدار جمعہ قبول کروں۔ جب میں ان چیزوں کو واپس کر چکا تو پھر مجھے سخت ندامت ہوئی اور بالآخر میں نے اپنی اس گستاخی کی خاص معذرت میں

ایک عریفہ بھی لکھا۔ اور امام کی خدمت میں بھیجا اور اسی وقت نیت کر لی کہ اگر اللہ اس تھیلی کو مجھے لوٹا دے تو میں اسے حلال نہیں سمجھوں گا کہ اس کو استعمال کروں اور خرچ کروں بلکہ اپنے باپ کے پاس لے جاؤں گا کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ اس (کی اہمیت) سے آگاہ ہیں۔ اور اس تھیلی کے لینے کے بارے میں کچھ بھی اشارہ نہیں کیا اور نہ ہی (دوبارہ) اس کے لینے سے انکار کیا۔ پس جو بائ آپ کی تحریر آئی کہ تم نے (تھیلی کے واپس کر دینے میں) خطا کی ہے۔ بیشک ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں اور بسا اوقات وہ خود ہم سے اس کو طلب کرتے ہیں اور اس سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ اور مجھ تک یہ بھی (لکھا) آیا کہ تم نے ہماری بھلائی کے رو کرنے کی وجہ سے غلطی کی ہے تو ہم اللہ عزوجل سے مغفرت طلب کرتے ہیں پس اللہ تمہاری بخشش فرمائے گا۔ مگر چونکہ اب تمہارا یہ قصد ہے کہ وہ رقم خود تم اپنے مصرف میں نہیں لاؤ گے اس لئے وہ رقم تو تمہیں نہیں بھیجی جاتی ہے ہاں وہ دونوں کپڑے بھیجے جاتے ہیں تمہارے لئے لازم ہے کہ تم انہی کپڑوں میں احرام باندھو۔ اور کہا: میں نے دو مرادوں کے بارے میں لکھا اور چاہا کہ تیسری مراد کے بارے میں بھی لکھوں لیکن پھر سوچا کہ شاید آجیناب کو برا لگے (اس لئے اسے نہ لکھا)۔ تو مجھ تک ان دونوں مرادوں کے بارے میں جواب آیا اور اس تیسری مراد کے بارے میں بھی جسے میں چھپا گیا اور نہیں لکھا تھا۔ اور کہا: میں نے امام سے ایک خوشبو مانگی۔ آپ نے ایک سفید کپڑے میں پیسٹ کر خوشبو مجھے بھجوائی۔ وہ خوشبو میری محل میں تھی۔ جب میں راہ کے میں صفحان کے مقام پر تھا تو میرا ناقہ بھاگ گیا اور محل گر پڑی اور جو کچھ بھی میرا مال و متاع اس پر تھا بکھر گیا۔ میں نے اپنا سامان سمینا مگر اس میں ایک تھیلی نہیں تھی۔ میں اسے تلاش کرنے لگا۔ ایک شخص جو میرے ساتھ تھا مجھ سے پوچھنے لگا۔ کیا تلاش کر رہے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میری ایک تھیلی کھو گئی ہے۔ پوچھا اس میں کیا تھا؟ میں نے کہا میری زاد راہ تھی اس نے کہا: میں نے اسے دیکھا ہے جس نے اسے اٹھایا ہے (لیکن کچھ تفصیل نہ بتائی) گو میں اس سے مسلسل پوچھتا رہا جہاں تک کہ مایوس ہو گیا۔ جب میں مکہ پہنچا اور میں نے اپنا ساز و سامان کھولا تو سب سے پہلے اس گنہری میں وہ تھیلی نظر آئی جو محل سے گر گئی تھی جس وقت کہ سارا مال و متاع بکھرا تھا۔

میں بہت پریشان تھا کہ اب میں بغداد میں اپنے گھر کیسے جاؤں گا اور سوچا کہ مجھے خوف ہے کہ اس سال حج نہ کر سکوں گا اور نہ اپنے گھر پہنچ سکوں گا۔ میں ابو جعفر کے پاس گیا اور جو رقعہ میں نے لکھا تھا اس کا جواب طلب کیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ فلاں مقام پر ایک مسجد ہے تم وہاں چلے جاؤ وہاں ایک شخص تمہیں ملے گا جو تمہیں تمہارے احوال کی خبر دے گا۔ میں اس مسجد میں پہنچا تو ایک شخص ملا اس نے مجھے سلام کیا اور مسکرایا اور بولا: میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ تم اس سال حج بھی کرو گے اور خیر و عافیت سے اپنے گھر بھی لوٹو گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

میں ابن و جتاء کو تلاش کرنے لگا تاکہ اس سے کہوں کہ وہ میرے لئے کرایہ پر ناقہ کا اقطاع کر دے۔ کچھ دنوں بعد اس سے ملاقات ہوئی تو وہ مجھے دیکھتے ہی بولا کہ میں کئی روز سے تمہاری تلاش میں تھا۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں

جہاں سے لے کر یہ کی سواری کا انتقام کروں۔ پس حسن نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ اس سال (امام کے وجود کی) دس دہائیوں سے مطلع ہوا۔

۱۳۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے ان سے سعد بن عبداللہ نے ان سے علی بن محمد شمشاعی ناسندہ جعفر بن ابراہیم یامانی نے بیان کیا کہ میں بغداد میں مقیم تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ یمن کے قافلہ کے ساتھ سفر پر نکلوں میں نے امام سے اجازت چاہی تو جواب ظاہر ہوا کہ ہرگز قافلہ کے ساتھ نہ نکلو۔ اس سفر میں جہاں سے لے کر خیر نہیں ہے۔ اور کوفہ میں قیام کرو۔ پس قافلہ سفر کے لئے نکلا ان کے ساتھ بنو حنظلہ بھی نکلے۔ وہ قافلہ راستے میں حادثہ کا شکار ہو گیا۔ میں نے امام کو لکھا میں بحری سفر پر جانا چاہتا ہوں۔ جواب آیا۔ ہرگز نہیں۔ پس وہ کشتی جس پر میں جانا چاہتا تھا اس کو راستہ میں بحری قزاقوں نے لوٹ لیا۔

میں عسکر میں امام کی زیارت کے لئے گیا۔ مغرب کے وقت میں جامع مسجد میں بیٹھا تھا کہ ایک صاحبزادے تشریف لائے اور مجھ سے کہا کہڑے ہو جاؤ۔ میں نے عرض کیا: آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں اور کہاں کا ارادہ رکھتا ہوں؟ فرمایا: تم علی بن محمد ناسندہ جعفر بن ابراہیم یامانی ہو۔ اپنے گھر جاؤ ہمارے اصحاب میں سے کوئی بھی میری قیام گاہ کو نہیں جانتا۔ پس میں ان کی جائے مقام تک گیا اور اجازت لی کہ زیارت کے لئے داخل ہو جاؤں تو مجھے اجازت مل گئی۔

۱۵۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے ان سے سعد بن عبداللہ نے ان سے علان کلینی نے ان سے اعلم مصری نے ان سے ابو رجاہ مصری نے بیان کیا کہ میں حضرت امام حسن عسکری کے انتقال کے بعد دو سال تک ان کی اولاد کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا تیسرے سال میں مدینہ میں امام قائم کو تلاش کرنے آیا۔ مجھ سے ابو غانم نے پوچھا کیا امام قائم حیات ہیں؟ پس میں منتظر بیٹھا تھا اور اپنے آپ سے کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی امر ہے تو تیسرے سال کے بعد ضرور ظاہر ہونا چاہیے۔ لہذا میں ایک ہانف کی صدا آئی۔ جس کو میں سن سکتا تھا مگر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا: اے نصر بن عبدالرحمن اہل مصر سے پوچھ کہ کیا تم رسول اللہ کو دیکھ کر ایمان لائے ہو؟ نصر کہتے ہیں کہ میرے والد کا نام کوئی نہیں جانتا کیونکہ میں مدائن میں پیدا ہوا اور مجھے نونلی نے پالا تھا کیونکہ میرے والد انتقال کر چکے تھے تو اس طرح میں نے پرورش پائی۔ پس جب میں نے آواز سنی تو اٹھا اور ابو غانم کے پاس جانے کے بجائے مصر روانہ ہو گیا۔

اور اہل مصر میں سے دو افراد نے ان کے دو بیٹوں کے بارے میں لکھا۔ تو جواب آیا: لیکن اے فلاں جہارا اجر اللہ کے پاس ہے اور دوسرے کے لئے دعا ہے۔ پس ابن معزی مرحبکا ہے۔

۱۶۔ بیان کیا مجھ سے ابو محمد دہستانی نے کہ ہمارے شہر کے احوال میں سخت بدامنی اور بے چینی پیدا ہو گئی تھی آخر کار میں اپنے شہر سے نکل کر بغداد چلا گیا اور یہاں ۸۰ روز تک مقیم رہا۔ اسی دوران ایک بزرگ میرے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اب تم اپنے شہر واپس جاؤ۔ پس میں بغداد سے نہ چاہتے ہوئے نکلا۔ جب سمرقند روانے پہنچا تو جانا

کہ وہاں قیام کروں۔ لیکن لپٹے شہر کے لئے پھر بیتابی پیدا ہوئی۔ الغرض وہاں سے چلا۔ ابھی راستہ میں ہی تھا کہ پھر وہی بزرگ میرے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے ایک خط مجھے نکال کر دیا جو میرے اہل و عیال نے لکھا تھا۔ جنہوں نے مجھے اطلاع دی تھی کہ شہر میں بسن و امان ہو گیا ہے اور مجھ سے کہا تھا کہ میں واپس آ جاؤں۔

۱۷۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے ان سے سعد بن عبداللہ نے ان سے محمد بن ہارون نے انہوں نے کہا کہ مجھ پر پانچ سو دینار حق امام کے واجب الادا تھے۔ ایک رات جب میں بغداد میں تھا اور رات بھی طوفانی اور تاریک تھی۔ منتظر تھا کہ کس طرح امام کی رقم کی ادائیگی کروں۔ میں نے سوچا کہ میرے پاس چند دکانیں ہیں جو میں نے پانچ سو تیس دینار میں خریدی تھیں ان کو پانچ سو دینار کے عوض حق امام میں دے دوں (تاکہ امام کی رقم ادا ہو جائے) یہ بات میں نے کسی پر ظاہر نہیں کی تھی۔ امام کی خدمت میں عریفہ تحریر کیا تھا مگر آپ کی طرف سے ایک شخص دکانیں لینے کے لئے آ گیا۔

۱۸۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے ان سے سعد بن عبداللہ نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے ابو القاسم ابن ابی حلیس نے انہوں نے کہا کہ میں پندرہ شعبان کو ہمیشہ حضرت امام حسین کی زیارت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں شعبان سے پہلے عسکر پہنچا تو ارادہ کیا کہ اس مرتبہ شعبان میں زیارت نہیں کروں گا۔ مگر جب شعبان کا مہینہ آیا تو خیال آیا کہ ہمیشہ شعبان میں آپ کی زیارت کرتا رہا ہوں اس لئے اسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چنانچہ زیارت کے لئے چل دیا۔ میرا دستور تھا کہ جب عسکر جاتا تو پہلے اپنی آمد کی اطلاع خط یا پیغام سے وہاں کے لوگوں کو دیتا۔ مگر اس سال آیا تو میں نے ابو القاسم حسن بن احمد وکیل سے کہا کہ میرے آنے کی اطلاع کسی کو نہ دینا اس لئے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ سفر خالصتاً زیارت کے لئے ہو۔ ابو القاسم مسکراتے ہوئے میرے پاس آئے اور بولے (امام عصر نے) دو دینار میرے پاس بھیجے ہیں اور فرمایا ہے کہ حلیس کو دے دو اور اس سے کہہ دو کہ جو اللہ کا کام کرتا ہے اللہ اس کا کام کرتا ہے۔ میں ایک مرتبہ سزمن رائے میں بیمار ہو گیا۔ بیماری اجنبی شدید ہو گئی کہ میں زندگی گننے سے مایوس ہو گیا۔ امام عصر نے میرے لئے دو طرح کے سحون بھیجے اور انہیں استعمال کا حکم دیا۔ میں نے انہیں استعمال کیا تو خدا کا شکر میں مستدرست ہو گیا۔

میرے ایک قرضدار کا انتقال ہو گیا۔ میں نے امام عصر سے متوفی کے ورثہ کے پاس واسطہ جانے کی اجازت چاہی اور کہا کہ میں اس کے موت کے حادثے کی وجہ سے ورثہ تک پہنچنا چاہتا ہوں تاکہ اپنی رقم وصول کر لوں۔ مگر آپ نے اجازت نہیں دی۔ میں نے دوبارہ اجازت کے لئے عریفہ لکھا۔ مگر آپ نے منع کر دیا میں نے ایک بار پھر لکھا لیکن آپ نے اس بار بھی منع فرمادیا۔ پھر دو سال بعد آپ نے خود خط تحریر فرمایا کہ اب اس کے ورثہ کے پاس چلے جاؤ۔ جب میں ان لوگوں کے پاس گیا تو میری رقم وصول ہو گئی۔

ابو القاسم کہتے ہیں کہ ابو رمیس نے دس دینار حاجز کو بھجوائے حاجز وہ دینار بھجوانے بھول گئے۔ امام عصر نے انہیں لکھا "ابو رمیس کے دینار بھجوادو۔"

بارون بن موسیٰ بن فرات نے چند باتیں امام سے دریافت کیں اور جو خط لکھا وہ بغیر روایت کے قلم سے لکھا اور اس میں لپٹے بھتیجیوں کی رہائی کے لئے دعا کی درخواست کی۔ میں جواب میں اسیروں کی رہائی کی دعا ان کے ناموں کے ساتھ کی گئی۔

رضی کے ایک شخص حمید نے امام سے اولاد کی درخواست کی۔ جواب آیا۔ حمل میں چوتھے مہینے پر دعا کرو۔ جلد ہی ایک بیٹی جنمیں ملے گی۔ پس ویسا ہی ہوا جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا۔

محمد بن محمد بصری نے امام سے درخواست کی کہ دعا کریں کہ لڑکیوں کے امور کی کفایت ہو، حج پر جاؤں، میرا مال مجھے واپس مل جائے۔ پس ان کو امام کی طرف سے جواب ملا۔ وہ اسی سال حج پر گئے۔ ان کی چھ بیٹیاں تھیں جن میں چار کا انتقال ہو گیا اور مال واپس مل گیا۔

محمد بن یزدا نے امام سے والدین کے لئے دعا کی درخواست کی جواب آیا "اللہ تمہاری، تمہارے والدین اور تمہاری بہن کی مغفرت فرمائے" جس کا لقب گلگی تھا یہ ایک صالح عورت تھی۔ جس کی شادی ایک کسان سے ہوئی تھی میں نے مختلف مومنین کی طرف سے پچاس دینار بھجھنے کے بارے میں لکھا جن میں دس دینار میرے چچا کی لڑکی کے بھی تھے مگر وہ ایمان سے بالکل خالی تھی۔ اس لئے میں نے اس کا نام خط کے بالکل آخر میں علیحدہ کر کے لکھا۔ جس میں میں نے اس وجہ سے ترک دعا کی التماس کی تو مومنین کے لئے تحریر ظاہر ہوئی "اللہ مومنین کے اعمال کو قبول فرمائے انہیں نیکی کی مزید توفیق عطا فرمائے اور تمہیں بھی داخل ثواب کرے۔" لیکن میرے چچا کی بیٹی کے لئے کوئی دعا نہیں کی گئی تھی۔

نیز میں نے پھر کچھ دینار مومنین کی طرف سے امام کی خدمت میں بھیجے اور ایک شخص نے جس کا نام محمد بن سعید تھا کچھ دینار دینے تھے وہ بھی بھیج دینے اور محمد اس کا نام نہیں لکھا بلکہ اس کے والد کے نام سے بھیجے اس لئے کہ وہ دین سے بالکل بی خالی تھا۔ جواب آیا تو رسید میں اس کے والد کے بجائے خود اسی کا نام محمد تحریر تھا۔

مال امام میں سے ایک ہزار دینار ہو ابو جعفر نے بھیجے تھے وہ میرے پاس امانتاً جمع تھے میں نے قصد کیا کہ وہ تمام رقم خدمت امام میں پہنچا دی جائے۔ اس لئے ہم لوگ ابوالمسین محمد بن محمد بن خلف اور اسحاق بن جنید کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ابوالمسین نے وہ تھیلی جس میں مال رکھا ہوا تھا اٹھالی۔ جب ہم لوگ تریہ قانول پہنچے تو ان گدھوں کو نہ پایا جن کا ہم پہلے سے کرایہ ادا کر چکے تھے۔ میں نے ابوالمسین سے کہا کہ تم تھیلے لے کر تافلہ سے مل جاؤ اور ہم یہاں کرایہ کا ایک گدھا ابن اسحاق بن جنید کی سواری کے واسطے تلاش کرتے ہیں کیونکہ وہ بوڑھا شخص ہے۔ عرض کہ ہم نے اس کے

لئے کرایہ کا گواہ حاصل کیا اور قریہ حیرہ، یعنی حیر سزمن رائے کے قریب قائد کو آیا۔ میں نے (ابوالمسین کو تھیلا اٹھائے ہوئے دیکھ کر) کہا کہ خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے یہ عالی منصب تمہیں عطا فرمایا۔ اس نے جواب دیا کہ میں خدا کی اس عنایت خاص کے لئے شکر بجالاتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ یہ مبارک خدمت مجھ سے لیا کرے۔ الغرض تھوڑے عرصہ کے بعد ہم لوگ بخیریت و عافیت شہر سزمن رائے (ساترہ) میں داخل ہو گئے اور تمام مال امام کے وکیل کی خدمت میں پہنچا دیا۔ وکیل نے وہ رقم ایک رومال میں باندھ کر ایک غلام حبشی کی معرفت آپ کی خدمت میں بھیج دی۔ عصر کے وقت ابوالمسین وہ خالی تھیلا میرے پاس اٹھا لائے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابو القاسم وکیل امام تشریف لائے، ابوالمسین اور اسحاق نے ان کا خیر مقدم کیا، ابو القاسم نے اس غلام کے متعلق فرمایا جو تھیلا اٹھا کر لایا تھا کہ اس کے لئے دراہم لائے ہیں۔ اور مجھ سے فرمایا: انہیں اسے دے دو جو تھیلا لے کر آیا تھا۔ پتہ چلے گا کہ اسے وہ لے لے گا۔ جب وہ گھر کے دروازے سے نکل گئے تو ابوالمسین نے قبل اس کہ میں بولوں یا وہ جانیں کہ میرے پاس کیا ہے کہا: میں جب بمقام حیرہ میں تمہارے ساتھ تھا تو اپنے دل میں اس وقت یہ آرزو کی تھی کہ (حضرت قائم کے حضور سے) کچھ مال مجھے عنایت ہوتا تو میں اسے تبرک کبچہ کر اپنے پاس رکھتا ایک مرتبہ میں نے ایسی ہی تمنا کی تھی جب ہم تم دونوں فوج میں فوج تھے میں نے کہا: لو خدا نے تمہاری استدعا کے مطابق تمہیں عطا فرمایا۔ الحمد للہ رب العالمین۔

محمد بن کفرو نے مقام حل میں امام سے اپنے بیٹے احمد جو ائمہ ولد سے تھا کے لئے دعا کی درخواست کی امام نے جواب میں کہا: **والصقري احل الله له ذلك** (اللہ تمہارے لئے اس کو جائز قرار دے) جان لو کہ اس کی کثیت ابو صقرت۔

اور مجھ سے بیان کیا علی بن قیس نے ان سے غانم ابو سعید ہندی نے اور یہ جماعت کہتی ہے کہ ان سے محمد بن محمد اشعری نے اور ان سے غانم نے بیان کیا کہ میں ہند کے بادشاہ کے پاس قضمیر (کشمیر) میں تھا۔ اور ہم چالیس افراد تھے۔ جو بادشاہ کے اطراف میں کرسیوں پر بیٹھتے تھے۔ اور ہم توریٹ، انجیل اور زبور کے عالم تھے۔ ایک دن ہمارے درمیان حضرت محمد کے متعلق گفتگو ہوئی اور ہم نے کہا کہ ہم نے ان کا ذکر اپنی کتابوں میں پایا ہے جب یہ طے پایا کہ میں ان کی تلاش میں جاؤں اور ان سے دین حق کا احوال دریافت کروں۔ پس میں کچھ مال لے کر نکل پڑا راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ میں کسی طرح کابل پہنچا اور وہاں سے خج گیا۔ وہاں کا امیر ابن ابی شور تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے اپنا مدعا بیان کیا۔ اس نے فقہاء اور علماء کو جمع کیا تاکہ اسلام کے بارے میں مجھ سے مناظرہ کریں۔ پس میں نے ان سے حضرت محمد کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے نبی ہیں۔ اور ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں نے کہا کہ ان کا خلیفہ کون تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر میں نے کہا: اس کا نسب بیان کرو۔ انہوں نے ان کا

نسب قریش سے ملایا۔ میں نے کہا پھر وہ شخص (جس کے خلیفہ ابو بکر ہیں) نبی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پایا ہے کہ اس کا خلیفہ اس کا ابن عم ہے جو اس کی بیٹی کا شوہر اور اس کے بیٹوں کا باپ ہے۔ یہ سن کر وہ سب امیر سے بولے کہ یہ شخص شرک سے نکل کر کفر میں داخل ہو گیا ہے۔ اس لئے اس کی گردن مار دی جائے۔ میں نے کہا کہ میں ایک دین پر عمل پیرا ہوں اور میرا مقصد صرف اپنے علم کا بیان ہے۔ پس اس (امیر) نے حسین بن اسکیب کو بلوایا اور کہا۔ اس شخص سے مناظرہ کرو۔ اس نے جواب دیا کہ اس کو تو علماء اور فقہاء نے گھیرا ہوا ہے میں کیسے اس سے مناظرہ کروں؟ پس (امیر نے) اس سے کہا: اس سے مناظرہ کرو جیسے میں نے کہا ہے۔ اس کو خلیفہ میں لے جاؤ اور نصف سے پیش آؤ۔ پس حسین مجھ کو الگ لے گئے۔ میں نے حضرت محمدؐ کے متعلق سوال کیا۔ تو انہوں نے کہا: جیسا کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ وہ ہمارے نبی ہیں۔ مگر یہ کہ ان کے خلیفہ ان کے ابن عم علی ابن ابی طالب ابن عبدالمطلب ہیں جو ان کی بیٹی فاطمہ کے شوہر اور ان کے بیٹوں حسن و حسین کے والد ہیں۔ میں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمدؐ اس کے رسول ہیں۔ پھر وہ مجھے امیر کے پاس لے گئے اور میں نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ پس میں حسین کے ساتھ اس کے گھر آیا۔ انہوں نے مجھے اسلام کی تعلیمات بیان کیں میں نے کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ہر خلیفہ کا ایک جانشین ہوتا ہے۔ پھر حضرت علیؑ کا جانشین کون ہے؟ فرمایا حسن پھر حسین پھر ایک ایک امام کا نام لیا۔ یہاں تک کہ امام حسن عسکریؑ کے نام پر پہنچے اور کہا کہ تم اب خود حسن عسکری کے جانشین کو تلاش کرو۔ پس میں ان کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔

محمد ابن محمد نے کہا: وہ ہمارے ساتھ بغداد پہنچا۔ تو اس نے ذکر کیا کہ اس کا ایک دوست ہے جو اس سلسلے میں اس کے ساتھ تھا پھر اس کی بعض عادات ناگوار گزریں تو وہ اس سے جدا ہو گیا اور کہا: پس اسی دوران ایک دن میں نہر کے کنارے چل رہا تھا اور فکر میں مبتلا تھا کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور مجھ سے کہا اپنے آقا کے پاس چلئے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ آخر کار وہ مجھے ایک گھر میں لے گیا جس میں باغ موجود تھا۔ ناگاہ میں نے دیکھا کہ میرے آقا تشریف فرما ہیں۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو مجھ سے ہندی میں گفتگو کی۔ اور مجھے سلام کیا اور میرے نام سے مجھے مخاطب کیا اور نام بنام ان تمام چالیس آدمیوں کے بارے میں مجھ سے پوچھا پھر فرمایا: تم اس سال اہل قم کے ساتھ حج ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ اس سال تم حج ادا نہ کرو۔ خراسان چلے جاؤ۔ آئندہ سال حج ادا کرنا۔ آپ نے میری طرف ایک تھیلی کو بھیجنا کہ فرمایا اپنے نفقہ کو اٹھاؤ اور بغداد کے کسی گھر میں مت داخل ہو اور جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس کے بارے میں کسی کو آگاہ نہ کرنا۔

محمد کہتے ہیں۔ پس ہم عقبہ سے نکلے اور حج کیا اور غانم خراسان چلا گیا اور دوسرے سال حج کرنے نکلا اور گھومتے گھماتے ہماری طرف آیا لیکن قم میں داخل نہیں ہوا۔ حج کیا اور خراسان چلا گیا اور وہیں وفات پا گیا۔ اللہ اس پر رحم

فرماتے۔

محمد بن شاذان نے کابلی سے روایت کی ہے اور میں نے اسے ابو سعید کے پاس دیکھا ہے کہ میں دین حق کی تلاش میں جو میں نے انجیل میں پایا تھا طلب ہدایت کے لئے کابل سے نکلا پس مجھ سے محمد بن شاذان نیشاپوری نے بیان کیا کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ وہ حضرت حجت علیہ السلام تک پہنچ گیا تھا۔ تو میں اس کی تلاش میں رہا یہاں تک کہ اس سے ملاقات ہوئی پس اس سے اس بارے میں پوچھا اس نے بتایا کہ میں برابر امام قائم کی جستجو میں تھا۔ میں نے اپنا قیام مدینہ میں رکھا۔ جس سے بھی میں آپ کا ذکر کرتا وہ میرا مذاق اڑاتا۔ میں ایک بوزھے سے ملا جو ہنو ہاشم سے تھا اور جس کا نام یحییٰ بن محمد عربیٰ تھا۔ اس نے مجھ سے کہا جس شخص کی تم کو تلاش ہے وہ صریا میں موجود ہے۔ میں صریا پہنچا۔ ایک دہلیز تک پہنچا جس پر چڑھا دیا گیا ہوا تھا۔ پس خود کو وہاں جہوترے پر ڈال دیا۔ تو ایک حبشی غلام برآمد ہوا اس نے مجھے جھڑکا اور کہا۔ اس جگہ سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ میں نے کہا میں اس جگہ سے نہیں اٹھوں گا۔ وہ غلام گھر میں گیا۔ پھر واپس آیا اور مجھ سے اندر پھینکے کو کہا۔ میں اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے آقا و مولا گھر کے درمیان میں تشریف فرما ہیں۔ آپ نے مجھے میرے نام کے ساتھ پکارا حالانکہ میرے نام کو سوائے میرے اہل خانہ کے جو کابل میں تھے اور کوئی شخص نہیں جانتا تھا۔ آپ نے مجھے کچھ چیزیں دیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میرا نفقہ ضائع ہو گیا ہے تو مجھے زاد راہ عنایت کیجئے۔ آپ نے فرمایا وہ جہارے جھوٹ کی وجہ سے ضائع ہوا ہے۔ پھر مجھے زاد راہ عنایت فرمایا جو کہ میرے پاس سے ضائع ہو گیا تھا اور جو انہوں نے مجھے عطا کیا تھا وہ محفوظ رہا۔ اور میں آپ کے پاس سے واپس چلا آیا۔ پھر میں دوسرے سال گیا تو میں نے اس گھر میں کسی کو نہیں پایا۔

۱۹۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے سعد بن عبد اللہ نے انہوں نے کہا بیان کیا مجھ سے علی بن محمد بن اسحاق اشعری نے انہوں نے کہا کہ میری ایک زوجہ تھی جسے میں ایک عرصے سے چھوڑے ہوئے تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آئی اور بولی: اگر تم نے مجھے طلاق دے دی ہے تو مجھے بتا دو۔ میں نے جواب میں کہا: نہیں طلاق نہیں دی ہے۔ پھر میں نے اس سے اسی دن ہمستری کی۔ ایک ماہ بعد اس نے مجھے خط لکھا کہ اسے حمل قرار پا گیا ہے۔ میں نے اس بارے میں اور اس گھر کے بارے میں جو میری سسرال کا تھا امام زمانہ کی خدمت میں عرض کیا کہ آنجناب اسے خرید لیں اور اس کی قیمت اقساط میں ادا کر دیں تو گھر کے بارے میں جواب آیا کہ جو تم نے سوال کیا ہے وہ میں نے پورا کر دیا اور عورت کے حمل کے بارے میں لکھا کہ اس کا تذکرہ چھوڑ دو۔ تمہوڑے عرصہ بعد اس کی زوجہ کا خط آیا اس میں تحریر تھا کہ اس نے غلط لکھا تھا حمل کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور تمام شکر اور سپاس اللہ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔

۲۰۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے ان سے سعد بن عبد اللہ نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے ابو علی شیبلی

نے انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ابو جعفر میرے پاس آئے اور مجھے لے کر عباسیہ پہنچے اور وہاں ایک دران جگہ داخل ہوئے۔ وہاں انہوں نے مجھے ایک رقعہ نکال کر بڑھ کر سنایا اس میں جو کچھ اس گھر میں واقع ہونے والا تھا اس کی تشریح کی گئی تھی اور اس میں لکھا تھا " فلاں بیٹی ام عبداللہ کو بالوں سے پکڑ کر گھر سے نکالا جائے گا اور اسے بادشاہ کے سامنے بغداد میں پیش کیا جائے گا۔ " اس کے علاوہ دوسری باتیں بھی جو رونما ہونے والی تھیں تحریر تھیں اور مجھ سے کہا کہ یاد رکھنا یہ کہہ کر انہوں نے وہ رقعہ چاک کر ڈالا۔ یہ اطلاع ان واقعات کے رونما ہونے سے بہت پہلے دی گئی تھی۔

۲۱۔ بیان کیا مجھ سے سعد بن عبداللہ نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے ابو جعفر مردی نے ان سے جعفر بن عمرو نے کہا کہ میں ایک جماعت کے ساتھ مسکری گیا اس وقت حضرت امام حسن عسکری کی والدہ حیات تھیں۔ جب ہم عسکر پہنچے تو میرے ایک ساتھی نے نام بنام زیارت کی اجازت چاہی میں نے کہا میرا نام نہ لکھو۔ میں زیارت کی اجازت نہیں چاہتا۔ امام کے پاس سے اجازت آئی کہ سب لوگ آئیں اور وہ بھی آئے جس نے اجازت لینے سے انکار کر دیا ہے۔

۲۲۔ سعد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ بیان کیا مجھ سے ابو الحسن جعفر بن احمد نے کہ ابراہیم بن محمد بن فرج رنجی نے امام کو عریضہ لکھا۔ جس میں مختلف امور کے بارے میں دریافت کیا گیا تھا اور یہ بھی درخواست کی تھی کہ وہ ان کے نومولود بچہ کا نام تجھ پر فرمائیں۔ امام نے تمام امور کا جواب دیا مگر سچے کے نام کی بات کچھ تحریر نہ کیا۔ کچھ دنوں بعد وہ بچہ مر گیا۔

سعد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے دوستوں نے ایک محفل میں آپس میں مختلف امور پر گفتگو کی۔ امام نے ان میں سے ایک کو خط لکھا اور ان تمام باتوں کا تذکرہ تفصیل سے کیا جو اس محفل میں ہوئی تھیں۔

۲۳۔ سعد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ بیان کیا مجھ سے عاصمی نے کہ ایک شخص نہایت پریشان تھا کہ وہ مال امام کس طرح امام کی خدمت میں پہنچائے۔ اس نے ایک آواز غیبی سنی جو مال ہمارے پاس ہے وہ حاجز کو دے دو۔ انہوں نے کہا: ابو محمد مروی سرمن رائے آئے ان کے پاس مال امام تھا امام کی خدمت میں پیش کرنے سے قبل ان کو رقعہ ملا اس میں تحریر تھا " نہ ہمارے بارے میں شک کر دو اور نہ ہمارے وکیل کے بارے میں شک کر دو اور جو کچھ ہمارے پاس ہے حاجز کو دے دو۔ "

۲۴۔ سعد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ابو جعفر نے مجھ سے کہا کہ ہم نے اپنے ایک قابل اعتماد شخص کے ہاتھ امام کی خدمت میں عسکر کچھ چیزیں بھیجیں۔ کسی اور شخص نے ہمارے سامان کے ساتھ ہمارے علم کے بغیر اپنا خط بھی شامل کر دیا۔ پس امام نے اس کا خط بغیر جواب دینے واپس کر دیا۔

مجھ سے ابو عبداللہ حسین بن اسماعیل کندی نے کہا کہ مجھ سے ابو طاہر بلالی نے کہا کہ میرے پاس امام حسن عسکری کی طرف سے آپ کے جانشین کے بارے میں ایک توثیح آئی جسے انہوں نے اپنے گھر میں بطور امانت لٹکا دیا تھا

تو میں نے حسین سے کہا میں چاہتا ہوں کہ توفیق کی عبارت نقل کروں۔ حسین نے میری خواہش کی خبر ابو طاہر کو کی۔ اس نے کہا کہ سعد کو میرے پاس بھیج دو تاکہ وہ خود توفیق دیکھ لے اور بلا واسطہ مجھ سے روایت کرے (پس اس نے بتایا کہ) حضرت امام حسن عسکری کے پاس سے ان کے انتقال سے دو سال پہلے ایک توفیق آئی جس میں ان کے جانشین کا تذکرہ تھا۔ پھر تین دن بعد ایک اور توفیق آئی جس میں اس جانشین کی خبر دی گئی تھی۔ پس اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو اللہ کے ولی کے حق کا انکار کرتے ہیں۔ اور لوگوں کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کرتے ہیں اور اللہ کی بہت زیادہ تعریف و شکر ہے۔

۲۵۔ اور کہا: جعفر بن محمدان نے امام کی خدمت میں ایک عریضہ لکھا کہ میں نے ایک کنیز سے مباشرت کی مگر اس سے پہلے اس پر یہ شرط عائد کی تھی کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے اور نہ میں اس کو اپنی اولاد کی ماں کا مقام دوں گا۔ کچھ عرصہ بعد وہ میرے پاس آئی اور بولی کہ وہ حمل سے ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ کیونکر ممکن ہے جبکہ مجھے نہیں علم کہ میں نے تم سے اولاد طلب کی ہو۔ پھر وہ ایک عرصہ غائب رہی اور اس کے بعد جب وہ میرے پاس آئی تو اس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ میں نے نہ تو اس بچے سے انکار کیا اور نہ اس کنیز کا نان و نفقہ بند کیا۔ اس کنیز کے بچہ لانے سے پہلے میں نے اپنی جائداد کے لئے اپنی اولاد میں وصیت کر دی تھی۔ اب جب یہ کنیز میرا نومولود بچہ لائی تو میں نے مقرر وصیت میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ البتہ اتنا اضافہ کر دیا کہ جب یہ بچہ بالغ ہو جائے تو اس کو دوسو دینار ایک مرحبہ دے دیتے جائیں۔ اس کے بعد اس بچہ یا اس کی اولاد کا اس جائداد سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب مولا آپ فرمائیں کہ کیا میں نے سچے کے بارے میں صحیح فیصلہ کیا؟ اور میرے لئے دنیا اور آخرت میں عاقبت اور خیر کی دعا فرمائیں۔

جواب آیا کہ تمہارا کنیز کے ساتھ مباشرت کرنا اور پھر یہ شرط عائد کرنا کہ تم کو اولاد نہیں چاہیے عجیب بات ہے یہ وہ چیز ہے جو صاحب ایمان کے لئے نسیب نہیں دیتی جب بھی وہ اس شک میں مبتلا ہو اور وہ اس وقت کو نہیں جانتا ہے کہ جس میں وہ اس کنیز کے پاس گیا تھا بس وہ لپٹے بیٹے سے بری الذمہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کو دوسو دینار دینا اور اسے مال وقف سے کچھ نہ دینا صحیح ہے اس لئے کہ وہ مال اسی کا مال ہے جس کا اس نے (دینے کا) ارادہ نہیں کیا۔ ابو الحسن نے کہا: مولود کی پیدائش سے قبل اس نے حساب کا اندازہ لگایا پھر وہ لڑکا صحیح و سالم پیدا ہوا۔

اور کہا: میں نے ابو الحسن اصفہانی کے نسخہ میں پایا۔ "مجھ تک آیا۔ اللہ ہمیں باقی رکھے۔ تمہارا خط اور جو خط اس نے بھیجا۔" اور حسن بن علی بن ابراہیم نے سیاری سے یہ توفیق نقل کی ہے۔

۲۶۔ علی بن محمد صیرفی نے امام کی خدمت میں کفن کی درخواست کی۔ جواب آیا کہ تمہیں ابھی کفن کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی یا آٹھاسی سال کی عمر میں پیش آئے گی۔ چنانچہ جو وقت آپ نے تحریر فرمایا تھا اسی وقت ان کی وفات ہوئی اور آپ نے ان کی وفات سے ایک مہینہ قبل ان کے لئے کفن بھیج دیا۔

۲۷ - [بیان کیا مجھ سے علی بن احمد بن مہزیار نے] انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے ابو الحسن محمد بن جعفر اسدی نے اور ان سے احمد بن ابراہیم نے کہا کہ میں سن ۲۸۲ ہجری میں جناب علیہ السلام بنت حضرت امام محمد تقی کی خدمت میں مدینہ میں حاضر ہوا۔ میں پردے کے پیچھے سے ان سے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے ان سے ان کے دین کے بارے میں سوال کیا۔ پس انہوں نے میری توجہ اس شخصیت کی طرف مبذول کرائی جس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ میں نے عرض کیا: اللہ مجھے آپ پر فدا کرے۔ کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے یا خبر ملی ہے؟ جواب میں فرمایا: ہاں اور امام حسن عسکری نے اس کی اطلاع اپنی والدہ کو بھی دی۔ میں نے کہا: پھر وہ مولود کہاں ہیں؟ جواب میں فرمایا: پوشیدہ ہیں۔ میں نے عرض کیا: ان کی غیبت کے دور میں شیخ اپنے مسائل کے حل کے لئے کس کی طرف رجوع کریں۔ فرمایا: ان کی دادی اور امام حسن عسکری کی والدہ کی طرف۔ میں نے عرض کیا: امام حسن عسکری نے اپنے اس حکم کے جاری کرنے میں جس میں بیعت مومنین کو ایک عورت کی تقلید کا حکم دیا، کسی کی تائید فرمائی ہے؟ انہوں نے فرمایا: اس امر خاص میں امام نے حضرت امام حسین کی تائید کی ہے۔ جیسا کہ آپ نے بوقت شہادت اپنے باقی ماندہ اہل بیت کو تاحصت امام زین العابدین اپنی بہن جناب زینب کی تقلید کا حکم دیا تھا۔ آپ کے بعد امام زین العابدین نے بھی اپنی گوشہ نشینی کے ایام میں جناب زینب کو اس امر کا مجال فرمایا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا: تم لوگ تو راویان احادیث ہو کیا تم نے یہ روایت نہیں سنی کہ امام حسین کے نوں فرزند کی میراث تقسیم ہوگی حالانکہ وہ زندہ ہوگا۔

۲۸ - بیان کیا مجھ سے ابو جعفر محمد بن علی اسود نے کہ میں نے کچھ مال ابو جعفر محمد بن عثمان عمری کو دیا تاکہ امام کی خدمت میں پیش کر دیں۔ انہوں نے وہ مال مجھ سے لے لیا۔ پھر ان کی موت سے دو تین سال قبل میں پھر کچھ مال امام لے کر ان کے پاس گیا۔ اب کی مرتبہ انہوں نے مجھ کو حکم دیا کہ میں یہ مال ابو القاسم رومی کے پاس لے جاؤں۔ پس ابو جعفر عمری سے اس کی شکایت کی تو مجھے حکم دیا کہ میں ان سے یہ مال لے لینے کا مطالبہ نہ کروں اور کہا: جو ابو القاسم تک پہنچا ہے وہ مجھ تک پہنچ گیا۔ آخر کار میں وہ اموال ابو القاسم کے پاس لے گیا اور ان کے قبضہ میں جو مال تھا اس کا مطالبہ ترک کر دیا۔

اس کتاب کے مولف جناب شیخ الصدوق علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ امام کے وکلا کو امام کی طرف سے یہ علم ہوتا ہے کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب یہ سب امور حکم الہی سے انجام پائیں۔

۲۹ - بیان کیا مجھ سے ابو جعفر محمد بن علی اسود نے کہ ابو جعفر عمری نے اپنے لئے ایک قبر بنوائی پھر اسے بھروادیا اور امام سے اس کے متعلق پوچھا۔ جواب آیا "انسان کے لئے اسباب ہیں" دوبارہ سوال بھیجا تو جواب آیا "میں حکم دیتا ہوں کہ میرے امور کو مکمل کرو" اس کے بعد دو پینے میں ان کا انتقال ہو گیا۔

۳۰۔ بیان کیا مجھ سے ابو جعفر محمد بن علی اسوڈ نے کہ ایک سال مجھے ایک عورت نے کپڑا دیا اور کہا کہ اسے عمریٰ کے پاس پہنچا دینا۔ چنانچہ میں بہت سے کپڑوں کے ساتھ اسے بھی لے گیا۔ جب بغداد پہنچا تو مجھے حکم ہوا کہ یہ سب محمد بن عباس قتی کے سپرد کر دو۔ یہ حکم پاساتے ہی میں نے سوائے اس عورت کے دیتے ہوئے کپڑے کے تمام کپڑے محمد بن عباس قتی کے حوالے کر دیئے۔ عمریٰ میری طرف متوجہ ہو کر بولے اس عورت کا کپڑا بھی تو حوالے کرو۔ اب مجھے خیال آیا کہ ایک عورت نے مجھے ایک کپڑا دیا تھا۔ چنانچہ میں نے اسے بہت تلاش کیا مگر وہ مجھے نہیں ملا۔ عمریٰ نے کہا تم نہ کرو تلاش کرو مل جائے گا۔ میں نے مزید تلاش کیا تو وہ مل گیا۔ یہ امر قابل غور ہے کہ سامان کی جو فہرست میرے پاس تھی وہ عمریٰ کے پاس نہ تھی۔

۳۱۔ بیان کیا مجھ سے ابو جعفر محمد بن علی اسوڈ نے کہ محمد بن عثمان عمریٰ کی وفات کے بعد علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ نے مجھ سے کہا کہ ابو القاسم روجی سے گزارش کرو کہ وہ امام زمانہ سے عرض کریں کہ آپ میرے لئے ایک بیٹے کی دعا کریں۔ میں نے ابو القاسم سے کہا مگر انہوں نے منع کر دیا پھر تین دن کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ امام عصر نے علی بن حسین کے لئے دعا کر دی ہے۔ اور فرمایا کہ ان کے یہاں ایک فرزند پیدا ہوگا اور اس کے بعد اور بھی اولاد ہوگی۔

ابو جعفر محمد بن علی اسوڈ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے لئے بھی درخواست کی کہ میرے لئے بھی ایک فرزند کی دعا فرمادیں۔ مگر میرے جواب میں فرمایا "اس کی کوئی سہیل نہیں" پس علی بن حسین کے یہاں اسی سال فرزند پیدا ہوا پھر اس کے بعد اور اولادیں ہوئیں۔ لیکن میرے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔

اس کتاب کے مؤلف جناب شیخ الصدوق فرماتے ہیں کہ ابو جعفر محمد بن علی اسوڈ اکثر مجھ سے فرماتے تھے کہ جب کبھی محمد بن حسن احمد بن دلیز مجھے دیکھتے کہ میں علی کتب کے مطالعہ اور اس کے یاد کرنے میں مشغول ہوں تو فرماتے طلب علم میں تمہاری اس قدر رغبت کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس لئے کہ تم امام عصر کی دعا سے پیدا ہوئے ہو۔

۳۲۔ بیان کیا مجھ سے ابوالمسین صالح بن شعیب طالقانی نے ذی القعد سن ۳۳۹ ہجری میں ان سے ابو عبد اللہ احمد بن ابراہیم بن محمد نے کہا کہ میں بغداد میں مشائخ رضی اللہ عنہم کے پاس حاضر ہوا تو شیخ ابوالمسن علی بن محمد سری قدس اللہ روحہ نے کہا کہ "اللہ تعالیٰ علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ قتی پر رحمت نازل کرے" ہم نے اس دن کی تاریخ لکھ لی کچھ دنوں بعد خبر آئی کہ اسی دن علی بن حسین کا انتقال ہوا تھا۔ اس کے بعد نصف شعبان سن ۳۲۸ ہجری میں ابوالمسن سری کا بھی انتقال ہو گیا۔

۳۳۔ خبر دی مجھے محمد بن علی بن تئیل نے ان سے کہا ان کے چچا جعفر بن محمد بن تئیل نے بیان کیا کہ میں اور ابو القاسم حسین بن روح، ابو جعفر بن محمد بن عثمان عمریٰ سمات کی موت کے وقت موجود تھے۔ میں عمریٰ کے سرہانے

یہ تھا تھا اور ان سے مسائل دریافت کر رہا تھا۔ پس عمری میری طرف متوجہ ہوئے اور بولے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ابوالقاسم حسین بن روح کو اپنا وصی مقرر کروں۔ پس میں اپنی جگہ سے اٹھا اور حسین بن روح کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنی جگہ بٹھایا اور خود عمری کے پابندی بیٹھ گیا۔

۳۴۔ ہم سے محمد بن علی بن تئیل نے بیان کیا کہ اہل آب کی ایک عورت جس کا نام زینب تھا اور وہ محمد بن عبدیل آبی کی زوجہ تھی میرے چچا جعفر بن محمد بن تئیل کے پاس آئی۔ اس کے پاس تین دینار تھے وہ بولی کہ میں خود لہنے ہاتھ سے یہ رقم ابوالقاسم بن روح کے حوالے کروں گی۔ میرے چچا نے مجھے اس کے ساتھ ترجمانی کے لئے کر دیا۔ جب وہ ابوالقاسم بن روح کی خدمت میں پہنچی تو انہوں نے آبی زبان میں نہایت فصاحت سے کہا۔ ”زینب! چوننا، خوینذا، کو ابذا، چون استہ“ یعنی اے زینب تم کیسی ہو۔ تمہارا کیا حال ہے۔ کچھ کیسے ہیں جب زینب نے یہ سنا تو مجھے ترجمانی سے منع کر دیا اور رقم ان کے حوالے کر کے واپس آگئی۔

۳۵۔ مجھ سے محمد بن علی بن تئیل نے بیان کیا ان سے ان کے چچا جعفر بن محمد بن تئیل نے کہا کہ ایک دفعہ ابو جعفر محمد بن عثمان سمان المعروف بہ عمری نے مجھے بلایا اور کچھ کپڑے اور درہموں کی ایک تھیلی دی اور مجھ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم بذات خود ابھی ابھی واسطہ جاؤ اور جو کچھ میں نے تمہارے سپرد کیا ہے وہ اس شخص کو دے دو جو واسطہ میں کشتی سے اتر کر ساحل پر جانے سے پہلے تمہیں ملے۔ یہ سن کر مجھے بہت رنج ہوا کہ اتنے معمولی کام کے لئے یہ سامان میرے سپرد کر کے مجھے بھیجا جا رہا ہے۔ بہر حال میں وہ سامان لے کر چلا اور کشتی سے اتر کر صحیح ہی ساحل کی طرف بڑھا سب سے پہلے ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی۔ تو میں نے ان سے حسن بن محمد بن قنطار صیدلانی وکیل و وقف واسطہ کے متعلق دریافت کیا انہوں نے جواب دیا میں ہی حسن بن محمد ہوں۔ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں جعفر بن محمد بن تئیل ہوں۔ انہوں نے مجھے میرے نام سے پہچان کر مجھے سلام کیا۔ میں نے جواب سلام دیا۔ اور ہم نے معاہدہ کیا۔ میں نے کہا ابو جعفر عمری نے آپ کو سلام کہا ہے۔ اور یہ کپڑے اور یہ تھیلی میرے سپرد کی ہے کہ میں آپ تک پہنچا دوں۔ انہوں نے کہا خدا کا شکر ہے۔ میں تو محمد بن عبداللہ حائری کے انتقال کے بعد ان کے کفن وغیرہ کے انتظام کے لئے نکلا تھا یہ کہہ کر انہوں نے کپڑوں کی گھڑی کھولی۔ تو اس میں کفن اور کافور تھا جبکہ تھیلی کے اندر جنازہ برداروں اور گورکن کی مزدوری تھی۔ پھر میں جنازے میں شرکت کرنے کے بعد واپس آ گیا۔

۳۶۔ خبر دی مجھے ابو محمد حسن بن محمد بن علی علوی نے کہ انہیں ان کے بھتیجے طاہر نے اپنے مکان میں جو بغداد میں روٹی کے بازار کے قریب ہے بتایا کہ ایک مرحومہ ابوالحسن علی بن احمد بن علی عقیقی سن ۲۹۸ ہجری میں بغداد میں علی بن عیسیٰ بن جراح کے پاس آئے جبکہ وہ وزیر بلدیات تھے۔ ابوالحسن عقیقی نے ان سے اپنی حالت بیان کی تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے خاندان والے اس شہر میں بہت ہیں اگر میں ہر ایک کو دینا شروع کروں تو یہ سلسلہ بہت طویل

ہو جائے گا۔ حقیقی نے کہا اچھا تو پھر میں اس سے حاجت طلب کروں گا جس کے قبضے میں میری حاجت روائی ہے۔ علی بن عیسیٰ نے پوچھا وہ کون ہے؟ حقیقی نے کہا "اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر وہ غصے کی حالت میں وہاں سے چلے گئے۔ پس میں یہ کہتا ہوا چلا کہ ہر بلاک ہونے والے کے لئے اللہ کی طرف سے تعزیت ہے اور ہر مصیبت سے بچنے کا احساس ہے۔

حقیقی کہتے ہیں کہ جب میں وہاں سے واپس آیا تو حسین بن روح کا نمائندہ میرے پاس آیا میں نے اس سے علی بن عیسیٰ کی شکایت کی۔ اس نے جا کر حسین بن روح کو خبر دی تو انہوں نے ایک سو درہم جو عدد اور وزن میں پورے تھے، ایک رومال، حنوط اور کفن کے پارچے میرے پاس بھیج دیئے اور کہلایا کہ تمہارے مولا تم کو سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب تمہیں ہم اور غم ہو تو اس رومال سے اپنا منہ پونٹھ لیا کرنا۔ یہ تمہارے آقا علیہ السلام کا رومال ہے یہ درہم، حنوط اور کفن کے ٹکڑے لے لو اور تمہاری حاجت اسی شب میں پوری ہو جائے گی اور جب تم مصر جاؤ گے تو محمد بن اسماعیل تم سے دس دن پہلے مر جائے گا اس کے بعد تمہاری موت واقع ہوگی۔ یہ تمہارا کفن اور حنوط ہے اور تجھیز و تمذین کے لئے رقم بھی تم کو دی گئی ہے۔

میں نے وہ سب چیزیں بحفاظت رکھ لیں اور نمائندہ واپس ہو گیا۔ کچھ ہی دن گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی میں نے اپنے غلام سے کہا۔ خیر اسے خیر دیکھو کون دستک دے رہا ہے۔ خیر دیکھ کر آیا اور کہا وزیر کے چچا زاد بھائی حمید بن محمد کاتب کا غلام ہے۔ میں نے کہا کہ اندر بلاؤ۔ وہ اندر آیا اور بولا۔ میرے مالک حمید نے کہلایا ہے کہ آپ کو وزیر نے بلایا ہے۔ لہذا میرے ساتھ سواری پر چلئے۔

میں اس کے ساتھ گلی کوچوں کو طے کرتا ہوا شارع وزارتین پہنچا۔ دیکھا کہ حمید میرے انتظار میں بیٹھا ہے۔ اس نے مجھے دیکھا تو میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ہم وزیر کے پاس پہنچے۔ وزیر نے مجھ سے کہا: اے شیخ۔ پروردگار نے تیری حاجت پوری کر دی وہ مجھ سے معذرت کرنے لگا اور مجھے سرب مہر ایک تحریر دی۔ میں وہ لے کر واپس ہوا۔

ابو محمد الحسن بن محمد کہتے ہیں کہ یہ واقعہ نصیبین کے مقام پر خود ابو الحسن علی بن احمد حقیقی رحمۃ اللہ نے مجھ سے بیان کیا اور کہا کہ اس حنوط میں سے صرف اپنی بھوپھی کے لئے میں نے تمہارا سا نکالا ہے۔ باقی میں نے اپنے لئے رکھ چھوڑا ہے۔ حسین بن روح نے مجھے بتایا ہے کہ میں صاحب الملک و جامیاد ہو گیا ہوں اور یہ کہ تمہاری حاجتیں امام عصر کی خدمت میں لکھ کر بھیج دی گئی ہیں۔ حسن بن محمد کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے حقیقی کی پیشانی اور آنکھوں کا بوسہ لیا اور کہا مجھے بھی اس کفن و حنوط اور ان درہموں کی زیارت کرا دیں۔ انہوں نے یہ چیزیں مجھے دکھائیں جن میں ایک دھاری دار یعنی چادر، تین کپڑے اور عمامہ تھا۔ حنوط ایک تھیلی میں تھا۔ پھر انہوں نے درہم نکالے۔ میں نے گئے تو وہ سو درہم تھے۔ اور وزن میں بھی سو درہم تھے میں نے ان سے درخواست کی کہ مجھے ان میں سے ایک درہم عنایت فرمادیں۔ میں اس کی انگوٹھی بناؤں گا۔ انہوں نے کہا: ان میں سے تو نہیں البتہ میرے پاس سے جتنے چاہو لے

لو۔ میں نے کہا: میں اس میں سے ہی لینا چاہتا ہوں۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کی پیشانی اور آنکھوں کا بوسہ لیا اور پھر اصرار کیا۔ بتانچہ انہوں نے مجھے ایک درہم دے دیا۔ اور میں نے اسے لپٹے رومال میں باندھ کر آستین میں چھپالیا۔ جب میں سرائے آیا تو رومال کو تھیلے میں ڈال دیا۔ اور کتابیں اور کاغذات اس کے اوپر رکھ دینے۔ کچھ دن سرائے میں قیام کیا۔ ایک دن رومال نکال کر دیکھا تو اس میں گرہ تو لگی ہوئی تھی مگر اس میں درہم نہ تھا۔ میں پریشان ہو گیا اور عقیقی کے دروازے پر گیا۔ اور اس کے غلام خیر سے کہا کہ میں شیخ سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے عقیقی کے پاس لے گیا۔ عقیقی نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ وہ درہم جو تم نے مجھے دیا تھا وہ میری تھیلی سے غائب ہے۔ یہ سن کر اس نے لپٹے پاس موجود تمام درہموں کو شمار کیا تو وہ وزن اور عدد میں پورے سوتھے۔ میں نے کہا ایک درہم پھر سے مجھے دے دو۔ انہوں نے انکار کیا۔ پھر وہ مصر چلے گئے اپنی جائیداد کو قبضہ میں لیا پھر ان کے سلسلے محمد بن اسماعیل کا انتقال ہوا اور دس روز بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور امام کی دی ہوئی چیزوں سے ان کی تمہیز و تہنہ ہوئی۔

بیان کیا مجھ سے علی بن حسین بن شاذیہ مؤدب نے ان سے محمد بن عبداللہ نے ان سے ان کے والد عبداللہ بن جعفر حمیری نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن جعفر نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے احمد بن ابراہیم نے کہ میں سن ۲۰۲ ہجری میں جناب عیسٰی خاتون بنت امام محمد تقی کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوا۔ ہمارے درمیان ایک پردہ حائل تھا۔ میں نے ان سے ان کے دین کے بارے میں سوال کیا۔ پس انہوں نے میری توجہ اس شخصیت کی طرف مبذول کرائی جس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ میں نے عرض کیا: کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے یا ان کے متعلق کوئی خبر ملی ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں اور حضرت امام عسکری نے اس کی اطلاع اپنی والدہ کو بھی دی ہے۔ میں نے عرض کیا: پھر وہ مولود کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا: پوشیدہ ہیں۔ میں نے عرض کیا: ان کی نیابت کے دور میں شیخ لپٹے مسائل کے حل کے لئے کس کی طرف رجوع کریں؟ آپ نے فرمایا: ان کی دادی اور حضرت امام عسکری کی والدہ کی طرف۔ میں نے عرض کیا: حضرت امام حسن عسکری نے لپٹے اس حکم کے اجراء میں جس میں جمیع مومنین کو ایک عورت کی تقلید کا حکم دیا کسی کی تائید کی ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا: اس امر خاص میں حضرت امام حسین کی تائید کی ہے۔ جیسا کہ آپ نے بوقت شہادت اپنے باقی ماندہ اہل بیت کو تاصحت امام زین العابدین اپنی بہن جناب زینب کی تقلید کا حکم دیا تھا۔ آپ کے بعد امام زین العابدین کی گوشہ نشینی کے ایام میں جو علم ظاہر ہوا اس کو جناب زینب کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا: تم لوگ تو راویان احادیث ہو۔ کیا تم نے یہ روایت نہیں سنی کہ امام حسین کے نویر فرزند کی میراث تقسیم ہوگی حالانکہ وہ زندہ ہوگا۔

۳۷۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن ابراہیم بن اسحاق طالقانی نے کہ میں ایک جماعت کے ساتھ شیخ ابو القاسم حسین بن روح قدس اللہ روحہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ہمارے درمیان علی بن عیسیٰ قمی بھی تھے۔ پس ایک شخص کھڑا ہوا

اور حسین بن روح سے بولا: میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں فرمایا: پوچھو۔ اس نے کہا: یہ بتائیے کہ کیا حسین بن علیؑ اللہ کے ولی تھے۔ فرمایا: ہاں۔ پھر کہا کہ یہ بتائیں کہ ان کا قاتل خدا کا دشمن تھا؟ فرمایا: ہاں۔ پھر کہا: یہ کیسے جائز ہے کہ اللہ اپنے دشمن کو اپنے ولی پر مسلط کر دے۔ ابوالقاسم حسین بن روح قدس اللہ روحہ بولے: میں سمجھ گیا جو تم کہنا چاہتے ہو۔ یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سامنے ظاہر ہو کر خطاب نہیں کرتا اور نہ بالمشافہہ کلام کرتا ہے۔ بلکہ اس نے بندوں کی طرف ان کی جنس و اصناف سے بشر کو رسول بنا کر بھیجا۔ اگر کسی اور جنس یا کسی اور صورت کے رسول بھیجتا تو لوگ ان سے متنفر ہو جاتے اور کبھی قبول نہ کرتے۔ پس انسانوں میں ان کی جنس کے رسول آئے جو کھاتے پیتے تھے اور بازار میں چلتے پھرتے تھے۔ لوگ انہیں دیکھ کر کہتے تم تو ہمارے جیسے بشر ہو۔ پس ہم اس وقت تک تمہاری بات تسلیم نہ کریں گے جب تک تم ہمیں کوئی ایسا معجزہ نہ دکھلاؤ جس کے دکھلانے پر دوسرے قادر نہ ہوں۔ پھر ہم سمجھیں گے کہ تم اللہ کے مخصوص بندے ہو۔ پس اللہ نے ان رسولوں کے لئے معجزے قرار دیئے۔ جن پر دوسرے لوگ قادر نہ تھے۔ ان رسولوں میں کوئی وہ تھے جنہوں نے قوم کو ڈرایا لیکن جب قوم کی سرکشی بڑھی تو ان کی بددعا سے طوفان آیا اور تمام باغی اور نافرمان ذوب گئے۔ ان میں ایک ایسے تھے جن کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ ان کے لئے ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی بن گئی۔ ان میں سے کوئی ایسا تھا جس نے ہتھ سے اونٹنی کو نکالا جو دودھ دیتی تھی۔ کسی کے لئے پانی پر راستہ بنایا۔ کسی کے لئے ہتھ سے پشمے جاری ہونے اور خشک عصا سے اڑدھا بنا دیا کہ جو کچھ اسے ملتا تھا کھا لیتا تھا۔ کسی نے مادر زاد اندھوں اور مبروص کو صحت دی اور مردوں کو اللہ کے اذن سے زندہ کیا۔ اور لوگوں کو خیر دی کہ وہ گھر میں کیا کھاتے ہیں اور کیا جمع کرتے ہیں۔ کسی نے چاند کے ٹکڑے کئے اور ان سے جانوروں مثلاً اونٹ اور بھیر پینے وغیرہ نے گفتگو کی۔

پس اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو وہ معجزے عطا کئے جن کی مثال لانے میں بندے عاجز تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کا اپنے بندوں پر لطف اور اس کی حکمت تھی کہ اس قدرت اور معجزات کے ہونے کے باوجود کچھ انبیاء علیہم السلام غالب رہے، کچھ مغلوب، کچھ قاہر رہے کچھ مقہور۔ اگر اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کو اپنے اپنے زمانے میں غالب اور قاہر قرار دیتا تو پھر ان کی آزمائش اور امتحان نہ ہوتا اور لوگ ان کو خدا سمجھ کر ان کی عبادت کرنے لگتے اور بلاء اور مصیبت پر ان کی منزلت صبر کا پتہ نہ چلتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے احوال عام لوگوں کے احوال کی طرح رکھے تاکہ وہ بلاء اور مصیبت پر صبر کریں اور عافیت اور اعداء پر غلبہ پر شکر، مجالاتیں اور ہر حال پر تواضع اختیار کریں، تکبر نہ کریں اور سرکشی نہ کریں تاکہ لوگ سمجھیں اور جانیں کہ ان کا ایک اللہ ہے جو ان کا خالق اور مدبر ہے۔ پس بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور ان لوگوں پر اللہ کی بخت ثابت ہو جائے جو حدود خدا کو توڑتے ہیں اور خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں یا اللہ کی مخالفت اور دشمنی کرتے ہیں اور ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں جو اس کے رسول اور انبیاء لے کر آئے

تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل سے ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ دلیل سے زندہ رہے۔

محمد بن ابراہیم بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں دوسرے دن ابو القاسم بن روح قدس اللہ روحہ کے پاس گیا تو میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ اس شخص نے کل اپنی طرف سے کتنی بڑی بات کہہ دی۔ میرے کچھ کہنے سے قبل ہی حسین بن روح مجھ سے مخاطب ہوئے اور بولے: اے محمد بن ابراہیم مجھے یہ بات منظور ہے کہ میں آسمان سے پھینک دیا جاؤں یا کوئی پرندہ مجھے اچک کر لے جائے یا ہوا مجھے اڑا کر کہیں دور لے جا کر پھینک دے مگر مجھے یہ منظور نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین میں اپنی رائے دوں یا اپنے دل سے گڑھ کر کوئی بات کہوں۔ میں نے کل جو کچھ کہا وہ حضرت بخت صلوات اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔

۳۸۔ بیان کیا مجھ سے احمد بن محمد بن یحییٰ عفاذ نے ان سے ان کے والد نے ان سے محمد بن شاذان بن نعیم الشاذانی نے کہ میرے پاس پانچ سو درہم مال امام کے جمع ہوئے جن میں بیس کھوٹے تھے تو میں نے ان میں اپنی طرف سے اصلی بیس درہم ملا کر ابوالمحسن اسدی کے حوالے کر دیئے مگر یہ نہیں بتایا کہ میں نے ان میں اپنی طرف سے بیس درہم ملائے ہیں۔ امام کی طرف سے جواب آیا کہ پانچ سو درہم وصول پائے جن میں بیس درہم تمہارے ہیں۔

محمد بن شاذان کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کچھ مال امام کی خدمت میں بھیجا مگر تفصیل تحریر نہیں کی کہ کون سا مال کس کا ہے۔ جواب آیا کہ اتنا اتنا مال وصول ہوا جس میں اتنا مال فلاں کا ہے اور اتنا مال فلاں کا ہے۔ ابو العباس کوئی کا بیان ہے کہ ایک شخص کچھ رقم خدمت امام میں بھیجا چاہتا تھا مگر یہ بھی چاہتا تھا کہ کوئی معجزہ نظر آئے امام کی طرف سے تحریر آئی: "اگر تم ہدایت چاہو گے تو ہدایت پاؤ گے اگر تلاش کرو گے تو حاصل کرو گے۔ لہذا جو کچھ تمہارے پاس ہے لے کر آؤ۔"

اس شخص نے کہا: پس میں نے اس رقم میں سے چھ دینار نکال کر باقی بغیر وزن کئے ہوئے خدمت امام میں ارسال کر دیئے۔ جواب آیا: اے فلاں وہ چھ دینار جو بلا وزن تو نے نکال لئے ہیں وہ واپس لے آؤ جن کا وزن چھ دینار پانچ دو انبیا اور ڈیڑھ دانہ ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے ان دیناروں کو وزن کیا تو واقعاً اتنا ہی وزن تھا جتنا امام نے تحریر فرمایا تھا۔

۳۹۔ بیان کیا مجھ سے ابو محمد عمار بن حسین بن اسحاق اسروشی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے ابو العباس احمد بن خضر بن ابی صالح بخدی نے کہ وہ امام معمر کی تلاش میں اپنے وطن سے نکلے تاکہ ان پر حقیقت حال واضح ہو اور اطمینان قلب حاصل ہو اور راہ عمل کی نشاندہی ہو۔ پس ان کے لئے امام معمر کی یہ تحریر ظاہر ہوئی۔

• جس نے بحث کی اس نے طلب کیا جس نے دلیل قائم کی جس نے دلیل قائم کی وہ ہلاک ہوا جو ہلاک ہوا اس نے شرک کیا۔ اس نے کہا: پس میں نے جستجو کو چھوڑ دیا اور واپس ہو گیا۔

ابو القاسم بن روح سے حکایت ہے کہ انہوں نے اس روایت کے بارے میں جو حضرت ابوطالب کے بارے میں ہے کہ حساب جمل کے ذریعے اسلام لائے اور لہنے ہاتھ سے تریسٹھ گرہیں لگائیں۔ کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ایک صاحب جو دو کرم ہے۔ (۱)

۲۰۔ بیان کیا مجھ سے احمد بن ہارون قاضی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن عبد اللہ بن جعفر حمیری نے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے اسحاق بن حامد کاتب سے انہوں نے کہا کہ تم میں ایک مومن پارچہ فروش تھا۔ اس کا ایک شریک تجارت مرجمی فرقہ کا تھا۔ ایک مرحبہ دونوں کے درمیان ایک نفیس کپڑا آیا۔ مومن نے کہا کہ یہ کپڑا میں اپنے مولا کو بھیجوں گا۔ اس کا شریک بولا میں تمہارے مولا کو نہیں جانتا۔ مگر تم جو چاہو وہ کرو۔ پس اس نے وہ کپڑا مولا کی خدمت میں بھیجا۔ مولانا نے اس کپڑے کے طول سے دو ٹکڑے کئے۔ ایک لہنے پاس رکھ لیا اور دوسرا واپس کر دیا۔ اور فرمایا کہ ہمیں مرجمی کے مال کی حاجت نہیں۔

۳۱۔ بیان کیا مجھ سے عبد اللہ بن جعفر حمیری نے کہ شیخ ابو جعفر محمد بن عثمان عمری کے پاس امام کی ایک توثیح آئی جس میں ان کے والد کے انتقال پر تعزیت کی گئی تھی۔ اس توثیح کے ایک حصہ میں تحریر تھا۔ ”ان اللہ واقفا الیہ راجعون تسلیمًا لا مرًا و رضاء بقضائہ“۔ تمہارے والد کی زندگی سعید اور موت حمید ہے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کرے اور انہیں اپنے اولیاء اور موابیان علیہم السلام سے ملحق فرمائے۔ یہ سلسل لہنے ائمہ کے امور میں جدو بہد کرتے رہے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ اور ائمہ کا تقرب حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہجرے کو پر نور اور شاداب رکھے۔

اس توثیح کے ایک اور حصہ میں یہ عبارت تھی۔ ”اللہ تعالیٰ تمہیں اس مصیبت پر صبر جمیل عطا فرمائے ان کی موت پر تم بھی سو گوار ہو اور ہم بھی۔ ان کی جدائی کا جس قدر تم کو دکھ ہے اسی قدر ہمیں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے مقام پر خوش اور مطمئن رکھے۔ ان کے لئے کمال سعادت تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تم جیسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ان کے بعد ان کا جانشین اور قائم مقام ہوا۔ جو ان کے لئے طلب رحمت کر رہا ہے۔ اور میں کہتا ہوں الحمد للہ کہ اس نے تمہارے اور تمہارے تربی رشتہ داروں کے نفوس پاک و ظاہر بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے۔ تمہیں قوت اور تمہارے بازوؤں میں طاقت عطا فرمائے تمہیں توفیق خیر عنایت فرمائے اور تمہارا ولی اور محافظ و نگہبان رہے۔

(۱) اس کی تفصیل حدیث ۳۸ میں بیان کی گئی ہے۔

حضرت امام عصرؑ کی توفیق

جو عمریٰ اور ان کے صاحب زادے کے لئے ظاہر ہوئی اور جسے سعد بن عبد اللہ نے روایت کیا

۳۲۔ شیخ ابو عبد اللہ جعفر کہتے ہیں کہ امام کی طرف سے ظاہر ہونے والی توفیق میں تحریر تھا۔

"انہ تعالیٰ تم دونوں کو اپنی اطاعت کی توفیق دے۔ تم دونوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھے اور اپنی رضا سے نوازے میں نے تذکرہ کیا کہ شیخی نے مختار اور اس کے مناظروں کی تمہیں خبر دی کہ اس وقت کوئی بھی جعفر بن علی کے علاوہ حق دار امامت نہیں اور وہ باتیں بھی تم نے تحریر کیں جو ہمارے ساتھیوں نے اس سے بیان کی ہیں۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اس شخص سے جو روشنی کے بعد اندھا ہو جائے۔ ہدایت کے بعد گمراہ ہو جائے اور جو اعمال اور نعمتوں کی بلاکتوں میں مبتلا ہو۔ ارشاد رب العزت ہے۔ آلم ○ احسب الناس ان یترکوا ان یقو لو آامننا وہم لا یفتنون (سورۃ عنکبوت آیت ۱-۲) "الم۔ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ جائیں گے اتنا کہہ کر کہ ہم ایمان لائے اور ہم ان کو نہیں آزمائیں گے" یہ لوگ کیسے فتنہ کے شکار ہو گئے، حیرت میں سرگرداں ہیں اور دائیں بائیں کو اختیار کر لیا ہے۔ یہ لوگ یا تو دین کو چھوڑ بیٹھے ہیں یا اس میں شک کرتے ہیں۔ یا حق کے دشمن ہو گئے ہیں یا روایات صادقہ اور اخبار صحیحہ سے جاہل ہیں یا پھر جانتے ہیں مگر فراموش کر دیا ہے کہ زمین جنت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی چاہے وہ جنت ظاہر ہو یا پوشیدہ۔

کیا یہ نہیں جانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سلسلہ امامت جاری ہوا جو ایک امام کے بعد دوسرے امام سے ہوتا ہوا حضرت امام حسن عسکریؑ تک پہنچا۔ پس وہ اپنے آباء کرام علیہم السلام کے جانشین ہوئے۔ انہوں نے حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی۔ یہ نور اور روشن ستارے اور منور قمر تھے۔ پھر اللہ نے حضرت امام حسن عسکریؑ کو بھی ان کے آباء کرام علیہم السلام سے ملحق کر دیا۔ اور یہ عہدہ امامت ان کے وحی تک پہنچا جن کو اللہ نے پردہ غیبت میں چھپا دیا۔ اور اس نے اس کے مکان کو اپنی مشیت کے ذریعے سے بہ سہم پہلی نافذ قضا و قدر کے پوشیدہ رکھا۔ اور اس میں ہماری منزلت ہے۔ ہمارے لئے ہی اللہ کا فضل و رحمت ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں ان پر بہتر طریقے سے حق ظاہر کر دیتا اور دلالت کو واضح کر دیتا اور علامت کو ظاہر کر دیتا اور اپنے کو ظاہر کر دیتا اور بھت قائم کرتا مگر اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ابھی میں غلبہ نہ حاصل کروں۔ اس کا ارادہ یہ ہے کہ ابھی واپس نہ آؤں۔ اس کی توفیق یہ ہے کہ ابھی سہقت نہ کی جائے۔ پس وہ اپنی خواہشات نفس کی پرستش میں مصروف ہیں۔ انہیں چاہئے کہ دین کی اصل پر قائم ہوں۔ اور ان امور میں بحث نہ کریں جو ان سے پوشیدہ ہیں تاکہ گناہ گار نہ ہوں۔ اور اللہ کے بھیدوں کو کھولنے کی کوشش نہ کریں ورنہ شرمندگی ہوگی۔ اور جانیں کہ حق ہمارے ساتھ اور ہمارے درمیان ہے۔ ہمارے علاوہ جو یہ

دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور افتراء پرداز ہے۔ ہمارے علاوہ جو اپنی طرف دعوت دے وہ گمراہ ہے۔ پس اس پر اکتفا کریں اور لسنے پر قناعت کریں اور تفصیل و تشریح طلب نہ کریں۔ ان شاء اللہ۔

”غیبت قائم علیہ السلام میں دعا“

۴۳۔ بیان کیا کچھ سے ابو محمد حسین بن احمد مکتب نے انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو علی بن مہمام نے یہ دعا بیان فرمائی اور کہا کہ شیخ حمزی قدس اللہ روحہ نے ان کو یہ دعا ملایا کرائی اور تاکید کی کہ یہ دعا پڑھا کریں۔ یہ دعا غیبت امام کے زمانے کی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ عَرَّفَنِي نَفْسَكَ ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ ، اللَّهُمَّ عَرَّفَنِي نَبِيَّكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَبِيَّكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ اللَّهُمَّ عَرَّفَنِي حُجَّتَكَ ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي ، اللَّهُمَّ لَا تَمِئْتَنِي مَيْتَةَ جَاهِلِيَّةٍ وَلَا تُزِعْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ مَدَيْتَنِي ، اللَّهُمَّ فَكَمَا مَدَيْتَنِي بِوَلَايَةِ مَنْ فَرَضْتَ طَاعَتَهُ عَلَيَّ مِنْ وِلَاةٍ أَمَرَكَ بَعْدَ رَسُولِكَ صَلَوَاتِكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ حَتَّى وَالَيْتُ وَوَلَاةً أَمَرَكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَعَلِيًّا وَمُحَمَّدًا وَجَعْفَرًا وَمُوسَى وَعَلِيًّا وَمُحَمَّدًا وَعَلِيًّا وَالْحَسَنَ وَالْحُجَّةَ الْقَائِمَ الْمَهْدِيَّ صَلَوَاتِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ، اللَّهُمَّ فَثَبِّتْنِي عَلَى دِينِكَ وَاسْتَعْمَلْنِي بِطَاعَتِكَ ، وَلَيِّنْ قَلْبِي لِوَلِيِّ أَمْرِكَ ، وَعَافِنِي بِمَا امْتَحَنْتَ بِهِ خَلْقَكَ ، وَثَبِّتْنِي عَلَى طَاعَةِ وَلِيِّ أَمْرِكَ الَّذِي سَتَرْتَهُ عَنْ خَلْقِكَ وَبِإِذْنِكَ غَابَ عَنْ بَرِيَّتِكَ ، وَأَمَرَكَ يَنْتَظِرُ وَأَنْتَ الْعَالِمُ غَيْرُ الْمَعْلَمِ بِالْوَقْتِ الَّذِي فِيهِ صَلَاحُ أَمْرٍ وَلَيْتَكَ فِي الْأَذْنِ لَهُ بِإِظْهَارِ أَمْرِهِ وَكَشْفِ سِتْرِهِ ، فَصَبِّرْنِي عَلَى ذَلِكَ حَتَّى لَا أَحِبَّ تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ وَلَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ ، وَلَا كَشْفَ عَمَّا سَتَرْتَهُ ، وَلَا أُبْحَثَ عَمَّا كَتَمْتَهُ ، وَلَا أَنْزِعَكَ فِي تَدْبِيرِكَ وَلَا أَقُولَ : لِمَ وَكَيْفَ ، وَمَا بَالُ وَبِئِ الْأَمْرِ لَا يَظْهَرُ ، وَقَدِ امْتَلَأَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْجَوْرِ ، وَأَفْوَضُ أُمُورِي كُلَّهَا إِلَيْكَ .

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُرَبِّبَنِي لِوَلِيِّ أَمْرِكَ ظَاهِرًا نَافِذًا لِأَمْرِكَ مَعَ عِلْمِي بِأَنَّ لَكَ

السُّلْطَانَ وَالْقُدْرَةَ وَالْبُرْهَانَ وَالْحُجَّةَ وَالْمَشِيئَةَ وَالْإِرَادَةَ وَالْحَوْلَ وَالْقُوَّةَ، فَافْعَلْ ذَلِكَ بِي وَبِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى وَجْهِكَ صَلَوَاتِكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ ظَاهِرَ الْمُقَاتِلَةِ، وَاضِحَ الدَّلَالَةِ، هَادِيًا مِنَ الضَّلَالَةِ، شَافِيًا مِنَ الْجَهَالَةِ، أَبْرَزُ يَارَبِّ مُشَاهِدًا وَثَبَّتَ قَوَاعِدًا، وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ تَقْرَعُ عَيْنَهُ بِرُؤْيَيْتِهِ، وَأَقِمْنَا بِخِدْمَتِهِ، وَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِ، وَاحْشُرْنَا فِي رُحْمَتِهِ -

اللَّهُمَّ أَعِزَّنَا مِنْ شَرِّ جَمِيعِ مَا خَلَقْتَ وَبَرَأْتَ وَذَرَأْتَ وَأَنْشَأْتَ وَصَوَّرْتَ وَاحْفَظْهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ فَوْقِهِ وَمِنْ تَحْتِهِ بِحِفْظِكَ الَّذِي لَا يُضَيِّعُ مَنْ حَفِظْتَهُ بِهِ، وَاحْفَظْ فِيهِ رَسُولَكَ وَوَصِيَّ رَسُولِكَ، اللَّهُمَّ وَمُدْفِي عَمْرِي، وَزِدْنِي أَجَلَهُ وَأَعِنُّهُ عَلَيَّ مَا أَوْلَيْتَهُ وَاسْتَرْعَيْتَهُ، وَزِدْ فِي كَرَامَتِكَ لَهُ فَإِنَّهُ الْهَادِي الْمُهْتَدِي وَالنَّاقِمُ الْمُهْدِي، الظَّاهِرُ الثَّقِيُّ النَقِيُّ الذَّكِيُّ الرَّضِيُّ الْمَرْضِيُّ، الصَّابِرُ الْمُجْتَهِدُ الشَّكُورُ -

اللَّهُمَّ وَلَا تَسْلُبْنَا الْيَقِينَ لِطَوْلِ الْأَمَدِ فِي غَيْبَتِهِ وَانْقِطَاعِ خَبْرِهِ عَنَّا، وَلَا تُنْسِنَا ذِكْرَهُ وَانتِظَارَهُ وَالْإِيمَانَ وَقُوَّةَ الْيَقِينِ فِي ظُهُورِهِ وَالِدُعَاءَ لَهُ وَالصَّلَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَقْتُلْنَا طَوْلَ غَيْبَتِهِ مِنْ ظُهُورِهِ وَقِيَامِهِ، وَيَكُونَ يَقِينُنَا فِي ذَلِكَ كَيْقِينُنَا فِي قِيَامِ رَسُولِكَ صَلَوَاتِكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَمَا جَاءَ بِهِ مِنْ وَحْيِكَ وَتَنْزِيلِكَ وَقَوْلِ قُلُوبِنَا عَلَى الْإِيمَانِ بِهِ حَتَّى تَسْلُكَ بِنَا عَلَى يَدَيْهِ مِنْهَاجَ الْهُدَى وَالْحُجَّةِ الْعُظْمَى، وَالطَّرِيفَةَ الْوَسْطَى، وَقَوْلَنَا عَلَى طَاعَتِهِ، وَثَبَّتْنَا عَلَى مُتَابَعَتِهِ وَاجْعَلْنَا فِي حِزْبِهِ وَأَعْوَانِهِ وَأَنْصَارِهِ وَالرَّاضِينَ بِفِعْلِهِ وَلَا تَسْلُبْنَا ذَلِكَ فِي حَيَاتِنَا وَلَا عِنْدَ وَفَاتِنَا حَتَّى تَتَوَفَّنَا وَنَحْرُ عَلَى ذَلِكَ غَيْرَ شَاكِينَ وَ لَنَا كَثِيرِينَ وَلَا مَرْتَابِينَ وَلَا مُكَذِّبِينَ -

اللَّهُمَّ عَجِّلْ فَرَجَهُ وَأَيِّدْهُ بِالنَّصْرِ وَأَنْصُرْ نَاصِرِيهِ وَاحْذُلْ حَادِيِيهِ، وَدَمِّرْ عَلَى مَنْ نَصَبَ لَهُ وَكَذَّبَ بِهِ، وَأَظْهِرْ بِهِ الْحَقَّ، وَأَمِتْ بِهِ الْبَاطِلَ وَاسْتَنْقِذْهُ مِنْ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الذَّلِيلِ، وَأَنْعَشْ بِهِ الْبِلَادَ، وَأَقْتُلْ بِهِ جَبَابِرَةَ الْكُفْرِ، وَأَقْصِمْ بِهِ رُؤُوسَ الضَّلَالَةِ وَذَلِّلْ بِهِ الْجَبَّارِينَ وَالْكَافِرِينَ، وَأَبْرِزْهُ الْمُتَنَافِقِينَ وَالنَّاسِكِينَ وَجَمِيعَ الْمُخَالِفِينَ وَالْمُلْحَدِينَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، وَبَرَهَا وَبَحْرَهَا،

وَسَهْلَهَا وَجَبَلَهَا حَتَّى لَا تَدْعَ مِنْهُمْ دِيَارًا وَلَا تُبْقَى لَهُمْ آثَارًا ، وَتَطَهَّرَ مِنْهُمْ
بِلَادِكَ ، وَاشْفِ مِنْهُمْ صُدُورَ عِبَادِكَ ، وَجَدِّدْ بِهِ مَا امْتَحَنِي مِنْ دِينِكَ ، وَأَصْلِحْ بِهِ
مَا بَدَّلَ مِنْ حُكْمِكَ ، وَغَيِّرْ مِنْ سُنَّتِكَ حَتَّى يُؤَوِّدَ دِينَكَ بِهِ وَعَلَى يَدَيْهِ غَضًّا
جَدِيدًا صَحِيحًا لَا عَوْجَ فِيهِ وَلَا بَدْعَةَ مَعَهُ حَتَّى تُطْفِئَ بِعَدْلِهِ نِيرَانَ الْكَافِرِينَ ، فَإِنَّهُ
عَبْدُكَ الَّذِي اسْتَخْلَصْتَهُ لِنَفْسِكَ وَارْتَضَيْتَهُ لِنَصْرِ نَبِيِّكَ ، وَأَصْطَفَيْتَهُ بِعِلْمِكَ
وَعَصَمْتَهُ مِنَ الذُّنُوبِ وَبَرَّائَتِهِ مِنَ الْغُيُوبِ ، وَأَطْلَعْتَهُ عَلَى الْغُيُوبِ ، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ
وَطَهَّرْتَهُ مِنَ الرَّجَسِ وَنَقَيْتَهُ مِنَ الدَّنَسِ .

اللَّهُمَّ فَضِّلْ عَلَيْهِ وَعَلَى آبَائِهِ الْأَيْمَّةِ الطَّاهِرِينَ ، وَعَلَى شَيْعَتِهِمُ الْمُتَتَجِبِينَ ، وَ
بَلِّغْهُمْ مِنْ أَمَالِهِمْ أَفْضَلَ مَا يَأْمَلُونَ ، وَاجْعَلْ ذَلِكَ مِتًّا حَائِصًا مِنْ كُلِّ شَكٍّ وَشَبْهَةٍ
وَرِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ حَتَّى لَا نُرِيدَ بِهِ غَيْرَكَ وَلَا نَطْلُبَ بِهِ إِلَّا وَجْهَكَ .

اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْكُو إِلَيْكَ فَقْدَ نَبِيِّنَا ، وَعَيْبَةَ وَلِيِّنَا ، وَشِدَّةَ الزَّمَانِ عَلَيْنَا ، وَ
وُقُوعَ الْفِتَنِ بِنَا ، وَتَظَاهِرَ الْأَعْدَاءِ عَلَيْنَا ، وَكَثْرَةَ عَدُوِّنَا وَقِلَّةَ عَدَدِنَا .
اللَّهُمَّ فَافْرِجْ ذَلِكَ عَنَّا بِفَتْحِ مَنْكَ تُعَجِّلُهُ ، وَنَصْرِ مَنْكَ تُعِزُّهُ ، وَإِمَامِ عَدْلِ
تُظَهِّرُهُ لِإِلَهِ الْحَقِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَأْذَنَ لِوَلِيِّكَ فِي إِظْهَارِ عَدْلِكَ فِي عِبَادِكَ وَقَتْلِ
أَعْدَائِكَ فِي بِلَادِكَ حَتَّى لَا تَدْعَ لِلْجُورِ يَارَبِّ دَعَامَةً إِلَّا قَصَمْتَهَا وَلَا بَيْنِيَّةً إِلَّا
أَفْنَيْتَهَا ، وَلَا قُوَّةً إِلَّا أَوْهَمْتَهَا ، وَلَا رُكْنًا إِلَّا مَدَدْتَهُ وَلَا حَدًّا إِلَّا قَلَلْتَهُ ، وَلَا سِلَاحًا إِلَّا
أَكَلَلْتَهُ وَلَا رَايَةً إِلَّا نَكَسْتَهَا ، وَلَا شَجَاعًا إِلَّا قَتَلْتَهُ ، وَلَا جَيْشًا إِلَّا خَدَلْتَهُ ، وَأَرْمِهِمْ
يَارَبِّ بِحَجْرِكَ الدَّامِغِ وَأَصْرَبِهِمْ بِسَيْفِكَ الْقَاطِعِ ، وَبَأْسِكَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ
الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ، وَعَذِّبْ أَعْدَانِكَ وَأَعْدَاءَ دِينِكَ وَأَعْدَاءَ رَسُولِكَ بِيَدِ وَلِيِّكَ
وَأَيْدِي عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ .

اللَّهُمَّ اكْفِ وَلِيِّكَ وَحُجَّتَكَ فِي أَرْضِكَ هَوْلَ عَدُوِّكَ وَكَيْدَ مَنْ كَادَكَ ،
وَأَمْكْرَ مَنْ مَكَرَبَهُ ، وَاجْعَلْ دَائِرَةَ السُّوءِ عَلَى مَنْ أَرَادَ بِهِ سُوءًا ، وَأَقْطَعْ عَنْهُ مَا دَاتَهُمْ
وَأَرْعِبْ لَهُ قُلُوبَهُمْ ، وَزَلْزِلْ لَهُ أَقْدَامَهُمْ ، وَخَذِّمْ جَهْرَةً وَبَغْتَةً ، وَشَدِّدْ عَلَيْهِمْ
عِقَابَكَ ، وَأَخْزِهِمْ فِي عِبَادِكَ وَالْعَنَّهُمْ فِي بِلَادِكَ ، وَاسْكِنْهُمْ أَسْفَلَ نَارِكَ .

وَأَحْطَ بِهِمْ أَشَدَّ عَذَابِكَ ، وَأَصْلِهِمْ نَارًا وَأَوْحَشَ قَبُورَ مَوْتَاهُمْ نَارًا ، وَأَصْلِهِمْ حَرًّا نَارِكَا ، فَإِنَّهُمْ أَصَاغُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ وَأَذَلُّوا عِبَادَكَ .

اللَّهُمَّ وَأَحْيِ بُولِيكَ الْقُرْآنُ ، وَأَرِنَا نُورًا سَرْمَدًا لَا ظُلْمَةَ فِيهِ ، وَأَحْيِ بِهِ الْقُلُوبَ الْمَيِّتَةَ وَاشْفِ بِهِ الصُّدُورَ الْوَعْرَةَ ، وَاجْمَعْ بِهِ الْهَوَاءَ الْمُخْتَلِفَةَ عَلَى الْحَقِّ ، وَأَقِمْ بِهِ الْحُدُودَ الْمُعْطَلَةَ وَالْأَحْكَامَ الْمُهْمَلَةَ حَتَّى لَا يَبْقَى حَقٌّ إِلَّا ظَهَرَ ، وَلَا عَدْلٌ إِلَّا زَهَرَ ، وَاجْعَلْنَا يَا رَبِّ مِنْ أَعْوَانِهِ وَمُقَوِّى سُلْطَانِهِ وَالْمُؤْتَمِرِينَ لِأَمْرِهِ ، وَالرَّاضِينَ بِفِعْلِهِ ، وَالْمُسْلِمِينَ لِأَحْكَامِهِ ، وَمِثْنٌ لَا حَاجَةَ لَهُ بِهِ إِلَى التَّقِيَّةِ مِنْ خَلْقِكَ وَأَنْتَ يَا رَبِّ الَّذِي تَكْشِفُ السُّوءَ وَتُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاكَ ، وَتُسْجِى مِنْ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ، فَاكْشِفْ يَا رَبِّ الضُّرَّ عَنِّي وَلِيَّكَ ، وَاجْعَلْهُ خَلِيفَةً فِي أَرْضِكَ كَمَا صُمِنْتَ لَهُ .

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِنْ خُصَمَاءِ آلِ مُحَمَّدٍ ، وَلَا تَجْعَلْنِي مِنْ أَعْدَاءِ آلِ مُحَمَّدٍ ، وَلَا تَجْعَلْنِي مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ وَالنَّغِيظِ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، فَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ذَلِكَ فَأَعِزَّنِي وَاسْتَجِيزْ بِيكَ فَأَجِرْنِي .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنِي بِهِمْ فَائِزًا عِنْدَكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ .

ترجمہ :- اے اللہ تو مجھے اپنی معرفت عطا فرما۔ اگر تو نے اپنی معرفت عطا کی تو میں تیرے نبی کی معرفت حاصل نہ کر سکوں گا۔ اے اللہ اپنے نبی کی معرفت عطا کر اگر تو نے اپنے نبی کی معرفت عطا کی تو میں تیری جنت کی معرفت نہ حاصل کر سکوں گا۔ اے اللہ اپنی جنت کی معرفت عطا کر اگر تو نے اپنی جنت کی معرفت عطا کی تو میں اپنے دین سے گمراہ نہ جاؤں گا۔ اے اللہ مجھے جاہلیت کی موت نہ دے اور میرے قلب کو ہدایت کے بعد نہ پھیر۔ اے اللہ جب کہ تو نے میری ہدایت کی ان کی ولایت کی طرف جن کی اطاعت مجھ پر لازم ہے جو تیرے رسول کے بعد تیرے امر کے دلی ہیں ان پر اور ان کی اولاد پر درود۔ یہاں تک کہ میں مستسک ہو گیا ہوں تیرے امر کے دلی امیر المؤمنین و حسن و حسین و علی و محمد و جعفر و موسیٰ و علی و محمد و علی و حسن و محمد و علی و محمد ہوں۔ اے اللہ مجھے اپنے دین پر ثابت قدم رکھ اپنی اطاعت پر ہر وقت آمادہ رکھ اور میرے قلب کو اپنے ولی کے امر کے لئے نرم رکھ۔ مجھے بجا ان آرائشوں سے جن میں تو اپنی مخلوق کو مبتلا کرتا ہے۔ اور مجھے ثابت قدم رکھ اپنے ولی کے امر کی اطاعت پر جن کو تو نے خلق کی نظروں سے پوشیدہ رکھا ہے اور جو تیرے اذن سے مخلوق سے غائب ہیں۔ اور تیرے حکم کے منتظر ہیں اور تو عالم غیر معلم

ہے اس وقت کا جس میں تیرے دلی کے امور کی اصلاح ہوگی (اسباب ظہور درست ہوں گے) اور ظہور پر نور تیرے اذن سے ہوگا اور غیبت کا پردہ چاک ہوگا۔ پس تجھے ان امور میں صبر عطا فرما کہ میں ان چیزوں میں عملت نہ کروں جن کو تو نے مؤخر کیا ہے۔ ان میں تاخیر نہ کروں جن میں تو نے تعجیل پسند کی ہے اور نہ ان چیزوں کے پیچھے ہڑوں جن کو تو نے پوشیدہ رکھا ہے اور نہ ان امور میں جن کو تو نے مخفی رکھا بحث میں ہڑوں اور نہ تیری تدبیر میں حنازعہ کروں اور نہ (تیری قضا و قدر میں) کیوں اور کیسے کہوں اور نہ یہ کہ کیا وجہ ہے کہ صاحب امر ظہور نہیں کرتے؟ حالانکہ زمین ظلم و جور سے بھر گئی ہے اور میں نے لہنے تمام امور تیری طرف تفویض کر دیئے۔

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تجھے اپنے دلی امر کے جمال بے مثال کی زیارت کرا جبکہ ان کے احکامات نافذ ہوں گے (ان کی حکومت قائم ہوگی) میں جانتا ہوں کہ تیرے لئے ہی دلیل و قدرت و برحان و حجت، مشیت و ارادہ اور طاقت و قوت ہے۔ پس یہ لطف تجھ پر اور تمام مومنین پر فرما کہ ہم سب تیرے دلی امر کی زیارت کریں۔ تیرا ورود ان پر اور ان کی آل پر ہو۔ اس طرح ان کا فرمان ظاہر ہو۔ رہنمائی واضح ہو۔ وہ گمراہی سے ہدایت کرنے والے اور جہالت کی بیماری سے شفاء دینے والے ہیں۔ اے رب ان کے مشاہدہ کو آشکار کر ان کے ارکان (حکومت) کو مستحکم کر اور ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو ان کے جمال بے مثال کی زیارت کریں گے۔ اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی خدمت بجلائیں۔ اور ان کے دین پر مریں اور ان کے ذمے میں مشور ہوں۔

اے اللہ امام غائب کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھ جنہیں تو نے خلق کیا، عدم سے وجود میں لایا، پیدا کیا، پرورش کیا اور صورت دی اور امام کو بچا اس (شر) سے جو ان کے سامنے سے آئے اور پیچھے سے آئے۔ دائیں سے آئے بائیں سے آئے، اوپر سے آئے اور نیچے سے آئے۔ اپنی حفاظت میں رکھ کہ اس حفاظت میں آنے کے بعد کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور ان کے وجود کے ذریعہ رسول اور وصی رسول (کے احکامات) کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امام عصر کی عمر طویل فرما۔ ان کی حیات میں انصاف فرما اور اپنی اس ولایت و حکومت میں جو تو عطا کرے گا ان کی مدد فرما۔ ان پر لطف و کرم میں انصاف فرما۔ وہ ہادی، مجتہد اور امر حق کو قائم کرنے والے ہدایت یافتہ، پاک، صاحب تقویٰ، خالص، پاکیزہ، خوشنود، پسندیدہ، صابر، راہ خدا میں کوشاں اور شاکر ہیں۔

اے اللہ ہمارے یقین کو ان کی مدت غیبت کی طوالت اور ان کے خبر کے مستطیع ہو جانے کے باعث سلب نہ کر اور ان کی یاد اور ان کے انتظار اور ان پر ایمان اور ان کے ظہور کے بارے میں یقین کامل، ان کے لئے دعا اور ان پر ورود و سلام کے فریضہ کو ہمارے دل سے محو نہ کرنا یہاں تک کہ ہم ان کی طوالت غیبت کے باعث ان کے ظہور سے مایوس نہ ہو جائیں اور ہمیں امام عصر کے قیام کا اسی طرح یقین کامل ہو جیسے ہمیں تیرے رسول کے قیام کا یقین ہے۔ اور جیسے ان چیزوں کا جو وحی اور تمزیل کے ذریعہ (حضور اکرم تک) آئیں ہمارے قلوب میں (ان کے ظہور کے) ایمان

کو قوی فرما یہاں تک کہ تو ہمیں اس راہ پر چلا جو شاہراہ ہدایت بختِ عظمیٰ اور درمیانی راستہ ہے۔ ہمیں ان کی اطاعت کی طاقت دے اور ان کی اتباع پر ثبات قدم رکھ اور ہمیں ان کے لشکر اور ان کے دوستوں اور مددگاروں میں قرار دے اور ان لوگوں میں قرار دے جو ان کے ہر عمل سے راضی ہوں اور اس سعادت سے نہ ہمیں ہماری زندگی میں محروم رکھ نہ مرتے وقت یہاں تک کہ جب ہمیں موت آئے تو ہم اسی ایمان و یقین پر ہوں۔ نہ ہم شک کرنے والوں میں ہوں اور نہ عہد شکنی کرنے والوں میں نہ سستی عمل کرنے والوں میں اور نہ تکذیب کرنے والوں میں ہوں۔

اے اللہ ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کی نصرت فرما اور ان لوگوں کی نصرت فرما جو ان کی مدد کریں۔ انہیں چھوڑ دے جو انہیں چھوڑ دیں اور ان کو تباہ و برباد کر دے جو آئیناب سے دشمنی رکھیں اور ان کی تکذیب کریں۔ ان کے وجودِ اقدس سے دینِ حق کو ظاہر فرما۔ ان کے ذریعہ باطل کا خاتمہ فرما اور ان کے ذریعہ مومنین کو ذلت و خواری سے نجات دلا۔ شہروں کو ان کی برکت سے آباد فرما۔ ان کے ہاتھوں کفر کے جباروں کو قتل کر۔ مگر اہوں کے رؤسا کی طاقت کو توڑ اور ان کے ذریعہ جاہلین و کافرین کو ذلیل فرما اور ان کے ذریعہ منافقین، عہد شکنی کرنے والوں اور تمام مخالفوں، بے دینوں کو جو زمین پر مشرق و مغرب، فتنگی اور سمندر، بیابانوں اور پہاڑوں میں جہاں بھی رہتے ہوں تباہ و برباد کر دے یہاں تک کہ نہ ان کے شہر بچیں نہ ان کے آثار اور ان سے تیرے شہر پاک ہو جائیں۔ اور ان (کے ناپاک وجود) سے اپنے بندوں کے سینوں کو شفا بخش (کیونکہ ان کا وجود مرض کی علامت ہے) اور جو چیزیں تیرے دین سے مفادی گئی ہیں امامِ عصر کے ذریعہ ان کی تجدید کر اور تیرے وہ احکام جو بدل دیئے گئے ہیں اور تیری وہ سنت جس میں تبدیلی کی گئی ہے، امامِ عصر کے وسیلہ سے ان کی اصلاح فرما یہاں تک کہ امام کے وجود کی برکت سے تیرا دین پھر سے تروتازہ اور صحیح و کامل ہو جائے۔ بغیر کجی اور بدعت کے قابل عمل ہو جائے اور ان کی حکومت عدل کے باعث کفر کی آگ بجھ جانے کیونکہ (امامِ عصر) تیرے وہ بندے ہیں جن کو تو نے اپنے لئے مخصوص کر لیا ہے۔ اور اپنے نبی کی نصرت کے لئے پسند کیا اور اپنے علم کے لئے جن بنا اور انہیں گناہوں سے محفوظ رکھا اور ہر قسم کے میوہ سے مبرا رکھا اور اسرارِ غیب سے ان کو مطلع کیا اور ان پر اپنی نعمتیں نازل کیں۔ ان کو ہر رجس و نجاست سے پاک رکھا۔ اور ہر طرح کے جہل اور عصبیان سے ظاہر رکھا۔

اے اللہ درود بھیج ان پر اور ان کے آبا۔ ائمہ طاہرین پر اور ان کے برگزیدہ شیعوں پر اور ان کی امید و آرزو کو کامل فرما۔ اور ہماری اس دعا کو ہر شک و شبہ اور ریا کاری و خود نمائی سے پاک رکھ۔ یہاں تک کہ ہم تیرے علاوہ کسی غیر کا ارادہ نہ کریں اور صرف تیری رضا و خوشنودی طلب کریں۔

اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں اس بات کی کہ ہمارے درمیان ہمارے نبی بھی نہیں ہیں۔ اور ہمارے سرپرست بھی نجات میں ہیں۔ ہم زمانہ کی سختیوں اور آزمائشوں میں گھرنے ہوئے ہیں۔ دشمن ہم پر غالب آگئے

ہیں۔ ہمارے دشمنوں کی کثرت ہے۔ ہماری تعداد کم ہے۔

پس اے اللہ جلد اپنی طرف سے ہمیں ان معصائب سے نجات دلا اور امام عدل کے ذریعہ ہمیں غلبہ عطا فرما۔ اے معبود برحق ہماری دعا قبول کر۔

اے اللہ ہم تجھ سے سوائی کرتے ہیں کہ تو اپنے ولی کو اجازت دے کہ وہ تیرے بندوں میں تیرے عدل کا اظہار کریں اور تیرے دشمنوں کو قتل کریں جہاں تک کہ ظلم کا کوئی داعی باقی نہ رہے۔ اے پروردگار ظلم کے ستون ڈھا دے اور ظلم کی بنیادوں کو فنا کر دے، ان کے ارکان کو مہنڈم کر دے ان کی تلوار کو کند کر دے۔ ان کے اسلحہ کو ناکارہ کر دے۔ ان کے تھنڈے کو نیچا کر دے۔ ان کے لڑنے والوں کو قتل کر دے۔ ان کے لشکر میں پھوٹ ڈال دے۔ اے رب سخت ہتھروں کی ان پر بارش کر دے۔ اپنی کاٹ دار تنوار سے ان پر ضرب لے۔ اور اپنے عذاب کی شدت کو قوم بجرین سے نہ پھیر، اپنے اور اپنے ولی اور اپنے رسول کے دشمنوں پر اپنے ولی اور مومن بندوں کے ہاتھ سے عذاب نازل فرما۔

اے پروردگار تو اپنے ولی اور اپنی بخت کی زمین پر کفایت فرما۔ ان کے دشمنوں کے خوف و ہراس سے ان کے حینوں سے اور جو ان کے ساتھ مکرو فریب کرے تو اس مکرو فریب کا توڑ کر۔ جو امام قائم کے ساتھ بدی کا ارادہ کرے تو اس کو بدی کے دائرے میں قید کر دے۔ ان کے وجود مبارک سے زمانہ کے فتنے کو دور رکھ۔ اور دشمنوں کے دلوں پر ان کا رعب و وہب ڈال۔ ان کے دشمنوں کے اقدام کو متزلزل کر دے۔ ان کے دشمنوں کو سرگردان چھوڑ دے اور ان پر اپنا شدید عذاب نازل فرما۔ اپنے بندوں میں ان کو ذلیل و سوا کر۔ اپنے شہروں میں ان کے لئے لعنت قرار دے۔ اور جہنم کے انتہائی پست مقام میں ان کو ڈال دے اور ان پر اپنا بدترین عذاب نازل فرما۔ ان کو آگ سے باندھ دے اور ان کی اموات کی قبور کو آگ سے بھر دے اور انہیں آتش دوزخ سے باندھ دے۔ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے نماز کو حقیر جانا شہادت کا اہتمام کیا اور تیرے بندوں کو ذہین کیا۔

اے ابن قرآن کو اپنے ولی کے وسیلے سے زندہ کر دے اور اس کے نور مبارک کو جو نور دائمی ہے اور جس میں تاریکی نہیں ہوتی ہمیں دکھا۔ ان کے ذریعہ مردہ دلوں کو زندہ کر۔ کہنے پروردگار کو شفا عطا فرما۔ اور ان کے ذریعہ مختلف نوابشات نفسانی کو حق پر جمع فرما۔ ان کے ذریعہ سے معص شہداء و مردوں اور متروک اہم کو قائم فرما جہاں تک کہ حق ظاہر اور عدل قائم ہو جائے۔ اے پروردگار ہم کو ان لوگوں میں قرار دے جو ان کی مدد کریں۔ ان کی حکومت کے لئے باعث تقویت ہوں ان کے احکامات کے فرمان بردار اور ان کے ہر فعل سے راہی، ان کے احکام کو تسلیم کرنے والے ہوں اور ان لوگوں میں سے ہوں جن کو تیری متوق سے تقیہ کی ضرورت نہ ہوگی۔ اے پروردگار تو ہی ہر نفسان سے چاہنے والا ہے۔ اور منظر کی دعا قبول کرتا ہے۔ عظیم کرب و تکلیف سے نجات دلانے والا ہے۔ پس اے رب اپنے

دی سے ہر طرف کروٹے۔ اور ان کو زمین پر اپنا خلیفہ قرار دے جیسا کہ تو نے ان کے لئے فیصلہ فرمایا ہے۔
اس پر رد دگاڑھے آل محمد سے اٹھکڑا کرنے والوں میں قرار نہ دے اور نہ ان کے دشمنوں میں قرار دے اور مجھے آل
محمد پر غضبناک ہونے والوں اور عنفہ کرنے والوں میں قرار نہ دے۔ اے مالک ان باتوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔
پس مجھے پناہ دے۔ تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ میری فریاد سن لے۔

اس اللہ درود بھیج محمد و آل محمد پر اور مجھے ان کے ساتھ دنیا و آخرت میں کامیاب فرما اور اپنی بارگاہ میں مقرب قرار

دے۔

۳۳۔ بیان کیا مجھ سے ابو محمد حسن بن احمد مکتب نے انہوں نے کہا کہ جس سال شیخ علی بن محمد سمیری توحس اللہ
روحہ کا انتقال ہوا میں مدینہ میں تھا۔ ان کی وفات سے چند دن پہلے جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے امام
عصر کی توثیح تمام لوگوں کو دکھائی جس میں تحریر تھا "بسم اللہ الرحمن الرحیم اے علی بن محمد سمیری۔ اللہ
تہاری وفات پر جہدے بھائیوں کو صبر کرنے پر اہم عظیم عطا کرے۔ اب سے چھ دن بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا۔ لہذا
اپنے امور کو مکمل کر لو اور آئندہ کے لئے اپنا وصی کسی کو مقرر نہ کرنا جو تمہاری وفات کے بعد تمہارا قائم مقام ہو۔ اس لئے
کہ میری غیبت تامہ واقع ہو چکی ہے۔ اور جب اللہ کا حکم ہوگا اسی وقت ظہور ہوگا اور یہ ایک طویل مدت کے بعد ہوگا اس
عرصے میں لوگوں کے دل سخت ہو جائیں گے۔ زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی۔ ہمارے شیعوں میں سے کچھ ایسے ہوں گے
جو مجھے دیکھنے کا دعویٰ کریں گے۔ مگر جو غرور سنائی اور صدائے آسمانی کے پیدا ہونے سے قبل مجھے دیکھنے کا دعویٰ کرے
وہ تمہارا اور مفتی ہے۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پس میں نے اس توثیح کو نقل کر لیا اور
ان کے پاس سے چھاپا۔ نپٹے روز پھر گیا تو وہ جانمندی سے عالم میں تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کے بعد آپ کا جانشین کون
ہوگا؟ فرمایا اب یہ امر اللہ کے پاس رہے گا۔ اور وہ اپنے امر کو پورا کر کے رہے گا۔ اور وہ انتقال کر گئے۔ یہ آخری کلام تھا جو
ان سے سنا گیا۔

۳۵۔ بیان کیا مجھ سے ابو جعفر محمد بن علی بن احمد بن بزرگ بن عبداللہ بن منصور بن یونس بن بزرگ، امام
جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی نے ان سے محمد بن حسن صیرفی دورقی نے جو شیخ کے رہنے والے تھے کہ ایک سال میں
نے حج کا قصد کیا۔ میرے پاس کچھ مال نام عصر کا تھا جس میں کچھ مال سونے اور کچھ چاندی کا تھا۔ میں نے اس تمام مال
کو پگھل کر سونے اور چاندی کی ڈنیاں بنالیں۔ یہ سارا مال مجھ کو شیخ ابو القاسم حسین بن روح کو دینا تھا۔ جب میں
سرخس پہنچا تو ایک رشتیلے مقام پر اپنا غیر نصب کیا اور ان سونے اور چاندی کی ڈنیوں کو نکال کر دیکھنے لگا۔ اسی اثنا
میں ایک ذلی ریت میں گر گئی جس کا نم مجھے نہ ہوسکا۔ جب میں بعد ان پہنچا تو ان ڈنیوں کو شمار کیا۔ ان میں ایک کمر
تھی جس کا وزن ایک سو تین یا تیرا انا سے مشابہ تھا۔ میں نے اپنے مال سے ہی وزن کی ایک ذلی ملادی۔ جب میں

مدینہ پہنچا تو شیخ ابو القاسم حسین بن روح قدس اللہ روحہ کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ تمام ذلیاں ان کو پیش کر دیں۔ انہوں نے تمام ذلیاں لے لیں اور اس ذلی کو جو میں نے اپنے مال سے شامل کی تھی نکال کر مجھے واپس کر دیا اور بولے: یہ ہماری ذلی نہیں ہے۔ ہماری ذلی تو تم نے سرخس میں گم کر دی ہے جب تم نے رست میں خیمہ لگایا تھا۔ لہذا جاؤ اور اسی مقام پر جہاں پہلے قیام کیا تھا تلاش کر دو وہ مل جائے گی وہ لے کر واپس آؤ لیکن ہماری ملاقات مجھ سے نہ ہو سکے گی۔

میں واپس سرخس گیا اور اسی مقام پر جہاں پہلے قیام کیا تھا اترا۔ رست میں ذلی تلاش کی تو وہ مل گئی اس پر سبز نگہاں آگ آئی تھی۔ اسے لیکر میں واپس اپنے شہر آیا پھر جب میں نے حج ادا کیا اور مدینہ پہنچا تو شیخ ابو القاسم حسین بن روح کا انتقال ہو چکا تھا۔ بتناچہ میں نے ابوالحسن سمریٰ سے ملاقات کی اور وہ ذلی ان کو دے دی۔

۳۶۔ بیان کیا مجھ سے ابو جعفر محمد بن علی بن احمد بزرگی نے کہ میں نے سرمن رانے میں ایک مسجد میں جو مسجد زبیدہ کے نام سے مشہور تھی اور بازار کے راستہ پر واقع تھی ایک جوان کو دیکھا وہ ہاشمی موسیٰ بن عیسیٰ کا فرزند تھا۔ (ابو جعفر نے اس کے نام کا ذکر نہیں کیا)۔ میں جب نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو اس نے مجھ سے کہا تم قتی ہو یا رازی؟ میں نے کہا میں قتی ہوں اور کوفہ میں مسجد امیر المؤمنین کا مجاور ہوں۔ اس نے کہا کیا تم کوفہ میں موسیٰ بن عیسیٰ کا گھر جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا میں ان کا فرزند ہوں۔ وہ میرے والد تھے۔ ان کے دو بھائی تھے۔ بڑا بھائی صاحب حیثیت تھا جبکہ چھوٹا غریب تھا۔ پس ایک دن چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے گھر گیا اور چھ سو دینار چرالے گیا۔ بڑے بھائی نے کہا کہ میں حضرت امام حسن عسکری کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور ان سے کہوں گا کہ وہ چھوٹے بھائی سے کہہ کر میرا مال واپس دلا دیں کیونکہ وہ شیریں کلام ہیں۔ جب صبح ہوئی تو اس کا ارادہ بدل گیا اور اس نے سوچا کہ میں بادشاہ کے صاحب کے پاس جا کر اس کی شکایت کرتا ہوں۔ پس وہ حاجب کے پاس گیا وہ فرد (ایک قسم کا کھیل) کھیلنے میں مشغول تھا۔ بڑے بھائی کا بیان ہے کہ وہ اس کے فارغ ہونے کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ اتنے میں اس کے پاس حضرت امام حسن عسکری کا آدمی آیا اور بولا: تمہیں امام بلا رہے ہیں۔ پس وہ حضرت امام حسن عسکری کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا: اول شب میں تجھ کو ہم سے حاجت تھی پھر وقت سحر تیرا ارادہ بدل گیا۔ پس گھر واپس جاؤ وہ صندوقچہ جس میں تمہارا مال تھا واپس تمہارے گھر آگیا ہے اور اپنے بھائی پر شک نہ کرو۔ اس کے ساتھ اچھے طریقہ سے پیش آؤ اور اس کو بھی کچھ مال دے دو۔ اگر تم دینا نہیں چاہتے ہو تو اس کو ہمارے پاس بھیج دو ہم دے دیں گے۔ پس جب میں گھر کی طرف لوٹ رہا تھا تو رستے میں مجھے غلام ملا جس نے بتایا کہ مال کا صندوقچہ مل گیا ہے۔

ابو جعفر بزرگی کہتے ہیں کہ دوسرے دن وہ ہاشمی مجھے اپنے گھر لے گیا اور میری ضیافت کی۔ پھر اپنی کنیز کو آواز دی: اے غزال! (یا اے زلائ!)۔ جب کنیز آئی تو اس سے کہا: اپنے آقا کو مولود اور سرمہ کی سلائی والا قصہ سناؤ۔ کنیز بولی: ہمارا ایک بچہ آنکھوں کی تکلیف میں ہتلاہ تھا۔ میری ماکن نے مجھ سے کہا کہ تم امام حسن عسکری کے گھر جاؤ اور جناب حکیمہ

خاتون سے کہنا کہ وہ کوئی ایسی چیز عنایت فرمادیں جس کے استعمال سے ہمارا یہ بچہ سندرسٹ ہو جائے پس میں امام حسن عسکری کے گھر گئی اور وہی کچھ کہا جو میری مالکن نے مجھے بتایا تھا۔ حکیمہ خاتون نے فرمایا: میں تم کو وہ سلائی دیتی ہوں جس سے میں نے کل شب پیدا ہونے والے بچہ یعنی پسر حسن عسکری کے سرمہ لگایا تھا۔ پس میں وہ سلائی لے کر آئی اور اپنی مالکن کو دے دی۔ مالکن نے جب اس سلائی سے بچہ کی آنکھوں میں سرمہ لگایا تو وہ صحت یاب ہو گیا اور ایک عرصہ تک وہ سلائی ہمارے پاس رہی اور ہم اس کی برکت سے شفا پاتے تھے پھر وہ ہم سے کھو گئی۔

ابو جعفر بزرگی کہتے ہیں کہ مسجد کوفہ میں میری ملاقات ابو الحسن بن برمون برسی سے ہوئی ہیں نے اس ہاشمی کا یہ قصہ بیان کیا تو اس نے کہا کہ مجھ سے بھی بالکل یہی قصہ اس ہاشمی نے بیان کیا تھا نہ زیادہ نہ کم۔

۳۷۔ بیان کیا مجھ سے حسین بن علی بن محمد قتی المعروف بہ ابی علی بغدادی نے کہ میں بخارا میں تھا کہ مجھے ابن جواد شیر نے سونے کی دس ڈیاں دیں اور کہا کہ انہیں مدینہ لے جاؤ اور شیخ ابو القاسم حسین بن روح قدس اللہ روحہ کو دے دو۔ میں انہیں لے کر آمو یہ پہنچا تو ان میں سے ایک ڈلی مجھ سے گم ہو گئی جس کا مجھے علم نہ ہو سکا۔ جب مدینہ پہنچا اور ان ڈیوں کو شمار کیا تو معلوم ہوا ایک ڈلی کم ہے۔ میں نے لتنے ہی وزن کی ایک ڈلی خرید کر ان میں شامل کر دی پھر ابو القاسم حسین بن روح کے پاس پہنچا اور ان ڈیوں کو ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ انہوں نے ان ڈیوں پر نظر ڈالی اور ایک ڈلی کی طرف اشارہ کر کے کہا: یہ ڈلی تم نے خرید کر شامل کی ہے اس لئے اسے اٹھا لو اور وہ گم شدہ ڈلی ہمارے پاس پہنچ گئی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے لپٹے پاس سے ایک ڈلی نکالی۔ میں نے دیکھا تو واقعی وہ ڈلی وہی تھی جو غائب ہو گئی تھی۔

حسین بن علی بن محمد المعروف بہ ابی علی بغدادی (راوی) مزید بیان کرتے ہیں کہ اسی سال میں نے مدینہ میں ایک عورت کو دیکھا جو امام عصر کے وکیل کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ کسی قتی نے اسے بتایا کہ ابو القاسم حسین بن روح آپ کے وکیل ہیں چنانچہ وہ حسین بن روح کے پاس پہنچی۔ اس وقت میں ان کے پاس موجود تھا۔ وہ عورت بولی: اے شیخ یہ بتائیں کہ میرے پاس کیا ہے؟ حسین بن روح نے کہا کہ جو کچھ بھی تیرے پاس ہے وہ لے جا کر دریائے دجلہ میں پھینک آ۔ پھر بتاؤں گا کہ تیرے پاس کیا ہے۔ وہ عورت گئی اور جو مال اس کے پاس تھا دریائے دجلہ میں پھینک آئی۔ پھر واپس ابو القاسم روحی قدس اللہ روحہ کی خدمت میں آئی۔ حسین بن روح نے اپنی کنیز کو آواز دے کر کہا کہ وہ ڈبہ لے کر آؤ۔ کنیز ایک ڈبہ لے کر آئی۔ آپ نے اس عورت سے کہا: یہ ڈبہ تیرے پاس تھا جسے تو نے دریائے دجلہ میں پھینک دیا تھا۔ اب تو بتائے گی کہ اس میں کیا ہے یا میں بتاؤں؟ اس نے کہا: آپ ہی بتائیے۔ فرمایا: اس ڈبہ میں سونے کے کنگن کا ایک جوڑا ہے۔ ایک بڑی ہالی ہے جس میں جواہرات جڑے ہیں اور دو چھوٹی چھوٹی بالیاں ہیں۔ ان میں بھی جواہرات ہیں۔ دو انگلیں ہیں جن میں سے ایک میں فیروزہ اور دوسری میں عقیق ہے۔ ایسا ہی ہے جیسا ذکر

کیا گیا اور اس میں کسی شے میں کمی نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے ڈبہ کھولا اور اس عورت کی طرف بڑھایا۔ عورت نے کہا: یہ واقعی وہی ڈبہ ہے جسے میں دریائے ہند میں پھینک کر آئی ہوں۔ دلیل کی صداقت دیکھ کر خوشی کے مارے میں اور وہ عورت بے ہوش ہو گئی۔

اس واقعہ کو بیان کر کے حسین بن علی (راوی) نے کہا میں قیامت کے روز اللہ عزوجل کے سامنے گواہی دوں گا کہ جو کچھ بیان کیا ہے اس میں نہ کوئی زیادتی کی ہے اور نہ کمی۔ اور ائمہ اشعری علیہم السلام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو کچھ بیان کیا وہ سچ تھا نہ اس میں کچھ بڑھایا نہ کمی کی۔

۳۸۔ بیان کیا مجھ سے ابو الفرج محمد بن مظفر بن نمنین مصری الفقیہ نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے ابو الحسن محمد بن احمد داؤدی نے ان سے ان کے والد نے کہ میں ابو القاسم حسین بن روح قدس اللہ روحہ کے پاس موجود تھا۔ ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ حضرت عباسؑ نے حضور اکرمؐ سے کہا "آپؐ کے چچا ابو طالبؑ جمل کے حساب سے اسلام لانے اور انہوں نے تریسٹھ گریں لپٹے ہاتھ سے لگائیں۔" فرمایا "اس سے مراد ہے وہ اللہ کو احد اور جو او مانستے ہیں۔"

اس کی تفصیل یہ ہے کہ الف کا ایک (ا)، لام (ل) کے تین، حاء کے پانچ، احد کے الف کا ایک (ا)، حاء کے آٹھ، وال (د) کے چار۔ (ج) کے تین، واؤ (د) کے چھ، الف کا ایک (ا)، وال (د) کے چار۔ پس اس طرح کل تریسٹھ ہوتے۔

۳۹۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن احمد شیبانی، علی بن احمد بن محمد دقاق، حسین بن ابراہیم بن احمد بن ہشام مؤدب اور علی بن عبداللہ وراق رضی اللہ عنہم نے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابو الحسن محمد بن جعفر اسدی نے بیان کیا کہ شیخ ابو جعفر محمد بن عثمان قدس اللہ روحہ کے ذریعہ امام عصرؑ نے میرے مرید کا جواب دیا۔ "اس بات کے بارے میں کہ تم نے پوچھا ہے کہ طلوع و غروب شمس کے دوران جیسا کہ تم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ سورج طلوع کرتے ہوئے شیطان کے دونوں سینگوں سے نکلتا ہے اور غروب کرتے ہوئے اس کے دونوں سینگوں میں ڈوب جاتا ہے تو ایسی صورت میں شیطان کی ناک کو زمین پر رگڑنے میں نماز سے انفسل اور برتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ پس اس وقت نماز ادا کرو اور شیطان کی ناک زمین پر رگڑو۔ اور جو تم نے پوچھا ہے کہ ایک شخص کے پاس چہار مال تھا اور اس نے ہم تک نہیں پہنچایا پھر وہ محتاج ہو گیا۔ پس جو مال قطعاً باقی نہیں رہا تو اس میں اس کا مالک مختار ہے (کہ چھوڑ دے) اور جتنا مال باقی رہا اس کے لئے مالک کو کوئی اختیار نہیں خواہ اس کا مالک اس کی ضرورت محسوس کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، اس کا محتاج ہو یا اس سے مستغنی ہو۔"

"ان لوگوں کے بارے میں جو تم نے پوچھا ہے کہ وہ ہمارے اموال (خمس) میں سے جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہوتا

ہے اس کو بلا اجازت تصرف میں لاتے ہیں تو جو ایسا کرتا ہے وہ ملعون ہے اور قیامت کے دن ہم اس کے دشمن ہوں گے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: جو کوئی میری عزت کے مال کو اپنے لئے حلال قرار دے وہ میرے نزدیک اور ہر نبی کے نزدیک ملعون ہے پس جو ہم پر ظلم کرے گا وہ ظالمین کے ساتھ محشور ہوگا اور ان کے لئے اللہ کی لعنت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **الا لعنة الله على الظالمين** ○

• اور چہارا یہ سوال کہ اگر ایک مولود کی نختہ ہونے کے بعد دوبارہ وہ کھال نکل آئے تو کیا دوبارہ نختہ کرائی جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ واجب ہے کہ اس کی وہ کھال کاٹ دی جائے۔ جب ایک غیر نختہ شدہ شخص زمین پر پیشاب کرتا ہے تو زمین چالیس دن تک خدا سے فریاد کرتی ہے۔

• چہارا یہ سوال کہ آگ، تصویر یا چراغ سلٹنے رکھ کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ تو اس کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ پس (یاد رکھو کہ) وہ شخص جو بیت پرستوں یا آتش پرستوں کی اولاد نہیں ہے اس کے لئے اس حالت میں کہ سامنے تصویر آگ یا چراغ ہو نماز جائز ہے۔ اور وہ شخص جو بیت پرستوں یا آتش پرستوں کی اولاد ہے اس کے لئے جائز نہیں۔

" اور چہارا پوچھنا اس جائیداد کے متعلق جو ہماری ہے کہ کیا اس عمارت میں نہرنا جائز ہے اور اس جائیداد کے ذریعے سے خرچ ادا کرنا مناسب ہے اور جو شخص ہمارے تقرب اور اجر کے لئے اس موضع میں داخل ہوتا ہے تو اس کی مہمانداری کے لئے اخراجات کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب دوسروں کے اموال کو ان کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں ہے تو ہمارے اموال کو استعمال کرنا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے۔ جب کہ ہماری اجازت حاصل نہ کی گئی ہو۔ پس جو شخص ہماری اجازت کے بغیر ہمارے اموال کو استعمال کرے گا تو گویا اس نے اسے حلال کیا جسے ہم نے اس پر حرام کیا تھا۔ اور جس نے ہمارے اموال میں سے کوئی شے کھائی تو اس نے اپنے پیٹ میں آگ بھری اور عنقریب دہکتی ہوئی آگ میں جائیگا۔"

یہ سوال کہ ایک شخص نے اپنی جائیداد ہمارے لئے مخصوص کی اور اس کی دیکھ بھال کے لئے ایک متولی مقرر کیا جو اس عمارت کی دیکھ بھال کرے، اس کی چوکیداری کرے اور اس کا حساب کتاب رکھے اور جو آمدنی اس جائیداد سے ہو اس میں سے مقرر حصہ بطور اجرت وہ لے لے اور باقی امام کی خدمت میں بھیج دے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس متولی کے لئے اس جائیداد سے اتنا حصہ جو اس جائیداد کو وقف کرنے والے نے مقرر کیا ہے لیتا جائز ہے۔ اس متولی کے علاوہ کسی شخص کے لئے جسے وقف کرنے والے نے مقرر نہیں کیا ہے کچھ بھی لینا جائز نہیں ہے۔

تم نے ہماری جائیداد میں پھلوں کے بارے میں سوال کیا ہے کہ کوئی راہ گیر اگر اس میں سے کھالے تو کیا یہ اس کے لئے جائز ہوگا؟ تو اس کا کھانا تو اس کے لئے حلال ہے لیکن لے جانا حرام ہے۔

۵۰ - بیان کیا مجھ سے میرے والد اور محمد بن حسن بن احمد بن ولید نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے سعد بن عبد اللہ نے ان سے احمد بن محمد بن عینی نے ان سے محمد بن ابی عمیر نے ان سے علی بن ابی حمزہ نے ان سے ابو بصیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ آسان ترین سبب جس کے باعث آدمی دوزخ کی آگ میں جٹایا جائے گا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: جو شخص یتیم کے مال سے ایک درہم بھی کھائے گا اور ہم (آل محمد) یتیم ہیں۔

اس کتاب کے مصنف نے کہا کہ یہاں یتیم کا مطلب ہے وہ شخص جس کو اس کی قوم نے چھوڑ دیا ہو۔ اسی معنی میں رسول اللہ کو یتیم کہا جاتا تھا اور آپ کے بعد تمام ائمہ اسی معنی میں یتیم ہیں۔ اور وہ آیت جس میں یتیموں کا مال ظلم سے کھانے کی ممانعت ہے انہی حضرات کے بارے میں ہے۔ ان کے بعد اس کا اخلاق عام یتیموں پر ہوگا۔ اور دوسرے یتیم کا نام اس لئے دوسرے یتیم رکھا گیا کہ وہ بھی اپنے ہم جنسوں سے مختلف ہوتا ہے۔

۵۱ - بیان کیا مجھ سے ابو جعفر محمد بن محمد فرمائی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے ابو علی ابن ابی المسین اسدی نے ان سے ان کے والد نے کہا کہ شیخ ابو جعفر محمد بن عثمان عمری قدس اللہ روحہ سے ایک توحیح امام زمانہ وارد ہوئی جس کے شروع میں سوال نہیں لکھا تھا۔ توحیح کے الفاظ یہ تھے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ " اللہ ، تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے ہمارے مال میں سے ایک درہم کو بھی اپنے لئے جائز قرار دیا۔ " ابوالحسن اسدی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ مال امام میں سے ایک درہم بھی جس شخص نے بغیر کھائے ہوئے بھی جائز سمجھا تو وہ اس کے لئے حلال نہیں ہے اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ ہر اس شخص کے لئے ہے جو اس کو حلال سمجھتا ہے پس یہ اس کے لئے حرام ہے۔ تو میں یہ بھی سوچتا رہا کہ جنت علیہ السلام کو اپنے غیر پر کون سی فضیلت حاصل ہوئی؟ پس قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد کو حق کے ساتھ بغیر بنا کر بھیجا۔ جب میری نظروں سے امام کی ایک اور توحیح گزری تو جو کچھ میں نے دل میں سوچا تھا اس توحیح میں اس کو پایا اور جو کچھ میں نے سوچا تھا وہ کافور ہو گیا۔ اس دوسری توحیح کے الفاظ یہ تھے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ " اللہ تعالیٰ ، ملائکہ اور تمام انسانوں کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے ہمارے مال سے ایک درہم بھی حرام کھایا۔ "

ابو جعفر محمد بن فرمائی کہتے ہیں کہ ابو علی بن حسین اسدی نے یہ توحیح ہمیں دکھائی اور ہم نے خود اسے پڑھا۔

۵۲ - بیان کیا مجھ سے محمد بن عصام کلینی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن یعقوب کلینی نے ان سے محمد بن یحییٰ عطار نے ان سے محمد بن عیسیٰ بن حمید نقطینی نے انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو ایک سوال لکھا کہ اگر کسی شخص کے پاس کچھ مال امام (غمس) ہے اسی دوران وہ خود محتاج ہو جائے تو کیا وہ یہ مال اپنے استعمال میں لاسکتا ہے۔ یا یہ اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو بھجوائے؟ آپ نے جواب میں تحریر فرمایا جب تک

وہ مال اس کے ہاتھ میں ہے تو اس کو اختیار ہے۔ اگر ہمارے پاس پہنچ جائے گا تو پھر ہم اس کی احتیاج کو دیکھ کر ہمدردانہ رویہ اختیار کریں گے۔

طول عمر کے بارے میں

باب (۳۶)

۱۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن حسن بن احمد بن ولید نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن حسن صفار نے ان سے احمد بن محمد بن عیسیٰ نے ان سے علی بن حکم نے ان سے ہشام بن سالم نے ان سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت نوح دو ہزار پانچ سو سال حیات رہے۔ ان میں آٹھ سو پچاس سال قبل بعثت تھے۔ نو سو پچاس سال بعد بعثت۔ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ طوفان کے بعد آپ سفینے سے اترے اور آپ کی اولاد زمین پر رہائش پزیر ہوئی تو اسے اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رہنے۔

پھر ایک دن جب آپ دھوپ میں کھڑے تھے تو ملک الموت علیہ السلام آئے اور کہا: السلام علیک۔ آپ نے جواب سلام دیا اور پوچھا اے ملک الموت کیسے آتا ہوا۔ وہ بولے: آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ آپ نے کہا: اتنی اجازت دو کہ دھوپ سے نکل کر سائے میں چلا جاؤں۔ ملک الموت نے کہا: ٹھیک ہے نوح علیہ السلام سائے میں آئے تو فرمایا اے ملک الموت مجھے اپنی زندگی اتنی ہی لگتی ہے جتنی دھوپ سے سائے میں آنے کا دورانیہ۔ اب تمہیں جیسا حکم ہوا ہے ویسا کرو۔ پس انہوں نے حضرت نوح کی روح قبض کر لی۔

۲۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن علی ماجیلوی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن یحییٰ عطار نے ان سے حسین بن حسن بن ابان نے ان سے محمد بن اردم نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے سعید بن جراح نے ان سے ایوب بن راشد نے ان سے ایک شخص نے بیان کیا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قوم نوح میں ہر فرد کی عمر تین سو سال ہوتی تھی۔

۳۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے احمد بن ادریس اور محمد بن یحییٰ عطار نے ان دونوں نے کہا کہ بیان کیا ہم سے محمد بن احمد بن یحییٰ نے ان سے محمد بن یوسف تمیمی نے ان سے جعفر بن محمد نے ان سے ان کے والد نے ان سے ان کے جد بطیم السلام نے ان سے رسول اکرم نے ارشاد فرمایا: ابوالمشر آدم نو سو تیس سال زندہ رہے۔ حضرت نوح نے دو ہزار چار سو پچاس سال زندگی پائی۔ حضرت ابراہیم نے ایک سو پچتر سال۔ حضرت اسماعیل نے ایک سو بیس سال۔ حضرت اسحاق نے ایک سو اسی سال۔ حضرت یعقوب نے ایک سو بیس سال۔ حضرت یوسف نے ایک سو بیس سال۔ حضرت موسیٰ نے ایک سو چھبیس سال۔ حضرت ہارون نے ایک سو چھیتر سال۔

سال - حضرت داؤد نے ایک سو سال جس میں پچاس سال حکومت کا دور تھا اور حضرت سلیمان نے سات سو بارہ سال زندگی پائی -

۴- بیان کیا مجھ سے محمد بن علی بن بشار قزوینی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے ابو الفرج مظفر بن احمد نے انہوں نے کہا بیان کیا مجھ سے محمد بن جعفر کوئی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن اسماعیل برکی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے حسن بن محمد صالح ہزار نے انہوں نے کہا کہ میں نے امام حسن عسکریؑ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے بعد میرا بیٹا قائم ہوگا - جس کی طویل عمر اور غیبت کے ذریعے سنن انبیاء علیہم السلام جاری ہوگی - اس کی غیبت اتنی طویل ہوگی کہ لوگوں کے دل سخت ہو جائیں گے اور کوئی دین پر ثابت قدم نہ رہے گا سوائے ان لوگوں کے جن کے قلوب پر اللہ نے ایمان لکھ دیا اور جن کے روح القدس سے مدد کی گئی ہے -

۵- بیان کیا مجھ سے محمد بن احمد شیبانی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن ابو عبد اللہ کوئی نے ان سے اسوئی بن عمران نضی نے ان سے ان کے چچا حسین بن یزید نوفلی نے ان سے حمزہ بن حمران نے ان سے ان کے والد حمران بن اعین نے ان سے سعید بن جبیر نے انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت امام زین العابدینؑ کو فرماتے ہوئے سنا کہ قائم کے لئے نوح کی سنت ہے اور وہ سنت طول عمر ہے -

۶- بیان کیا مجھ سے میرے والد نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے علی بن ابراہیم بن ہاشم نے ان سے ان کے والد نے ان سے محمد بن ابی حمیر نے ان سے ہشام بن سالم نے ان سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت داؤد کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک دن حضرت داؤد گھر سے نکلے - وہ زور کی تلاوت کر رہے تھے اور جب وہ زور کی تلاوت کرتے تو کوئی پہاڑ، کوئی پتھر اور کوئی پرندہ ایسا نہ ہوتا جو ان کے ساتھ تلاوت نہ کرتا ہو - یہاں تک کہ آپ ایک پہاڑ کے قریب پہنچے - جس پر ایک عابد شخص حرقیل نامی رہتا تھا - جب اس نے پہاڑ، درخت اور پرندوں کو ہم آواز ہو کر تلاوت کرتے ہوئے سنا تو سمجھ گیا کہ حضرت داؤد آئے ہیں - حضرت داؤد نے کہا کہ اے حرقیل مجھے بھی اجازت دو کہ میں تمہارے پاس اوپر آؤں - اس نے کہا: ہرگز نہیں - یہ جواب سن کر حضرت داؤد رونے لگے - خدا نے اس عابد کو وحی کی کہ داؤد کو اجازت دے دو اور تجھ سے عافیت طلب کرو - چنانچہ اس نے حضرت داؤد کا ہاتھ پکڑ کر انہیں پہاڑ پر چڑھایا - حضرت داؤد نے کہا: اے حرقیل کیا تیرا کبھی گناہ کا دل چاہا ہے؟ اس نے کہا: نہیں - آپ نے پوچھا کہ تجھے اپنی عبادت گزاری پر فخر ہوتا ہے؟ اس نے کہا: نہیں - آپ نے کہا: کیا تیرا دل کبھی چاہتا ہے کہ تو بھی دنیا کی شہوتوں اور لذتوں کو حاصل کرے؟ اس نے کہا: کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے - آپ نے پوچھا پھر تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا: میں اس غار میں چلا جاتا ہوں اور اس میں جو چیز موجود ہے اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتا ہوں - میں حضرت داؤد اس غار میں داخل ہونے تو دیکھا کہ ایک لوہے کا تخت ہے جس پر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ رکھا ہوا ہے - اور ایک

لوہے کی تختی لگی ہے۔ داؤد علیہ السلام نے اسے پڑھا۔

"میں اروی بن سلم ہوں۔ میں نے ایک ہزار سال حکومت کی۔ ایک ہزار شہر تعمیر کرائے۔ ایک ہزار شادیاں کیں اور میری ساری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ میں آج مٹی ہو گیا ہوں۔ کیزے کوڑوں کی غذا ہوں۔ پس جو مجھے دیکھے اسے چاہیے کہ دنیا کی رغبت نہ کرے۔"

باب (۳۷) دجال کے واقعات اور دوسرے علامات ظہور

۱۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن ابراہیم بن اسحاق نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے عبد العزیز بن یحییٰ جلودی نے بعبرہ میں انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے حسین بن معاذ نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے قیس بن حفص نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے یونس بن ارقم نے ان سے ابی یسار شیبانی نے ان سے فضاک بن مزاحم نے ان سے نزال بن سیرہ نے انہوں نے کہا کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے ہمارے درمیان خطبہ دیا۔ اللہ کی حمد و ثنا کی اور محمد آل محمد پر درود بھیجا پھر فرمایا: اے لوگوں مجھ سے جو چاہو پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ یہ جملہ آپ نے تین مرتبہ کہا۔ صعصعہ بن صوحان کھڑے ہوئے اور بولے: اے امیر المومنین دجال کب خروج کرے گا؟ آپ نے ان سے کہا: بیچہ جاؤ۔ اللہ نے تیرا کلام سنا اور تیرا ارادہ جانا۔ خدا کی قسم اس کا علم کسی کو نہیں۔ لیکن اس کی علامات اور کچھ صورتیں ہیں جو ایک کے بعد ایک آتی ہیں جیسے ایک قدم دوسرے کے بعد پڑتا ہے کہو تو میں بیان کروں۔ اس نے کہا ہاں اے امیر المومنین۔

آپ نے فرمایا پس یاد رکھو وہ علامات یہ ہیں:

جب لوگ نماز کو فراموش کر دیں گے۔ لمانتیں ضائع ہوں گی۔ جھوٹ بولنا جائز سمجھا جائے گا۔ سود کھایا جائے گا۔ رشوت عام لی جائے گی۔ بلند عمارتیں تعمیر کی جائیں گی۔ دین کے عوض دنیا خریدی جائے گی۔ بے وقوفوں کی حکمرانی ہوگی۔ عورتوں سے مشورہ لیا جائے گا۔ قطع رحم ہوگا۔ ہوس پرستی عام ہوگی۔ خوزیری کو معمولی فعل سمجھا جائے گا۔ بردباری کو کمزوری اور ظلم کو قابل فخر سمجھا جائے گا۔ بادشاہ و امراء فاسق و فاجر ہوں گے۔ وزراء جھوٹے ہوں گے۔ عرفاء خائن ہوں گے۔ قرآن کے قاری فاسق ہوں گے۔ جھوٹی گواہی قابل قبول ہوگی۔ گناہ کا علاج ارتکاب ہوگا۔ ہستان لگانا عام ہوگا۔ گناہ اور سرکشی عام ہوں گے۔ قرآن کو حقیر سمجھا جائے گا۔ مساجد کو آراستہ کیا جائے گا۔ پیشاب بلند ہوں گے شرر لوگوں کی تکریم کی جائے گی۔ صفیں (استحکام کے بجائے) دھکم پیل کا نظارہ پیش کریں گی۔ دل ایک دوسرے سے دور ہوں گے۔ ہمد شنکی کی جائے گی۔ جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہو جائے گا۔ عورتوں کو حرم دنیا کی غرض سے

تجارت میں شریک کیا جائے گا۔ گانے والوں کی آوازیں بلند ہوں گی اور انہیں سنا جایا کرے گا۔ رذیل لوگ قوم کے مردار ہوں گے۔ گانے والے اور گانے والیوں کو اجرت پر حاصل کیا جائے گا۔ اس زمانے کے لوگ اگلے زمانے والوں پر لعنت کریں گے۔ عورتیں گھوڑوں کی سواری کریں گی۔ عورتیں مردوں کی اور مرد عورتوں کی شبہت اختیار کریں گے۔ گواہ بغیر اس کے کہ ان سے گواہی طلب کی جائے گواہی دیں گے اور دوسرے لوگ بغیر حق کو پہچاننے اور دین کے علاوہ دوسرے امور میں سوچ بچار کرنے میں گواہی دیں گے۔ دنیا کو آخرت پر فضیلت دیں گے۔ بظاہر بھیڑوں کی طرح ہوں گے لیکن اندر سے بھیڑیوں کی طرح ہوں گے اور ان کے دل مردار سے زیادہ مڑے ہوئے، بدبودار اور اٹلے سے زیادہ کڑوے ہوں گے۔ اس وقت (بیٹابی کے ساتھ) العلیل العلیل کہا جائے گا اس وقت بیت المقدس بہترین رہنے کی جگہ میں سے ہوگا اور لوگوں پر ایک وقت ایسا آنے گا کہ ہر اک تمنا کریگا کہ وہ بیت المقدس میں سکونت اختیار کرے۔

اصبح بن عبانہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا: مولانا دجال کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا: دجال کا نام صائد بن صید ہے۔ پس وہ شخص شقی ہے جو اس کی تصدیق کرے گا۔ اور وہ شخص خوش بخت ہے جو اس کی تکذیب کرے گا۔ وہ اصفہان کے قریب یہودیہ سے فروج کرے گا۔ اس کی دامنی آنکھ نہیں ہوگی۔ بائیں آنکھ خونی پارچہ کی طرح پیشانی پر ہوگی جو صبح کے ستارے کی طرح چمک رہی ہوگی۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا: کافر۔ جس کو ہر عالم و جاہل شخص بڑھ لے گا۔ سمندروں میں گھس جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سورج چلے گا۔ اس کے آگے دھوئیں کا پہاڑ اور پیچھے کوہ سفید ہوگا۔ جس کو قلعہ کے زمانے میں لوگ کھانے کا پہاڑ سمجھیں گے۔ جب فروج کرے گا قلعہ شدید ہوا۔ سفید گدھے پر سوار ہوگا اس گدھے کا ایک قدم ایک میل کے برابر ہوگا۔ جس چتر یا کونین پر پہنچے گا وہ قیامت تک کے لئے خشک ہو جائے گا۔ وہ بلند آواز سے نداء دے گا جس کو مشرق و مغرب کے درمیان موجود تمام جن و انسان اور شیاطین سنیں گے۔ لپٹنے دوستوں سے کہے گا: انا الذی خلق فسوی و قد رفھدی انا ربکم الاعلیٰ میں وہ ہوں جس نے پیدا کیا پھر درست کیا۔ اندازہ کیا پھر راہبری کی۔ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔

وہ دشمن خدا جھوٹا ہوگا وہ ایک آنکھ کا، احتیاج طعام رکھنے والا اور بازار میں چلنے پھرنے والا شخص ہوگا جبکہ تمہارا رب نہ تو کانا ہے نہ اسے احتیاج طعام ہے۔ نہ وہ چلتا پھرتا ہے اور نہ ہی اسے ذوال ہے وہ ان تمام باتوں سے بلند ہے۔ جانو کہ اس کا ابراع کرنے والوں کی اکثریت زنا کی اولاد ہوگی اور سبز ٹوپی پہنے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو جمعہ کے روز تین ساعت گزرنے کے بعد شام میں عقبہ اقیق پر اس کے ہاتھوں قتل کراوے گا جس کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے۔ جان لو کہ اس کے بعد عظیم حادثہ پیش آئے گا۔

پس ہم نے عرض کیا: امیر المؤمنین وہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا: ادب الارض کوہ صفاء سے فروج کرے گا اس کے پاس حضرت سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی ہوگی اور حضرت موسیٰ کا عصا ہوگا۔ وہ انگوٹھی جب مومن کے چہرہ پر لگائی جائے

گی تو وہ مہر لگا دے گی کہ یہ حقیقتاً مومن ہے۔ اور جب کافر کے چہرہ پر لگائی جائے گی تو وہ لکھ دے گی کہ یہ حقیقتاً کافر ہے یہاں تک کہ مومن کافر سے کہے گا: "ممن ہے تیرے لئے اے کافر۔ اور کافر مومن سے کہے گا: "طربانی ہے تیرے لئے اے مومن۔ کاش آج میں بھی تیری طرح فانز و کامران ہوتا۔"

پھر دابہ اپنا سر اٹھائے گا تو مشرق و مغرب کے درمیان جو بھی ہوگا اللہ عزوجل کے اذن سے اس کو دیکھ لے گا۔ اور یہ اس وقت ہوگا۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہو چکا ہوگا۔ اس وقت توبہ کی سہلت کا وقت ختم ہو جائے گا اور پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور نہ کوئی عمل ادا ہو جائے گا جیسے کہ ارشاد ہے۔ **لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلِ اَوْ كَسَبَتْ فِيْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا** (سورۃ النعام آیت ۱۵۹) "نہیں آئے گا کچھ کام کسی کے اس کا ایمان لانا جو کہ پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا یا حالت ایمان میں کچھ نیکی نہ کی تھی۔"

پھر امیر المومنین نے فرمایا کہ اس کے بعد کے حالات کا مجھ سے سوال نہ کرو۔ یہ ایک عہد ہے جو میرے حبیب رسول اللہ نے مجھ سے لیا ہے کہ اس کی خبر میں اپنی عزت کے علاوہ کسی اور کو نہ دوں۔

نزال بن سبرہ کہتے ہیں کہ میں نے صعصعہ ابن صوحان سے پوچھا کہ امیر المومنین کی اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے ابن سبرہ یہ وہی ہے جس کے پیچھے حضرت عیسیٰ بن مریم نازل ادا کریں گے۔ وہ عزت کا بارہواں فرد ہوگا اور حسین بن علی کی نسل سے نواں۔ یہ وہ ہوگا جس کے لئے سورج مغرب سے طلوع کرے گا اور وہ رکن و مقام کے درمیان سے ظہور کرے گا۔ پس وہ زمین کو پاک کرے گا اور میزان عدل قائم کرے گا۔ پس کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے گا۔

پس امیر المومنین سے ان کے حبیب رسول اللہ نے عہد لیا تھا کہ اس کے بعد کی خبر غیر عزت صلوات اللہ علیہم سے نہ بیان کریں۔

ایسی ہی ایک حدیث ہم سے ابو بکر محمد بن عمر بن عثمان بن فضل عقیلی فقیہ نے بیان کی انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے ابو عمر ادا محمد بن جعفر بن مظفر، عبداللہ بن محمد بن عبدالرحمن رازی، ابوسعید عبداللہ بن محمد بن موسیٰ بن کعب صیدانی اور ابو الحسن محمد بن عبداللہ بن صالح جوہری نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے ابو یعلیٰ بن احمد بن شیبہ موصلی نے ان سے عبدالاعلیٰ بن حماد نرسی نے ان سے ایوب نے ان سے نافع نے ان سے ابن عمر نے اور انہوں نے رسول اکرم سے روایت کی ہے۔

۲۔ بیان کیا مجھ سے ابو بکر محمد بن عمر بن عثمان بن فضل عقیلی فقیہ نے انہی استاد کے ساتھ لہنے مشائخ سے انہوں نے ابی یعلیٰ موصلی سے انہوں نے عبدالاعلیٰ بن حماد نرسی سے انہوں نے ایوب سے انہوں نے نافع سے انہوں نے ابن عمر سے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے ایک دن لہنے اصحاب کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ اس کے بعد لہنے اصحاب کے

ساتھ کھڑے ہوئے اور مدینہ میں ایک گھر کے دروازے پر پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک عورت نکل کر آئی اور کہا : اے ابوالقاسم آپ کیا چاہتے ہیں ؟ رسول اللہ نے فرمایا : اے عبد اللہ کی ماں مجھے عبد اللہ کے پاس جانے دو۔ اس نے عرض کیا : یا ابوالقاسم آپ عبد اللہ کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم وہ اپنی عقل کھو چکا ہے اور اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہیں۔ اور وہ مجھ سے ایک بہت بڑے کام میں تھک رہا ہے۔ آپ نے فرمایا : مجھے اس کے پاس جانے دو۔ اس نے عرض کی : کیا آپ اپنی ذمہ داری پر جانیں گے ؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے عرض کی تو نیسے۔ پس آپ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ ایک نعلی جادر اولیٰ ہے۔ کچھ ناظم اور بے معنی باتیں کر رہا ہے۔ اس کی ماں نے اس سے کہا : چپ ہو جاؤ اور بیٹھ جاؤ۔ یہ محمد ہیں جو تمہارے پاس آئے ہیں۔ پس وہ چپ ہو گیا اور بیٹھ گیا۔ پس رسول خدا نے فرمایا : اس کو کیا ہو گیا ہے۔ خدا کی لعنت ہو اس پر۔ اگر یہ مجھے چھوڑ دے تو میں تمہیں بتا دوں کہ کیا یہ وہی ہے۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا مجھے کیا دکھائی دے رہا ہے تو اس نے کہا میں حق اور باطل کو دیکھ رہا ہوں اور ایک سخت کو پانی پر دیکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تو کیا تم اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی دو گے ؟ تو وہ کہنے لگا بلکہ آپ اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی دیں کیوں کہ اللہ نے اس کے لئے آپ کو مجھ سے زیادہ حق دار نہیں بنایا ہے۔ جب دوسرا دن آیا تو آپ نے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز فجر ادا کی پھر کھڑے ہوئے تو صحابہ بھی کھڑے ہوئے یہاں تک کہ اس گھر کا دروازہ پھر کھٹکھٹایا تو اس کی ماں نے عرض کیا تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ ایک کھجور کے درخت پر گانا گا رہا ہے۔ اس کی ماں نے اس سے کہا : چپ ہو جاؤ اور نیچے اترو۔ یہ محمد ہیں اور تمہارے پاس آئے ہیں۔ وہ چپ ہو گیا۔ پس رسول خدا نے فرمایا : اسے کیا ہو گیا ہے اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر یہ مجھے چھوڑ دے تو میں تمہیں بتا دوں کہ یہ وہی ہے۔

جب تیسرا دن آیا تو پھر آپ نے نماز فجر اپنے صحابہ کے ساتھ ادا کی اور کھڑے ہو گئے تو آپ کے ساتھی بھی کھڑے ہو گئے صحابہ تک نہ اسی حکم پر آئے تو دیکھا کہ وہ ایک بھیرے کے ساتھ اس کی آواز نکال رہا ہے۔ پس اس کی ماں نے کہا : چپ ہو جاؤ یہ محمد ہیں جو تمہارے پاس آئے ہیں۔ پس وہ چپ ہو گیا اور بیٹھ گیا اور اس دن سورۃ دخان کی کچھ آیات نازل ہوئی تھیں اور نبی نے دن کی نماز میں وہ آیات پڑھی تھیں۔ پھر اس سے آپ نے پوچھا کہ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں تو اس نے جواب دیا : بھلا آپ گواہی دیں خدا کی وحدانیت کی اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں یہ اللہ نے فرمایا ہے آپ کو اس میں مجھ سے زیادہ حق دار نہیں بنایا ہے۔

تو رسول اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے سے کوئی چیز چھپا رکھی ہے پس بتاؤ وہ کیا ہے۔ تو اس نے جواب دیا : میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا چپ ہو جاؤ یاد رکھو تو اپنے میمنہ مدت سے آگے نہیں بڑھو گے اور اپنے منہ سے کلمہ نکالنے سے باز رہو اور جو کچھ تمہارے اللہ تمہارے ساتھ فرمایا ہے اس سے زیادہ تمہیں نہیں ملے گا۔

پھر آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اے لوگوں! اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا مگر یہ کہ اس نبی نے اپنی قوم کو دجال (کے مکرو فریب) سے ڈرایا ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو چہارے دور تک باقی رکھا ہے۔ اور جب بھی تم پر اس کی بات مشتبه ہو جائے تو جان لو کہ چہارا پروردگار ایک آنکھ والا نہیں ہو سکتا۔ بلاشبہ (دجال) ایک گدھے پر سوار ہو کر نکلے گا اس کے گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان ایک میل کا فاصلہ ہوگا۔ وہ نکلے گا اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی۔ اور رویوں کا ایک پہاڑ اور پانی کی ایک نہر ساتھ ہوگی۔ اس کے پیروکار اکثر یہودی، عورتیں اور جاہلی لوگ ہوں گے۔ زمین کے ہر حصے کا چکر کانے گا سوائے خانہ خدا، مکہ، مسجد النبی اور مدینہ کے۔

مؤلف فرماتے ہیں کہ اہل عناد و متروان تمام خیروں کی تصدیق کرتے ہیں اور ان روایات کو جو دجال اور اس کی غیبت اس کے طول عمر اور آخر زمانے میں اس کے خروج کے بارے میں ہیں صحیح مانتے ہیں۔ مگر اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ امام قائم موجود ہیں اور ایک طویل عرصہ پردہ غیبت میں رہیں گے پھر ظاہر ہوں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اس کے باوجود کہ امام قائم کے نام و نسب و غیبت پر نبی اور ائمہ کی نص موجود ہے۔ اور طول غیبت پر احادیث ہیں ان کے انکار کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اور ولی خدا کے امور کو باطل کر دیں۔ مگر اللہ اپنا نور مکمل کر کے رہے گا چاہے مشرکین کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ ہمارے مخالفین انکار کے سبب میں کہتے ہیں کہ امام غائب کی شان اور ان کی غیبت کے بارے میں جو روایات آپ کے یہاں ہیں وہ ہمارے یہاں نہیں ہیں۔

پس حضور کی نبوت کے انکار کے لئے بھی طہدین، براہمہ، یہود، نصاریٰ اور مجوسی بھی یہی دلیل لاتے ہیں کہ آپ جو روایات اپنے نبی کے معجزات اور دلائل کے بارے میں بیان کرتے ہیں وہ ہمارے یہاں نہیں ہیں پس اس جہت سے ہم ان کی دلیل کا باطل ہونا ثابت کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے مخالفین کے اعتراض کو صحیح مان لیں تو پھر حضور کے منکرین کے اعتراض کا کیا بنے گا جو تعداد میں امام کے منکرین سے زیادہ ہیں۔ اسی طرح ہمارے مخالفین یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بات بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک شخص کی عمر اپنے زمانے کے لوگوں کی عمروں سے تجاوز کر جائے جیسے ہمارے امام کی عمر چہارے زعم کے مطابق ان کے زمانے کے لوگوں کی عمر سے تجاوز کر گئی۔

پس ہم ان سے کہیں گے: کہ تم اس کو تصدیق کرتے ہو کہ دجال کی عمر جائز ہے کہ غیبت میں اپنے زمانے کے لوگوں سے بڑھ جائے اور اسی طرح اہلبیت (کی عمر) لیکن اس کی تصدیق نہیں کرتے ہو کہ اسی طرح قائم آل محمد علیہم السلام کی عمر ان نصوص کے باوجود جو آپ کی غیبت، طول عمر اور حکم الہی کے بعد ظہور و قیام کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں اور وہ احادیث جن کی روایت کی گئی ہے اور ان کا اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے اور اس روایت کے ساتھ جس کی صحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے جس میں آپ نے فرمایا۔ ہر وہ بات جو سابقہ امتوں میں واقع ہوئی

ہے اس امت میں بھی واقع ہوگی اسی طرح قدم بقدم اور نقطہ بہ نقطہ ۔

اور یہ بات بیان ہو چکی کہ کئی نبیوں اور بھت ہائے خدا کی عمریں طویل تھیں ۔ جیسے حضرت نوح نے دو ہزار پانچ سو سال کی عمر پائی ۔ اور قرآن نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ اپنی قوم میں نو سو پچاس سال رہے ۔ اور یہ حدیث بھی پیش کی گئی جس کی سند اس کتاب میں ہے کہ حضرت قائم کے لئے نوح کی سنت طول عمر ہے پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کی بھت میں یہ بات نہیں آتی اور آپ اسے خلاف عقل سمجھتے ہیں ۔ بلکہ آپ کو تو چاہیے کہ اس کا اقرار کریں کیونکہ وجود امام قائم نص رسول سے ثابت ہے ۔

اور ایسے ہی قائم علیہ السلام کا اقرار لازم ہے تمام عقول کے تحت جیسا کہ اصحاب کہف تین سو نو سال تک لہنے غار میں سوتے رہے ۔ کیا اس (روایت) کی تصدیق کی جاسکتی ہے ؟ تو پھر کیوں امر قائم علیہ السلام (کی روایت) کی تصدیق اسی طرح نہیں کی جاسکتی ؟ اور کس طرح وہب بن نہب اور کعب الاحبار کی روایات کی تصدیق کی جاتی ہے جو معاملات میں سے ہیں اور جن کی صحیحی قول رسول سے ثابت نہیں ہے اور جو عقول پر پوری نہیں اترتیں اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام کی جانب سے قائم ، ان کی غیبت اور ظہور کے بارے میں ارشاد کیا گیا اکثر لوگ اس امر میں شک اور اس قول سے انکار کی بنا پر اس کی تصدیق نہیں کرتے ۔ حالانکہ ان حضرات علیہم السلام کے آثار صحیح کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں ۔ کیا یہ جان بوجھ کر حق کا انکار کرنے کے علاوہ کچھ اور ہے ؟

مخالفین یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے زمانے کے لوگوں کی عمروں سے حجاجد نہیں کر سکتا حالانکہ صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول اس بارے میں سچ ہے کہ سابقہ امتوں کی سنت اس امت میں بھی جاری ہوگی خاص کر مشہور انواع میں اور قائم علیہ السلام کی نوع سے زیادہ مشہور کون سے نوع ہو سکتی ہے کہ ان کا ذکر مشرق و مغرب میں اقرار کرنے والوں کی زبانوں پر بھی ہے اور انکار کرنے والوں کی زبانوں پر بھی ۔ پس اگر غیبت امام قائم باطل قرار پاتی ہے جبکہ ان کے بارے میں حضور سے روایات صحیحہ وارد ہوئی ہیں تو اس صورت بھی حضور کی نبوت باطل قرار پائے گی کیونکہ انہوں نے امام قائم کی غیبت کی خبر دی جو واقع ہی نہیں ہوئی ۔ پس اس طرح حضور کی نبوت باطل قرار پائے گی ۔ حالانکہ مخالفین ان خبروں کی تصدیق کرتے ہیں جو حضور نے جناب عماد بن یاسر کے بارے میں دیں کہ ان کو باغی گردہ قتل کرے گا ۔ اور امیر المؤمنین کے بارے میں فرمایا کہ ان کی ڈاڑھی ان کے سر کے خون سے خضاب ہوگی ۔ امام حسن کے بارے میں فرمایا کہ یہ زہر سے شہید ہوں گے اور امام حسین تلوار سے ۔ پھر کیا وجہ ہے کہ امام قائم کی غیبت کے واقع ہونے اور ان کے نام و نسب تک کی خبر دی لیکن مخالفین اس کی تصدیق نہیں کرتے ۔ حقیقتاً حضور اپنے تمام اقوال میں صادق ہیں ۔ اور ہر حال میں مناسب الرائے ہیں اور کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل اور صحیح قرار نہیں پاتا جب تک کہ حضور کے فیصلے کو ماننے اور تمام امور میں ان کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم

کرنے میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے اور اپنے دل میں کسی شک و شبہ کو داخل نہ کرے۔ اور یہ ہی اسلام ہے۔ اسلام نام ہی تسلیم و اطاعت کا ہے اور جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین پیش کرے گا وہ قابل قبول نہ ہوگا اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔

سب سے زیادہ مقام حیرت یہ ہے کہ ہمارے مخالف روایت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ زین کربلا سے گزرے آپ نے دیکھا کہ وہاں بہن جمع ہیں وہ ان سے قریب ہوئے تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ یہ حال دیکھ کر حضرت عیسیٰ زمین پر بیٹھ گئے اور حواریتین ان کے گرد بیٹھ گئے۔ پس وہ روئے اور حواریتین بھی روئے جبکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ حضرت کیوں بیٹھے ہیں اور کیوں رو رہے ہیں۔ ان لوگوں نے عرض کیا: یا روح اللہ اور اس کا کلمہ آپ کیوں رو رہے ہیں۔ فرمایا: کیا تم اس سر زمین کو جانتے ہو، حواریتین نے عرض کیا: ہم نہیں جانتے۔ فرمایا: یہ وہ سر زمین ہے جہاں فرزند پیغمبر آخر الزماں جن کا نام نابی احمد ہے اور فرزند طاہرہ بتول (سلام اللہ علیہا) جو میری والدہ ماجدہ مریم کی شہیدہ ہیں اس زمین پر شہید ہوگا اور یہیں دفن ہوگا۔ اس زمین کی خاک مشک سے فووں تر ہے کیونکہ یہ خاک دفن ہے اس شہید مظلوم کی۔ اور انبیاء اور اولاد انبیاء کی طہنت ایسی ہی ہوتی ہے اور یہ بہن مجھ سے کلام کرتے ہیں اور خبر دیتے ہیں کہ بوجہ اشتیاق نسبت امام مظلوم ہم اس زمین کی گھاس جرتے ہیں اور کھتے ہیں کہ اس زمین پر محفوظ ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے ان کی بیٹگیوں کو توڑ کر سو گھا اور فرمایا: خداوند عالم ان بیٹگیوں کو اسی ہیئت پر باقی رکھے تاکہ اس شہید مظلوم کا پدر بزرگوار ان کو سو گھے اور اس کی تسلی کا باعث ہو۔ چنانچہ وہ بیٹگیاں حضرت علیؑ کے دور تک موجود رہیں۔ جہاں تک کہ امیر المومنین کا گزر اس علاقہ سے ہوا۔ آپ نے ان بیٹگیوں کو سو گھا، روئے اور اس واقعہ کی خبر دی جو کربلا میں پیش آنے والا تھا۔

ہمارے مخالف اس واقعہ کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ بیٹگیاں پانچ سو سال سے زیادہ عرصہ تک باقی رہیں ان کی تازگی اور ان کی بو میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اور گردش ہائے روز و شب اور طویل برسوں نے ان پر اثر نہیں کیا مگر اس بات کو نہیں مانتے کہ قائم آل محمدؑ امام معصوم باقی ہیں، وہ تلوار کے ساتھ خروج کریں گے، دشمنان خدا کو قتل کریں گے اور دین خدا کو ظاہر کریں گے۔ جبکہ ان کے لئے نبی و ائمہ سے نام و نسب و طویل مدت کی غیبت کے بارے میں روایات صحیحہ وارد ہوئی ہیں اور آپ کے لئے امت سابقہ کی سنت طویل عمر مقرر ہوئی ہے۔ یہ انکار صرف بغض و عناد اور حق کے انکار کا باعث ہے۔ ہم رسوائی سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔

باب (۴۸) آہوانِ ارضِ ینسویٰ کی حدیث کا تفصیلی بیان

۱۔ بیان کیا مجھ سے احمد بن حسن بن قطن نے جو شہرے کے بزرگ محدث تھے اور ابو علی بن عبد ربہ کے نام سے مشہور تھے ان سے احمد بن یحییٰ بن زکریا قطن نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے بکر بن عبد اللہ بن حبیب نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے تمیم بن بہلول نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے علی بن عاصم نے ان سے حصین بن عبد الرحمن نے ان سے مجاہد نے ان سے ابن عباس نے کہا کہ جناب امیرالمؤمنین جنگ صفین پر گئے تو میں بھی ساتھ تھا جب حضرت زمین ینسویٰ پر پہنچے جو دریائے فرات کے کنارے واقع ہے تو آپ نے با آواز بلند مجھ کو پکارا: اے ابن عباس کیا تم اس مقام کو پہچانتے ہو؟ میں نے عرض کیا: امیرالمؤمنین میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا: اے ابن عباس اگر تم اس زمین کو جانو جیسا کہ میں جانتا ہوں تو یہاں سے نہ ہونگے مگر جب تک میری طرح گریہ نہ کر لو گے۔ اس کے بعد امیرالمؤمنین رونے لگے یہاں تک کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اور آنسوؤں کے قطرے ٹپک ٹپک کر سینہ اقدس پر رواں ہوئے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ کو رونا دیکھ کر ہم لوگ بھی رونے لگے۔ اس کے بعد امیرالمؤمنین نے فرمایا: اے آل ابو سفیان اور آل حرب سے مجھے کیا مطلب ہے جو لشکر شیطان اور سرگروہ کفر ہیں۔ (اس کے بعد فرمایا) صبر کر اے ابو عبد اللہ کیونکہ تیرے باپ کو بھی ان اشتیاء کے ہاتھوں وہی سدمات گزرے ہیں جو تجھ کو پہنچنا ہیں۔ پھر آپ نے پانی طلب کیا اور وضو کر کے نماز میں مشغول ہو گئے اور جتنا خدا نے چاہا نمازیں پڑھیں۔

پھر آپ نے اپنا پہلا کلام جاری رکھا مگر یہ کہ نماز کے پورا کرنے میں کچھ دیر ٹہرے رہے پھر آپ نے خبردار کیا اور فرمایا: اے ابن عباس؟ میں نے عرض کیا: مولا میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا: تم چاہو تو خبر دوں جو میں نے اس وقت خواب میں حالت بیداری کی طرح دیکھا ہے۔ میں نے عرض کیا: مولا ہمیشہ آپ کی آنکھیں رہیں جو خواب آپ نے دیکھا ہے بہتر ہوگا۔ آپ نے فرمایا: میں نے ابھی دیکھا کہ کئی اشخاص آسمان سے اس صحرا میں نازل ہوئے ہیں جن کے ہاتھ میں سفید علم اور گلے میں چمکتی تلواریں ہیں انہوں نے اس زمین کے گرد ایک خط کھینچا پھر میں نے دیکھا کہ جو درخت اس صحرا میں ہیں ان سب کی تمام شاخیں زمین پر ٹھک گئیں اور بیک بیک تازہ خون اس صحرا میں موجیں مارنے لگا اور میں نے اپنے فرزند حصین کو دیکھا کہ وہ اس دریائے خون میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے اور کوئی اس کی فریاد کو نہیں پہنچتا۔ سفید اور نورانی افراد جو آسمان سے نازل ہوئے تھے حصین سے با آواز بلند کہتے ہیں صبر کرو اے آل رسول تم بدترین خلق کے ہاتھوں قتل ہو گے۔ اے ابو عبد اللہ بہشت تمہاری مشتاق ہے۔ اس کے بعد وہ نورانی افراد میرے پاس آئے اور مجھے پرسادے کر کہنے لگے اے ابوالحسن خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں تمہاری آنکھوں کو شہادتِ حصین کی وجہ سے روشن کرے گا جب انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہ دیکھ کر میں بیدار ہوا۔ اے

ابن عباس میں قسم کھاتا ہوں اس خدائے مروجہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ مجھے منبر صادق ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خریدی ہے کہ تم اس زمین پر سے اس وقت گزرو گے جب اہل ظلم و ستم سے جنگ کرو گے۔ یہ زمین کرب و بلا ہے۔ اس زمین میں میرا حسین مدفون ہوگا۔ اور اس کے ہمراہ سترہ اشخاص جو میری اور فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے اس زمین میں دفن ہوں گے۔ یہ زمین ساتوں آسمانوں میں مشہور ہے۔ اور اہل آسمان زمین کرب و بلا کا اسی طرح تذکرہ کرتے ہیں جس طرح زمین کعبہ، زمین مدینہ اور زمین بیت المقدس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: اے ابن عباس تم اس صحرا میں ہرن کی پینگلیاں تلاش کرو۔ خدا کی قسم نہ تو میں نے جھوٹ کہا اور نہ ہی رسول اللہ سے جھوٹ سنا کہ ان کا رنگ مثل زعفران کے زرد ہوگا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے امیرالمومنین کے حکم کے مطابق پینگلیاں تلاش کیں تو ایک جگہ ان کو جمع پایا۔ میں نے یاداد بلند بکارا۔ یا امیرالمومنین مجھے انہی صفات کی پینگلیاں مل گئیں جیسا آپ نے فرمایا تھا۔ امیرالمومنین نے ارشاد فرمایا: خدا اور رسول نے سچ کہا۔ پھر آپ تشریف لائے اور ان پینگلیوں کو اٹھا کر سونگھا اور فرمایا: یہ وہی پینگلیاں ہیں جن کی خبر رسول خدا نے دی تھی۔ پھر فرمایا: جان لو اے ابن عباس یہ وہ پینگلیاں ہیں جنہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم نے سونگھا تھا۔ حضرت عیسیٰ لہنے حواریوں کے ساتھ جب اس صحرا میں وارد ہوئے تو دیکھا کہ یہاں ہرنوں کا ایک گھمبج ہے اور وہ ہرن رو رہے ہیں۔ یہ حال دیکھ کر حضرت عیسیٰ زمین پر بیٹھ گئے اور ان کے حواریتین ان کے گرد بیٹھے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ رونے لگے حواریتین بھی یہ دیکھ کر رونے لگے جبکہ وہ اس بات سے آگاہ نہ تھے کہ حضرت عیسیٰ کیوں بیٹھے ہیں اور کیوں رو رہے ہیں حواریتین نے عرض کیا: یا روح اللہ اور اس کا کلمہ آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا: کیا تم اس زمین کو جانتے ہو؟ حواریتین نے عرض کیا: ہم نہیں جانتے۔ فرمایا: یہ وہ سرزمین ہے جہاں پیغمبر آفرائماں کا فرزند وہ پیغمبر جس کا نام احمد ہوگا اور فرزندِ طاہرہ بتول جو میری والدہ مریم کی شہیدہ ہوں گی اس زمین پر شہید ہوگا اور اسی زمین میں دفن ہوگا۔ اس زمین کی خاک پاک مشک سے فروز تر ہے۔ کیوں کہ یہ خاک اس مظلوم شہید کا مدفن ہے۔ اور انبیاء اور اولاد انبیاء کی طینت الہی ہی ہوتی ہے۔ یہ ہرن مجھ سے کلام کرتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں کہ تربت امام مظلوم کے اشتیاق میں ہم اس زمین کی گھاس چرتے ہیں اور کھتے ہیں کہ اس زمین پر محفوظ ہیں اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے ان پینگلیوں کو توڑ کر سونگھا اور فرمایا: ان میں اس گھاس کی خوشبو ہے جو اس زمین میں اگتی ہے۔ اے اللہ ان پینگلیوں کو ہمیشہ اسی حالت میں باقی رکھ تاکہ اس (شہید مظلوم) کے والد بزرگوار ان کو سونگھیں اور ان کی تسلی کا باعث ہو۔ اس کے بعد امیرالمومنین نے فرمایا: اے ابن عباس یہ پینگلیاں آج تک باقی ہیں۔ اور طویل مدت کے باعث ان کا رنگ زرد ہو گیا ہے اور یہ زمین کرب و بلا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بلند آواز سے فرمایا: اے عیسیٰ بن مریم! خدا برکت نہ دے حسین کے قاتلوں، اس کے اشتیاق کی نصرت کرنے والوں اور اس کی مدد کرنے والوں کو۔ یہ کہہ کر امیرالمومنین

بہت رونے۔ آپ کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگا۔ یہاں تک کہ حضرت روتے روتے بے ہوش ہو کر گر پڑے جب غش سے افاقہ ہوا تو تھوڑی بیٹگنیاں اٹھا کر اپنی چادر کے دامن میں باندھ لیں اور مجھے بھی حکم دیا میں نے بھی تھوڑی سی بیٹگنیاں اٹھائیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے ابن عباس جب تم دیکھو کہ خون تازہ اس میں رواں ہے تو یقین کرنا کہ میرا فرزند اس زمین پر شہید ہو گیا ہے۔

ابن عباس کہتے ہیں کہ میں لپٹنے واجبات سے زیادہ ان بیٹگنیوں کی حفاظت کرتا تھا اور ہمیشہ اپنی آستین سے باندھے رہتا تھا۔ ایک دن میں گھر میں سویا ہوا تھا۔ جب نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ میری آستین خون سے بھری ہے اور خون ان بیٹگنیوں سے جاری ہے یہ حال دیکھ کر میں اٹھ بیٹھا اور آہ دینا کرنے لگا۔ میں نے دل میں کہا کہ خدا کی قسم فرزند رسول شہید ہونے اور میرے مولا علی نے ہرگز جھوٹ نہیں فرمایا اور کبھی میرے مولانا نے مجھے ایسی خبر نہیں دی جو واقعہ نہ ہوئی ہو کیونکہ رسول خدا ان کو بہت سی خبریں دیتے تھے جس سے دوسروں کو مطلع نہ فرماتے تھے۔ جب میں گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک غبار نے سارے مدینہ کو گھیر لیا ہے اور کچھ نظر نہیں آتا اور گویا سورج کو گھن لگ گیا ہو۔ اور مدینہ کی دیواریں سرخ ہو گئیں۔ ایسا لگتا تھا کہ ان پر خون چڑکا گیا تھا۔ پس میں بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ اور کہا خدا کی قسم حسین شہید ہو گئے۔ اٹنے میں میں نے ایک صدائے غمگین سنی جو کہہ رہی تھی۔

اصبروا آل الرسول قتل الفرخ النحول
نزل الزوح الأمین بکاء و عویل

یعنی اے آل رسول صبر کرو کہ فرزند رسول خستہ تن قتل ہوا اور روح الامین نے بانالہ و فریاد اس شہید مظلوم کے ماتم میں نزل کیا۔

پھر اس شخص کے رونے کی آواز میرے کان میں آئی۔ اس کے رونے سے مجھ پر بڑی رقت طاری ہوئی اور میں نے اس وقت کو یاد رکھا اور وہ محرم کا مہینہ اور عاشور کا دن تھا۔

جب امام حسین کی شہادت کی خبر مدینہ پہنچی تو مظلوم ہوا کہ امام حسین اسی روز شہید ہوئے اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے بیان کرتے تھے کہ خدا کی قسم ہم نے بھی یہی آواز سنی تھی۔ جو تم نے سنی۔ ہم معرکہ میں تھے اور نہ مجھ سکے کہ وہ کون تھا اور ہمارا گمان ہے کہ وہ حضرت حضرت تھے۔ اللہ کا درود ہوا ان پر اور حسین پر اور اللہ حسین کے قاتلوں اور ان اشیاء کے فعل پر راضی ہونے والوں پر لعنت کرے۔

روایت میں ہے کہ حبابہ والہیہ نے حضرت علی ابن ابی طالب سے ملاقات کی اور آپ کے بعد دیگر ائمہ علیہم السلام سے بھی اور وہ حضرت امام رضا کے زمانے تک زندہ رہی۔ اور کوئی اس کی طول عمر کا انکار نہیں کرتا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ امام قائم کا انکار کیا جائے؟

حبابہ الوالہیہ کے بارے میں

باب (۴۹)

۱۔ بیان کیا مجھ سے علی بن احمد دقاقی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن یعقوب نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے علی بن محمد نے ان سے ابو علی بن اسماعیل بن موسیٰ بن جعفر نے ان سے احمد بن قاسم عجمی نے ان سے احمد بن یحییٰ المعروف بہ برد نے ان سے محمد بن خداہی نے ان سے عبداللہ بن ایوب نے ان سے عبداللہ بن ہاشم نے ان سے عبدالکریم بن عمر خشعی نے ان سے حبابہ الوالہیہ نے بیان کیا کہ میں نے امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب کو دیکھا کہ لشکر میں ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کوزا ہے اور آپ جری اور، ماراھی اور، زمار اور طانی (قسم کی مچھلیاں) فروخت کرنے والوں کو اس سے مار رہے تھے اور فرما رہے تھے: اے بنی اسرائیل کے مسوخات پیچنے والو۔ بنی مروان کے لشکر و فرات بن احنف نے پوچھا: یا امیرالمؤمنین بنی مروان کا لشکر کیسا؟ آپ نے فرمایا: وہ لوگ جو دلاہی منڈواتے ہیں اور مونٹھوں پر بل دیتے ہیں (بنو مروان کے لشکر والے ایسی ہی صورت کے تھے)۔ میں نے امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سے بہتر کلام کرنے والا کوئی اور نہیں دیکھا۔ پھر میں آپ کے پیچھے چل دی۔ اور آپ کی پشت پر رہی جہاں تک کہ آپ مسجد کے چبوترے پر بیٹھے تو میں نے عرض کیا: اے امیرالمؤمنین اللہ آپ پر رحم فرمائے، دلالت امامت کیا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا: یہ ہتھ اٹھاؤ اور لپٹے ہاتھ سے ایک ہتھ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے اس ہتھ پر اپنی انگوٹھی لگائی تو اس انگوٹھی کا نقش ہتھ پر ثبت ہو گیا۔ پھر فرمایا: اے حبابہ کوئی مدعی امامت ہو تو اس سے کہو کہ اسی طرح ہتھ پر مہر لگا دے۔ اگر لگا دے تو سمجھ لینا وہ امام ہے۔ اور اس کی اطاعت فرض ہے۔ اور امام جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ نئے اس سے پوشیدہ نہیں رہتی۔

حبابہ کہتی ہے میں حضرت علی کے انتقال کے بعد حضرت امام حسن کے پاس آئی۔ آپ حضرت علی کی جگہ بیٹھے تھے اور لوگ آپ سے سوال کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: اے حبابہ الوالہیہ امیں نے عرض کی: جی میرے مولا۔ آپ نے فرمایا: جو تیرے پاس ہے وہ مجھے دے۔ میں نے وہ ہتھ لگا کر حضرت امام حسن کو دے دیا۔ آپ نے اس پر اسی طرح مہر لگائی جس طرح جناب امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب نے لگائی تھی۔

پھر میں امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ اس وقت مسجد نبوی میں تھے۔ حضرت نے مجھے لپٹے پاس بلایا اور مر جا کہا۔ پھر فرمایا: جو تو نے ارادہ کیا ہے وہ دلائل امامت میں سے ایک دلیل ہے۔ کیا تیرا ارادہ دلیل امامت معلوم کرنے کا نہیں ہے؟ میں نے کہا: ہاں ضرور۔ میرے مولا نے فرمایا: جو تیرے پاس ہے وہ مجھے دے۔ میں نے وہ ہتھ لگا کر دیا۔ آپ نے اس ہتھ پر مہر لگادی۔ پھر میں علی بن حسین کے پاس آئی۔ بڑھاپے کے باعث مجھے رعبہ تھا۔ اس وقت میری عمر ایک سو تیرہ برس تھی۔ میں نے امام زین العابدین کو رکوع و سجود اور عبادت میں مشغول پایا پس میں مایوس

ہوتی تو آپ نے انگشت شہادت سے اشارہ کیا تو میرا شباب لوٹ آیا۔ میں نے کہا: آقا میری عمر کتنی گزر گئی اور کتنی باقی ہے؟ آپ نے فرمایا: گزری کو بتادوں گا۔ باقی عمر نہیں بتاؤں گا۔ پھر فرمایا: جو تیرے پاس ہے وہ لا۔ میں نے وہ ہتھر حضرت امام زین العابدینؑ کو دے دیا۔ آپ نے اس پر مہر لگا دی۔ پھر میں امام محمد باقرؑ کی خدمت میں آئی۔ آپ نے بھی مہر لگا دی اس کے بعد میں حضرت امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے بھی (اس ہتھر پر) مہر لگا دی۔ پھر میں حضرت امام موسیٰ کاظمؑ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے بھی (اس پر) مہر لگا دی۔ پھر میں حضرت امام علی رضاؑ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بھی (اس ہتھر پر) مہر لگا دی۔ عبداللہ بن ہشام کے مطابق حبابہ اس کے بعد نو ماہ زندہ رہی۔

۲۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن محمد بن عصام نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن یعقوب کلینی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے علی بن محمد نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن اسماعیل بن موسیٰ بن جعفر نے ان سے ان کے والد نے ان سے ان کے والد موسیٰ بن جعفر نے ان سے ان کے والد جعفر بن محمد نے ان سے ان کے والد محمد بن علیؑ نے ان سے ان کے والد علیؑ نے کہا کہ حبابہ والہیہ کے لئے امام علیؑ ابن الحسین نے دعا کی تو اللہ نے اس کا شباب لوٹا دیا۔ اور اس کی طرف اشارہ کیا تو وہ حائضہ ہو گئی اور اس وقت اس کی عمر ایک سو تیرہ سال تھی۔

مؤلف عرض کرتا ہے کہ جب حبابہ الوالہیہ کے لئے جائز ہے کہ خدا امام زین العابدینؑ کی دعا سے اس کا شباب اس وقت پلٹا دے جب اس کی عمر ایک سو تیرہ ہو اور وہ امام رضا سے ملنے کے نو ماہ بعد تک زندہ رہے تو پھر یہ کیسے جائز نہیں کہ اللہ امام قائم کو بھی بحالت جوانی سلامت رکھے۔ اور اس وقت تک زندہ رکھے جب تک وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح نہ بھر دیں جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ حالانکہ امام قائم کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام سے نصوص بھی وارد ہیں۔

ہمارے مخالفین ابوالدینیا المعروف بہ صخر مغربی کے بارے میں بھی روایت کرتے ہیں کہ اس کا نام علی بن عثمان بن خطاب بن مرہ بن موید تھا۔ حضور کے انتقال کے وقت اس کی عمر تین سو سال کے قریب تھی۔ حضور کے بعد اس نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی خدمت کی اور بادشاہان وقت نے اس سے طول عمر کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے آب حیات پیا تھا۔ وہ مقتدر کے دور تک زندہ رہا۔ ہمارے مخالفین تو اس کی موت کو ہی تسلیم نہیں کرتے پھر کیا وجہ ہے کہ وہ امام قائم کی طول عمر کا انکار کرتے ہیں۔

معمر مغربی کے بارے میں

باب (۵۰)

۱۔ بیان کیا مجھ سے ابو سعید عبداللہ بن محمد بن عبدالوہاب بن نصر مجزی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے ابو بکر محمد بن فتح بقی، ابو الحسن علی بن حسن بن اشگی جو ابی بکر کے رشتہ دار تھے، ان دونوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ہم لوگوں کی ملاقات ایک شخص سے مکہ میں ہوئی۔ جس کا تعلق اہل مغرب سے تھا۔ ہم لوگ جو اصحاب حدیث کی ایک جماعت کے ساتھ بیت اندرج کے لئے آئے ہوئے تھے اس کی خدمت میں پہنچے۔ یہ تین سو نو مجزی تھا۔ ہم نے دیکھا کہ اس شخص کے سر اور داہمی کے سب بال سیاہ ہیں۔ مگر وہ خود ہڈی اور چہرے کا ایک ڈھانچہ ہے۔ جیسے خشک مشک۔ اور اس کے ارد گرد اس کی اولاد در اولاد اور اس کے ہم وطن سن رسیدہ اشخاص جمع ہیں۔ ان لوگوں نے بتایا کہ وہ لوگ مغربی ممالک کے بالکل آخری خطہ باہرہ علیا کے قریب کے رہنے والے ہیں۔ اور ان سن رسیدہ اشخاص نے گواہی دیتے ہوئے کہا: ہم نے لپٹے آباء سے اور انہوں نے لپٹے آباء و اجداد سے سنا ہے کہ ہم لوگ اس شخص کو جو ابوالدینیا معمر کہلاتا ہے اور جس کا نام علی بن عثمان بن خطاب بن مرہ بن موتیہ ہے ایک مدت سے دیکھتے آرہے ہیں۔ یہ ہمدانی ہے اور یمن کے بالائی حصہ کا باشندہ ہے۔ ہم نے اس معمر شخص سے پوچھا کیا آپ نے حضرت علیؑ کو دیکھا ہے۔ اس نے لپٹے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس کی بھویریں ٹنک کر آنکھوں پر آگئی تھیں۔ اس کی آنکھیں کھولی گئیں تو ایسا معلوم ہوا جیسے دو چراغ روشن ہیں۔ اس نے ہم سے کہا میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں ان کا خادم تھا۔ جنگ صفین میں ان کے ساتھ تھا اور یہ زخم کا نشان آپ کی سواری کی لات کا ہے۔ ہم نے اس زخم کا نشان اس کی سیدی ابرو پر دیکھا۔ سن رسیدہ اشخاص اس کے پوتوں، نواسوں اور دوسرے اہل خانہ میں سے جو لوگ اس کے گرد جمع تھے سب نے اس کو طول عمر کی گواہی دی اور کہا کہ جب سے ہم پیدا ہوئے اور ہوش سنبھالا ان کو اسی حال میں دیکھا ہے۔ اور لپٹے آباء و اجداد سے بھی ایسا ہی سنا ہے۔

جب ہم نے ان سے گفتگو کی تو دیکھا کہ وہ فاجر العقل نہیں ہیں اور جو بات بھی پوچھی جاتی اس کا سوچ سمجھ کر جواب دیتے ہم نے ان سے ان کے حالات پوچھے تو انہوں نے بیان کیا۔ میرے والد سابقہ کتابیں اور صحائف پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایک کتاب میں آب حیات کے بارے میں پڑھا کہ وہ ظلمات میں ہے اور جو اس کا پانی پی لے گا اس کی عمر بہت طویل ہو جائے گی۔ یہ پڑھ کر ان کے دل میں ظلمات جانے کا شوق ہوا۔ ہم نے زاد سفر فراہم کیا اور چند خادموں، دودھ دینے والی اونٹنیوں اور بار برداری کے اونٹوں کو لپٹے ساتھ لیا اور روانہ ہو گئے۔ اس وقت میری عمر تیرہ سال کی تھی۔ چلتے چلتے ظلمات تک جا پہنچے اور پھر ظلمات میں داخل ہو گئے ہم لوگ اس میں چھ دن رات تک مسلسل چلتے رہے۔ ہم رات اور دن کی تیز اس طرح کرتے تھے کہ دن میں ہلکی سے روشنی ہو جاتی تھی جو رات کی سیاہی

سے کچھ ہی کم ہوتی تھی۔ چلتے چلتے چند پہاڑوں اور وادیوں کے درمیان اتر گئے اور میرے والد چشمہ حیات کی تلاش میں ہر طرف جکر لگانے لگے۔ انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ چشمہ آب حیات اسی مقام پر واقع ہے۔ ہم نے چند دن وہاں قیام کیا یہاں تک کہ ہمارے ساتھ جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا تو ہم نے اونٹنی کے دودھ پر گزارا کیا اگر ہمارے ساتھ اونٹنیاں نہ ہوتیں تو ہم لوگ پیاس سے مر جاتے۔ میرے والد نگار چشمہ حیات کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتے رہے اور ہمیں حکم دیا کہ ہر وقت آگ جلائے رکھیں تاکہ رستے کی نشاندہی ہوتی رہے۔ اور انہیں ہم تک آنے میں وقت پیش نہ آنے۔ وہاں ہم پانچ دن ٹھہرے رہے اور میرے والد مسلسل تلاش میں مصروف رہے مگر چشمہ نہ مل سکا۔ بالآخر مایوس ہو کر واپسی کا ارادہ کیا۔ زاد راہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ خادموں کو جان کا خطرہ ہوا تو انہوں نے والد سے ظلمات سے باہر نکلنے کا اصرار کیا۔ ایک دن میں اپنے قافلہ سے نکل کر اپنی حاجت کے لئے تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اتفاقاً مجھے ایک چشمہ مل گیا۔ جس کا پانی سفید اور شیریں تھا۔ وہ چشمہ نہ تو بہت بڑا تھا اور نہ بالکل چھوٹا بلکہ درمیانہ درجہ کا تھا جو آہستہ آہستہ ابل رہا تھا میں اس کے قریب گیا اور دو تین چلو لے کر پانی پی لیا جو نہایت شیریں اور خوش ذائقہ اور ٹھنڈا تھا۔ میں بھاگ کر اپنے قافلے میں آیا اور خادموں کو خوشخبری سنائی کہ میں نے پانی کا ایک چشمہ پایا ہے۔ ان لوگوں نے مشکلیں اٹھائیں اور میرے ساتھ ہوئے۔ مجھے اس وقت اس بات کا قطعاً خیال نہیں رہا کہ میرے والد چشمہ کی تلاش میں ہیں۔ بلکہ مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ میرے قافلہ میں پانی ختم ہو گیا ہے اور مجھے چشمہ مل گیا۔ میرے والد اس وقت موجود نہ تھے بلکہ پانی کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں نے اس چشمہ کو بہت تلاش کیا مگر چشمہ دوبارہ نہیں ملا۔ خادموں نے مجھے بھٹھلایا اور کہا: تم نے سچ نہیں بولا۔ پس ہم اپنی قیام گاہ کے پاس واپس آئے تو دیکھا کہ والد صاحب بھی واپس آچکے تھے۔ میں نے ان سے سارا قصہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا: میرے فرزند میں نے اسی چشمے کی خاطر اتنے مصائب برداشت کئے مگر میں اس کو نہ پاسکا اور تم کو مل گیا۔ اب جہاری عمر اتنی طویل ہوگی کہ تم خود زندگی سے عاجز آ جاؤ گے۔ پھر ہم لوگ واپس اپنے گھر گئے۔ والد چند برس زندہ رہے اور اس کے بعد انتقال کر گئے۔ اللہ ان سے راضی ہو۔

جب میری عمر تیس سال کے قریب ہوئی تو اس دوران میں رسول خدا اور ان کے بعد دو خلفاء انتقال کر چکے تھے تبیری خلافت کے آخری دور میں حج کے لئے مکہ آیا تو تمام اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میرا دل حضرت علی کی طرف مائل ہوا۔ چنانچہ میں ان کی خدمت پر مامور ہو گیا اور ان کے ساتھ تمام جنگوں میں حاضر رہا۔ جنگ صفین میں ان کے گھوڑے کے پیروں سے جو زخم آیا تھا اس کا نشان یہ رہا۔ اس کے بعد بھی میں مسلسل ان کی خدمت کرتا رہا یہاں تک کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر ان کی اولاد اور اہل خانہ نے بہت اصرار کیا کہ میں ان کے پاس رہوں مگر میں اپنے وطن واپس آ گیا۔

بنی مروان کے دور میں پیرج کے لئے نکلا اور لہنے ہم وطنوں کے ساتھ واپس ہوا۔ میں جب بھی کسی سفر پر نکلتا ہوں تو بلاد مغرب کے جن سلاطین کو میری طول عمری کی خبر ہوتی ہے وہ مجھے لہنے دربار میں بلاتے ہیں اور مجھ سے میری طویل عمر اور میرے مشاہدات و تجربات کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ میری خواہش تھی کہ میں آخری حج اور کرلوں چنانچہ یہ میرے پوتے اور نواسے جنہیں تم لوگ میرے گرد دیکھ رہے ہو مجھے یہاں لاتے ہیں۔

معر مغربی نے کہا کہ میرے دانت دو یا تین مرحلے ٹوٹے اور پھر نکل آئے۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے جو احادیث امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سے سنی ہیں۔ وہ ہم سے بیان کریں۔ انہوں نے کہا: مجھے حصول علم کا نہ شوق تھا اور نہ حوصلہ۔ اور آپ کے اصحاب بھی آپ سے کثیر علم حاصل کر رہے تھے۔ چونکہ مجھے مولا سے بہت محبت تھی اس لئے میں صرف ان کی خدمت میں مشغول رہتا تھا پھر بھی جو کچھ میں نے مولا سے سنا وہ بلاد مغرب و مصر و حجاز کے بہت سے علم دوست لوگوں کو سنایا۔ اور وہ سب وفات پا چکے مگر میرے ان پوتوں اور نواسوں نے وہ سب کچھ لکھ لیا ہے پھر انہوں نے ایک کتاب لکالی اور چند احادیث ہمیں پڑھ کر سنائیں (جو ذیل میں درج ہیں)۔

۲۔ بیان کیا مجھ سے ابوالحسن علی بن عثمان بن خطاب بن مرثد بن موئذ ہمدانی المعروف بہ ابو الذیاب معمر مغربی نے (اللہ ان سے راضی ہو زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی) کہ ایک دن حضرت علی ابن ابی طالب نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اہل یمن سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی اور جس نے اہل یمن سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔

۳۔ بیان کیا ہم سے ابو الذیاب معمر مغربی نے کہ مجھ سے حضرت علی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کسی مصیبت زدہ کی مدد کرے گا اللہ اس کے لئے دس نیکیاں لکھے گا۔ دس گناہ مٹا دے گا اور اس کے دس درجہ بلند کر دے گا۔

پھر امیرالمؤمنین نے فرمایا کہ حضور اکرم کا ایک اور ارشاد ہے کہ جو کوئی اپنے مومن بھائی کی حاجت برآوری کے لئے کوشش کرے گا بغرض خوشنودی خدا تو اس کا یہ عمل ایسا ہے جیسے گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی ایک ہزار سال تک خدمت کی اور ایک لمحہ کے لئے بھی اس نے اللہ کی مصیبت نہیں کی۔

۴۔ بیان کیا ہم سے ابو الذیاب معمر مغربی نے کہ میں نے حضرت علی ابن ابی طالب کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بھوک لگی اس وقت آپ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا: اے علی دسترخوان لاؤ۔ میں دسترخوان لایا تو اس میں سے کچھ روٹی اور بھنا ہوا گوشت نکلا۔

۵۔ بیان کیا مجھ سے ابو الذیاب معمر مغربی نے کہ میں نے امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب کو فرماتے ہوئے سنا کہ جنگ خیبر میں میرے جسم پر پھیس دھم آئے تھے۔ جب میں اس حال میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ مجھے دیکھ

کر روئے گئے اور آپ نے اپنے آنسوؤں کو میرے زخموں پر لگایا تو وہ زخم فوراً مندمل ہو کر اچھے ہو گئے۔

۶۔ بیان کیا مجھ سے ابو الدنیا معمر مغربی نے کہ حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ حضور کا ارشاد ہے کہ جس نے سورہ قل هو اللہ احد کی ایک بار تلاوت کی گویا اس نے ایک جہائی قرآن کی تلاوت کی۔ جس نے دو مرتبہ تلاوت کی اس نے گویا دو جہائی قرآن پڑھا۔ جس نے تین مرتبہ تلاوت کی اس نے گویا پورا قرآن پڑھ لیا۔

۷۔ بیان کیا مجھ سے ابو الدنیا معمر مغربی نے کہ میں نے حضرت علی ابن ابی طالب کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک مرتبہ بکریاں چرا رہا تھا کہ میرے سامنے ایک بھیڑیا آگیا۔ میں نے اس سے کہا تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا اور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ گھ بانی کر رہا ہوں۔ پس وہ واپس چلا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک دن میں اپنے ریوڑ کو پانی پلا رہا تھا کہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری کو پکڑ لیا اور چیر بھاڑ دیا تو میں نے اس کی گردن پکڑی، اسے ذبح کیا اور اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر میں اس (ذبح شدہ بکری) کو بازار میں لے گیا کہ اچانک تین فرشتے میرے سامنے نمودار ہوئے جبریل، میکائیل اور ملک الموت۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہا کہ یہ محمد ہیں۔ جن میں اللہ نے برکت دی ہے۔ پس انہوں نے مجھے لٹایا اور اس چھری سے جو ان کے پاس تھی میرا سینہ چاک کیا اور میرے سینے سے دل نکالا اس کو ٹھنڈے پانی سے دھویا جو ان کے پاس ایک کنورے میں تھا۔ یہاں تک کہ اس پر سے خون بالکل صاف ہو گیا اور پھر اس کو واپس میرے سینے میں رکھ دیا۔ پھر اپنا ہاتھ میرے سینے پر پھیرا تو اللہ عزوجل کے حکم سے میرا سینہ سالم ہو گیا مجھے چھری سے درد اور تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ میں وہاں سے واپس اپنی رعنائی ماں حلیمہ کے پاس آیا انہوں نے پوچھا: جانور کہاں ہیں؟ میں نے ان کو سارا واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا: قریب ہے کہ تمہیں جنت میں عقیم منزل ملے۔

۸۔ بیان کیا مجھ سے ابو سعید عبداللہ بن محمد بن عبدالوہاب نے ان سے ابو بکر محمد بن فخر بقی اور ابو الحسن علی بن حسین اشکی نے کہا کہ مکہ کے گورنر کے پاس جب ابو الدنیا کے متعلق خبر پہنچی تو وہ متعزز ہوا اور بولا کہ تم کو میرے ساتھ لازماً بغداد مقتدر کے پاس جانا ہوگا۔ اگر اسے اطلاع ہوئی تو وہ مجھ پر ناراض ہوگا کہ میں نے تم کو جانے کیوں دیا پس اہل مزرب و اہل مصر و شام کے حاجیوں نے کہا کہ اسے صحاف کریں اور سفر نہ لے جائیں کیوں کہ یہ بوڑھا شخص ہے اور جو کچھ اس پر گزرے گی اس سے یہ زندہ نہ بچ سکے گا تب اس کی جان بخشی ہوئی۔

ابو سعید کہتے ہیں کہ اگر میں اس سال حج کے لئے جاتا تو ابو الدنیا سے ضرور ملاقات کرتا۔ اس کی شہرت تمام شہروں میں پھیل گئی تھی اور مصر و شام و بغداد وغیرہ کے محدثین نے اس سے احادیث نقل کی تھیں۔ مجھے بھی شوق تھا کہ میں اس سے ملتا اور احادیث نقل کرتا۔

۹۔ خبر دی مجھ کو ابو محمد حسن بن محمد بن یحییٰ بن حسن بن جعفر بن عبداللہ بن حسن بن علی بن حسین بن علی

ابن ابی طالب علیہم السلام نے کہ مجھے حدیث میں سے صحیح (حدیث روایت کرنے) کا اجازہ مرحمت فرمایا گیا اور میرے نزدیک حدیث شریف ابو عبد اللہ محمد بن حسن بن اسحاق بن حسین بن اسحاق بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب علیہم السلام درست ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے سن ۳۱۳ ہجری میں حج کیا اور ۸۰ سال متقدّر باللہ کا صاحب نصر قشوری بھی حج کے لئے آیا تھا۔ اس کے ساتھ عبد اللہ بن حمدان جس کی کنیت ابو الہیاء تھی بھی تھا۔ ہم سب ذیقعد میں مدینہ پہنچے تو وہاں اہل مصر کا ایک قافلہ ملا جس میں ابو بکر محمد بن علی مازرانی بھی تھا۔ اس کے ساتھ اہل مغرب کا ایک شخص تھا جس کے متعلق معلوم ہوا کہ اس نے حضور کے اصحاب میں ایک شخص آ کو دیکھا ہے۔ اس کو دیکھنے اور اس سے ملنے کے لئے لوگوں کا اڑھام تھا۔ لوگوں نے اسے گھیرا ہوا تھا وہ اسے حیرت سے دیکھتے اور چھوتے تھے۔ قریب تھا کہ اس اڑھام اور وحکم پیل کے باعث اس کی روح پرواز کر جائے۔ میرے چچا ابو القاسم طاہر بن یحییٰ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس مجمع کو منتشر کر دو۔ چنانچہ غلاموں نے ایسا ہی کیا اور معمر مغربی کو ابن ابو سہل طفلی کے گھر میں شہر لایا گیا میرے چچا وہاں آئے اور لوگوں کو ایک ایک کر کے اس سے ملاقات کی اجازت دی گئی۔ معمر مغربی کے ساتھ پانچ افراد تھے جو اس کے فرزندوں کے فرزند تھے۔ ان میں ایک ۸۰ سال سے زائد عمر کا بوڑھا شخص بھی تھا جس کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ معمر مغربی کا پوتا ہے۔ دوسرا ۶۰ سال اور دو اشخاص پچاس یا ساٹھ سال کے تھے جو اس کے پوتے تھے۔ پانچواں شخص ۱۰ سال کا تھا جو اس کا پڑپوتا تھا۔ اس سے کم عمر اور کوئی نہیں تھا۔ معمر مغربی کو دیکھنے سے تپ چلتا تھا کہ وہ تیس چالیس سال سے زیادہ کا نہ ہوگا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سیاہ تھے وہ دبلا پتلا، پستہ قد، چھوٹے پیروں اور چمکے ہوئے گال والا شخص تھا۔ ابو محمد علوی کہتے ہیں کہ یہ شخص جس کا نام علی بن عثمان بن خطاب بن مرہ بن موئذ تھا نے مجھ سے چند احادیث بیان کیں جن کو میں نے اسی کے الفاظ میں لکھ لیا۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے نیچلے ہونٹ اور تھوڑی کے درمیان کے بال سفید تھے جب وہ کھانا کھا لیتا تو وہ سیاہ ہو جاتے۔

ابو محمد علوی کہتے ہیں کہ مدینہ کے اشراف اور حاجیوں کی ایک جماعت اور دوسرے بہت سے افراد نے اگر یہ احادیث نہ سن لی ہوتی تو میں نے بھی جو کچھ سنا تھا اسے بیان نہ کرتا۔ میں نے اس سے کچھ احادیث مدینہ اور مکہ میں اسمعیل کے مشہور مکان میں جو مکبرتہ کے نام سے مشہور ہے اور جو علی بن عیسیٰ بن جراح کا ہے سنیں۔ اور باب صفا کے نزدیک قشوری کے خیمے میں اور مازرانی کے خیمے میں۔ نصر قشوری کا ارادہ ہوا کہ معمر مغربی اور اس کی اولاد کو اپنے ساتھ بغداد متقدّر کے پاس لے جائے مگر اہل مکہ نے آکر کہا کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پچھلوں سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ اگر معمر مغربی بغداد میں داخل ہو گیا تو بغداد سیاہ ہو جائے گا اور بادشاہت پر روال آجائے گا۔ یہ سن کر اس نے ساتھ لے جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اور بلاد مغرب کی طرف پلٹا دیا ہم نے اہل مغرب اور اہل مصر کے مشائخ سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم اپنے آباء کرام اور بزرگوں سے اس شخص کا نام اور اس کے وطن طنجہ

کا نام سنتے آرہے ہیں۔ اور ہم نے بھی اس سے بہت سی احادیث اپنی اس کتاب میں نقل کی ہیں۔

ابو محمد علوی کا بیان ہے کہ اس بزرگ یعنی علی بن عثمان سمر مغربی نے اپنے سفر اول کا حال اس طرح بیان کیا "میرے والد اور چچا مجھے اپنے ساتھ لے کر حج اور زیارات کے ارادے سے حضرموت (ایک شہر کا نام) سے نکلے دوران سفر راستہ بھٹک گئے۔ تین رات اور تین دن تک راستہ معلوم نہ کر سکے۔ چلتے چلتے رست کے ٹیلوں میں جسے دل عاجز کہتے ہیں جو رمل اور ذات العماد سے متصل ہے پھنس گئے۔

ابھی ہم لوگ اسی پریشانی میں گرفتار تھے کہ ہمیں کسی شخص کے بڑے بڑے قدموں کے نشان نظر آئے ہم ان نشانوں کو دیکھتے ہوئے چلے۔ یہاں تک کہ ایک قریہ میں پہنچے ہم نے دیکھا کہ دو افراد کنوئیں یا چنمہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ہی انہوں نے ہمیں دیکھا تو ان میں سے ایک شخص اٹھا اور ایک ڈول پانی سے بھر کر ہماری طرف آیا اور ہمیں پانی پیش کیا۔ والد صاحب نے کہا کہ آج شام ہم لوگ اسی کنوئیں پر قیام کریں گے اور اسی سے افطار کریں گے۔ پھر وہ شخص میرے چچا کے پاس آیا اور بولا: یہ پانی پی لو۔ انہوں نے بھی وہی کہا جو میرے والد صاحب نے کہا تھا۔ پھر اس نے وہ ڈول میری طرف بڑھایا اور بولا: لو اس سے پانی پی لو۔ میں نے اس میں سے پانی پیا تو وہ شخص کہنے لگا تمہیں مبارک ہو تم علی ابن ابی طالب سے ملاقات کرو گے۔ جب تم ان سے ملو تو کہنا کہ عمروالیاس نے آپ کو سلام کہا ہے۔ اور انہیں یہ واقعہ سنا دینا۔ اے فرزند تم اپنے حرمہ زندہ رہو گے کہ امام قائم اور حضرت عیسیٰ سے ملاقات کرو گے۔ جب تم ان سے ملو تو ہمارا سلام انہیں پہنچانا۔ اس کے بعد مجھ سے دریافت کیا کہ یہ دونوں تمہارے کیا لگتے ہیں؟ میں نے کہا: میرے والد اور چچا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے چچا تو مکہ نہ پہنچ سکیں گے البتہ تم اور تمہارے والد مکہ پہنچ جاؤ گے۔ مگر تمہارے والد کا انتقال ہو جائے گا۔ تمہاری عمر طویل ہوگی۔ تم حضور سے ملاقات نہ کر سکو گے۔ کیونکہ ان کا انتقال ہونے والا ہے۔

خدا کی قسم یہ کہہ کر وہ دونوں نہ معلوم کہاں چلے گئے۔ آسمان کی طرف یا زمین میں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ نہ وہاں قدموں کے نشان ہیں اور نہ کوئی چنمہ نہ ہی پانی۔ ہمیں اس واقعہ پر بڑی حیرت ہوئی۔ ہم سب نجران کی طرف واپس لگے۔ وہاں میرے چچا بیمار ہوئے اور مر گئے۔ میں اور میرے والد نے حج ادا کیا پھر مدینہ گئے۔ وہاں میرے والد بیمار ہو گئے اور انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب کو میرے بارے میں وصیت کی اور ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت علی نے میری پرورش فرمائی۔ میں تینوں دور خلافت میں اور پھر حضرت علی کی خلافت ظاہری میں بھی جناب امیرالمومنین علی ابن ابی طالب کے ساتھ رہا۔ یہاں تک کہ ابن ملجم نے آپ کو شہید کر دیا۔ اللہ کی اس پر لعنت ہو۔

جب حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ ہوا تو انہوں نے مجھے بلایا اور ایک خط اور ایک سواری دے کر مجھ سے کہا کہ یہ خط حضرت علی کے پاس پہنچا دو۔ حضرت علی اس وقت مدینہ میں نہ تھے بلکہ اپنی زمینوں پر گئے ہوئے تھے۔ میں وہ

خط لیکر روانہ ہوا ابھی میں ابی عباہ کی دیوار تک ہی پہنچا تھا کہ تلاوت قرآن کی آواز میں نے سنی۔ دیکھا کہ مولا علی ابن ابی طالب مقام ینبوع سے اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے تشریف لارہے ہیں۔ افسوس ہم انما خلقناکم عبثاً وانکم الینا لا ترجعون (سورۃ مومنون آیت ۱۱۵) سو کیا تم خیال رکھتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد بنایا اور تم ہمارے پاس پھر کر نہ آؤ گے۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا اے ابو الدنیا کیا بات ہے جہاں کیسے؟ میں نے عرض کیا ایک خط ہے جو عثمان نے دیا ہے آپ نے خط کھولا تو اس میں یہ شعر لکھا تھا۔

فان کنت ما کولا فکن انت اکل
والا فا درکنی ولما امرق

یعنی اگر میں اس لائق ہوں کہ کھالیا جاؤں تو پھر آپ ہی مجھے کھالیں ورنہ اس سے پہلے کہ میں چیر پھاڑ دیا جاؤں میری مدد کو پہنچیں۔

آپ نے خط پڑھ کر فرمایا۔ چلو مگر جب ہم مدینہ پہنچے تو عثمان قتل ہو چکے تھے۔ آپ حدیث بنی نجران کی طرف مڑ گئے جب لوگوں کو آپ کی آمد کا پتہ چلا تو آپ کے پاس دوڑے ہوئے آئے۔ اس سے پہلے ان لوگوں کا ارادہ تھا کہ طلحہ کی بیعت کریں مگر آپ کو دیکھا تو اس طرح دوڑتے ہوئے آئے جیسے بکریوں کے گلے پر جب کوئی بھیریا حملہ کرتا ہے تو وہ بھاگتی ہیں۔ سب سے پہلے طلحہ نے پھر زبیر نے اور ان کے بعد مہاجرین و انصار نے بیعت کی۔ میں آپ کی خدمت گزار میں مصروف رہا۔ میں جنگ جمل اور جنگ صفین میں موجود تھا۔ صفین میں ایک مرتبہ جب آپ کے ہاتھ سے تازیانہ چھوٹ کر گر گیا تو میں آپ کی داہنی جانب کھڑا تھا میں نے جھک کر تازیانہ اٹھانا چاہا تو گھوڑے کی لجام جو لوہے کی تھی میری بھنوں پر آگئی جس کے باعث زخم ہو گیا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے مجھے بلایا اور اپنا لعاب دہن زخم پر لگایا اور ایک چمکی خاک اس پر ڈال دی۔ خدا کی قسم اس کی برکت سے فوراً درد رک گیا۔ میں آپ کی خدمت میں رہا۔ پھر امام حسن کی خدمت میں رہا جب کہ ساباط مدائن میں آپ کو زخمی کر دیا گیا میں آپ کے ہمراہ مدینہ آ گیا۔ آپ کی خدمت میں مشغول رہا یہاں تک کہ جعدہ بنت اشعث ابن قیس کنفی، اللہ کی اس پر لعنت ہو، نے معاویہ کے ساتھ مل کر سازش کی اور امام حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا۔

پھر میں امام حسین کے ہمراہ کربلا پہنچا جب امام حسین شہید کر دیئے گئے تو میں بنو امیہ کے خوف سے بھاگ کر بلاد مغرب چلا گیا اور اب ظہور امام قائم اور حضرت عیسیٰ کے خروج اور نزول کے انتظار میں ہوں۔

ابو محمد علوی کا بیان ہے کہ میں نے ان بزرگ میں ایک عجیب بات دیکھی وہ یہ کہ جب وہ میرے چچا طاہر بن یحییٰ کے گھر میں یہ واقعات بیان کر رہے تھے تو ان کے نیچے کے ہوشد اور ٹھڈی کے درمیان کے بال سرخ ہو گئے پھر سفید ہو گئے۔ میں (اس سے پہلے) دیکھ چکا تھا کہ ان کے سر اور داڑھی میں سفید بال نہ تھے۔ جب ان بزرگ نے مجھے

مستحب دیکھا تو کہا تم کیا دیکھ رہے ہو۔ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ اور جب میرا پیٹ بھر جاتا ہے تو یہ بال سیاہ ہو جاتے ہیں۔ پس میرے بچانے کھانا منگوا دیا تو تین طشت کھانے سے بھرے ہوئے آئے۔ ایک طشت معمر مغزنی کے سامنے رکھا گیا اور اس میں کچھ حاضرین کے ساتھ میں بھی کھانے میں شریک ہو گیا۔ باقی دو طشت اور لوگوں کے درمیان رکھ دیئے گئے۔ میرے بچانے لوگوں سے کہا: میرا حق تم لوگوں پر ہے تو تم کیوں نہیں کھاتے اور کیوں ہمارے کھانے کو لپٹے اور حرام کرتے ہو۔ پس کچھ لوگوں نے کھانا کھایا اور کچھ لوگوں نے نہیں کھایا۔ میرے بچا معمر مغزنی کے دامنی جانب بیٹھے تھے۔ وہ خود بھی کھاتے اور ان کی طرف بھی بڑھاتے جاتے تھے۔ میں نے دیکھا انہوں نے اتنا کھانا کھایا جتنا ایک جوان آدمی کھاتا ہے میں نے دیکھا کہ ان کے ہونٹ اور ٹھڈی کے درمیان کے بال سیاہ ہوتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ جب وہ پیٹ بھر کر کھا چکے تو سب بال سیاہ ہو گئے۔

۳۔ بیان کیا مجھ سے علی بن عثمان بن خطاب نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے حضرت علی ابن ابی طالب نے انہوں نے کہا کہ بتاب رسول خدا کا ارشاد ہے کہ جس نے اہل یمن سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی اور جس نے اہل یمن سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔

باب (۵۱) عبید بن شریہ جمرہ

۱۔ بیان کیا مجھ سے ابو سعید عبداللہ بن محمد بن عبدالوہاب جمری نے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی ابوالحسن کی خود نوشت کتاب میں ایک تحریر دیکھی کہ میں نے ایک صاحب علم کو بیان کرتے ہوئے سنا جو کتابیں پڑھتا تھا اور حدیثیں سنتا تھا کہ عبید بن شریہ جمری تین سو پچاس سال تک زندہ رہا۔ اس نے حضور اکرم کا عہد مبارک دیکھا اور اسلام لایا۔ پھر حضور کی وفات کے بعد بھی زندہ رہا یہاں تک کہ معاویہ سے اس کے غلبہ اور حکومت کے دور میں ملا معاویہ نے کہا کہ اے عبید مجھے بتاؤ تم نے زمانے کو کبھی پایا کیا کیا سنا اور کیا کیا دیکھا؟

عبید نے کہا کہ زمانے میں تو کوئی فرق نہیں پایا جیسے پہلے رات دن تھے ویسے اب بھی ہیں۔ جیسے پہلے لوگ چیتے مرتے تھے ویسے اب بھی چیتے مرتے ہیں۔ ہاں لوگ اپنے زمانے کو برا کہتے ہیں۔ میں نے ایسے شخص کو دیکھا ہے اور اس سے ملا ہوں جو ایک ہزار سال زندہ رہا اور اس شخص نے بتایا کہ وہ ایسے شخص سے ملا تھا جو دو ہزار سال زندہ رہا۔

اور جو کچھ میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ سلاطین حیران میں سے ایک بادشاہ جو یمن کے شاہوں میں سے تھا، ایسا شخص کہ تمام شہروں والے اس سے واقف تھے۔ اسے ذر مہر کہتے تھے۔ نوجوانی میں اسے بادشاہت مل گئی تھی۔ وہ اچھے اخلاق سے اپنی رعایا کے ساتھ پیش آتا تھا۔ ان پر مہربان تھا لوگ اس کی اطاعت کرتے تھے اس نے سات سو سال حکومت کی۔ وہ اکثر اپنے مساجد کے ساتھ پیش آتا تھا۔ ان پر مہربان تھا لوگ اس کی اطاعت کرتے تھے اس نے سات سو سال حکومت کی۔ وہ اکثر اپنے مساجد کے ساتھ پیش آتا تھا۔ ان پر مہربان تھا۔ ایک دن وہ سیر کے لئے نکلا تو راستے میں دو

سانپ نظر آئے ایک چاندی کی طرح سفید اور دوسرا کونکھ کی طرح سیاہ۔ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ کالا سانپ سفید سانپ پر غالب آگیا اور قریب تھا کہ سفید سانپ ہلاک ہو جائے، بادشاہ نے کالے سانپ کو مار ڈالا اور سفید سانپ کو اٹھایا۔ ایک چشمہ پر لے جا کر اس کو پانی پلایا تو اس کو ہوش آیا۔ پھر اسے چھوڑ دیا وہ رینگتا ہوا چلا گیا۔ بادشاہ اپنی قیام گاہ پر واپس آیا جب شام ہوئی تو وہ لپٹے محل میں واپس آگیا اور ایسے تھلیے میں جا کر بیٹھا جہاں کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی ناگاہ اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان جس کی خوبصورتی کی تعریف نہیں ہو سکتی چوکھٹوں پر ہاتھ رکھے کھڑا ہے اس نے سلام کیا۔ بادشاہ کو خوف محسوس ہوا۔ اس نے کہا: تم کون ہو اور جہاں کیسے آئے جبکہ جہاں کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے؟ اس نوجوان نے جواب دیا: اے بادشاہ خوف نہ کھائیں۔ میں انسان نہیں ہوں بلکہ ایک جن ہوں اور آپ کو اس عینک سلوک کا بدلہ دینا چاہتا ہوں جو آپ نے میرے ساتھ کیا۔ بادشاہ نے کہا: میں نے جہاں کے ساتھ کیا عینکی کی ہے؟ اس نے کہا: میں دراصل وہی سانپ ہوں جس کی آج آپ نے جان بچائی ہے اور جس سانپ کو آپ نے قتل کیا اور مجھے بچایا وہ میرا غلام تھا جو باغی ہو گیا تھا۔ اور میرے خاندان کے بہت سے افراد کو قتل کر چکا تھا۔ اور جب بھی کسی کو تنہا پاتا قتل کر دیتا تھا اور آپ نے میرے دشمن کو قتل کر دیا اور مجھے بچایا پس میں آپ کو اس کے بدلے کچھ دینا چاہتا ہوں اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اے بادشاہ ہم جن ہیں الجن نہیں ہیں۔ بادشاہ نے دریافت کیا جن اور الجن میں کیا فرق ہے؟ پس ہمیں پر تحریر ختم ہو گئی اور اسے آخر تک نہیں پہنچایا گیا۔

ربیع بن ضیح فزاری

باب (۵۲)

۱۔ بیان کیا مجھ سے احمد بن یحییٰ مکتب نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے ابو طیب احمد بن محمد وراق نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا محمد بن حسن بن درید ازوی عمائی نے ان کتابوں میں جنہیں انہوں نے تصنیف کیا اور اسے ہم نے دوسری خبروں میں بھی پایا جس میں انہوں نے کہا کہ عبدالملک بن مردان کے پاس جو وفد گیا تھا اس میں ربیع بن ضیح فزاری بھی تھا۔ جو سمرترین افراد میں سے ایک تھا۔ اس کے ساتھ اس کا پوتا وھب بن عبداللہ بن ربیع بھی تھا۔ جو خود بہت ضعیف تھا۔ اس کی ابرو لٹک کر آنکھوں پر آگئی تھیں جن کو وہ پیشانی پر باندھ لیتا تھا۔ جب حاجب نے اسے دیکھا تو سب سے زیادہ ضعیف سمجھ کر اس سے کہا بزرگوار پہلے آپ اندر آجائیں وہ عصا لیکتا ہوا اندر آیا اور عصا سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی داڑھی اس کے گھٹنوں تک پہنچ گئی تھی۔ جب عبدالملک نے اسے دیکھا تو بولا: بزرگوار بیٹھ جاؤ۔ وہ بولا: میں کیسے بیٹھ جاؤں جبکہ میرے دادا دروازے پر کھڑے ہیں۔ عبدالملک بولا: اچھا تو تم ربیع بن ضیح کے پوتے ہو۔ اس نے کہا: ہاں میں وھب بن عبداللہ بن ربیع ہوں۔ عبدالملک نے حاجب کو حکم دیا کہ ربیع کو حاضر کرو۔ حاجب نے آواز دی: ربیع کون ہے؟ ربیع نے بڑھ کر کہا: میں ربیع ہوں اور تیزی سے دربار میں حاضر ہو گیا اور سلام

بجایا۔ عبدالملک نے اپنے ہم نشینوں سے کہا وائے ہو تم پر یہ تو دو آدمیوں سے زیادہ جوان ہے اسے ربیع تم نے عمر کیسے گزاری اور کیا کیا دیکھا؟ ربیع نے کہا: میں وہ ہوں جس نے کہا ہے۔

ما انا ذا آمل الحلود وقد
انگا رہو میں وہ ہوں جو ابدیت اور ہمیشگی کی امید رکھتا ہوں۔
ادرک عمری ومولدى حجرا
میری زندگی اور پیدائش نے بہت سے ادوار کو دیکھا اور سمجھا ہے۔
انا امرء القيس قد سمعت به
میں امرائیس ہوں یقیناً تم نے اس کے بارے میں سنا ہوگا۔
ميهات ميهات طال ذا عمرا
ہائے افسوس ہائے افسوس اس کی عمر طولانی ہو گئی۔

عبدالملک نے کہا: میں نے یہ جہارے اشعار میں دیکھا ہے اور میں بچہ تھا۔ اس نے کہا اور میں نے کہا تھا۔

اذا عاش الفتى مانتين عاماً فقد ذهب الذاذة والفتاء

جب آدمی دو سو سال زندگی گزارے تو لذتیں اور جوانی چلی جاتی ہے

عبدالملک نے کہا: میں نے یہ بھی دیکھا ہے جب میں لڑکا تھا۔ اسے ربیع تم نے بہترین خوش قسمتی کو طلب کیا پس مجھے اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤ۔ تو اس نے کہا: میں نے دو سو سال حضرت محمدؐ اور حضرت عیسیٰؑ کے درمیان کے زمانہ فترت میں گزارے پھر دور جاہلیت میں ایک سو بیس سال پھر دور اسلام میں ساٹھ سال گزارے عبدالملک نے کہا: تم قریش میں سے کس کس کو جانتے ہو؟ اس نے کہا: آپ جس کا چاہیں حال پوچھ لیں۔ عبدالملک نے کہا: عبداللہ بن عباس کیسے آدمی تھے۔ جواب دیا: وہ صاحب علم و فہم، جود و سخا اور حلیم و بردبار تھے، کہا: عبداللہ بن عمر کے متعلق مجھے بتاؤ۔ جواب دیا: کہ وہ صاحب علم و حلم، احسان کرنے والے اور غیظ کو قابو میں رکھنے والے اور قلم سے دور رہنے والے تھے۔ پوچھا: عبداللہ بن جعفر؟ کہا کہ وہ ہلکی اور بھیننی خوشبو کی طرح اور نرم دل تھے اور مسلمانوں کو ان سے کوئی ضرر نہ پہنچا تھا۔ پوچھا عبداللہ بن زبیر کے متعلق کیا خیال ہے؟ کہا کہ وہ ایک ایسا پہاڑ تھے جس سے پتھانیں ٹوٹ کر گرتی تھیں۔

عبدالملک نے کہا: خدا کی قسم تم کو یہ معلومات کیسے حاصل ہوئیں؟ کہا: کچھ ان کی قرابت میں رہ کر اور کچھ ان کے بارے میں خبریں جو مجھ تک پہنچیں۔

باب (۵۳)

شق الکاهن

۱۔ بیان کیا مجھ سے احمد بن یحییٰ مکتب نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے ابو طیب احمد بن محمد دراق نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن حسن بن درید ازدی عمانی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے احمد بن عینی ابو بشیر عقلی نے ان سے ابو حاتم نے ان سے ابو قبیصہ نے ان سے ابن کلبی نے ان سے ان کے والد نے کہا کہ میں نے جبیلہ کے بزرگوں سے سنا ہے کہ انہوں نے آدمیت و شرف اور خوبصورتی میں (شق الکاهن کی طرح) کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ خبر دیتے ہیں کہ شق الکاهن تین سو سال زندہ رہا۔ جب اس کے سر نے کا وقت آیا تو اس کی قوم کے لوگ اس کے پاس جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں کچھ نصیحتیں کرو کیونکہ اب جہارا آخری وقت ہے۔ اس نے کہا۔ اے لوگو! تم آپس میں متحد رہنا۔ قطع تعلق نہ کرنا ایک دوسرے کے آگے آگے رہنا، پیچھے نہ رہنا۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا۔ لہنے فراغ کو ادا کرنا۔ کچھ دار آدمی کو اپنا سردار بنانا۔ بخشش کرنے والے کی تعظیم کرنا۔ بزرگوں کی عزت کرنا کمینہ کو ذلیل کرنا۔ سنجیدگی کے موقع پر برہنہ رہنا۔ اپنی نیکیوں کو احسان جتا کر برباد نہ کرنا۔ دشمن پر قدرت حاصل ہو جانے کے بعد اسے معاف کر دینا۔ جب عاجز ہو جاؤ تو صلح کر لینا۔ اور جب تم سے چال بازی کی جائے تو احسان کرنا۔ بزرگوں کی اطاعت کرنا دشمنی کے موقع پر اصلاح کی دعوت دینے میں سہکت کرنا۔ کیونکہ یقیناً دشمنی میں انتہا کو پہنچنا ایسا زخم ہے جس کا بھرننا مشکل ہے۔ کسی کے نسب پر طعنہ زنی نہ کرنا۔ عیب جوئی نہ کرنا۔ اپنی لڑکیوں کو غیر کفو میں نہ دینا کیوں کہ یہ بڑے عیب اور رسوائی کی بات ہے۔ نرمی سے کام لینا کیوں کہ سختی کا انجام ندامت ہے اور ملامت کی کمائی ہے۔ صبر کرنا بدلہ لینے سے زیادہ سود مند ہے۔ تقناعت بہترین دولت ہے۔ لوگ حرم و طمع کے غلام ہیں۔ ہلاکت ان کی ہم نشین ہے، ان کی سواری جزع و فرج اور رسوا کرنے والی ذات کی روح ہے۔ وہ ایسے ناظر ہیں جن کی اونگھتی ہوئی آنکھوں میں ہمیشہ لہنے والوں کی امید اور اپنی جاہلادوں (کے ضائع ہونے) کا خوف شامل رہے گا۔ پھر اس نے کہا: یہ کسی نصیحت ہے جو فصیح شیرینی سے گری ہوئی ہے جب کہ اسے اہتائی سخت اور مضبوط ہونا چاہیے اور نصیحت کی کان ہر ایک کے لئے عام نہیں۔ پھر وہ مر گیا۔

اس کتاب کے مؤلف فرماتے ہیں کہ ہمارے مخالفین اسی طرح کی بہت سی احادیث نقل کرتے ہیں اور ان کی تصدیق کرتے ہیں اور وہ شداد بن عاد بن ارم کے متعلق بھی روایت کرتے ہیں کہ وہ نو سو سال زندہ رہا۔ نیز اس کی جنت کے اوصاف روایت کرتے ہیں اور یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ جنت اسی زمین پر ہے مگر لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ یہ لوگ صرف حق اور اہل حق سے بلبس و عناد کی وجہ سے قائم آل محمد کا انکار کرتے ہیں۔ اور ان سے متعلق روایات سے انکار کرتے ہیں۔

باب (۵۴) شداد بن عاد بن ارم اور ذات عماد کی جنت کہ اس جیسی روئے زمین پر

کوئی اور نہیں بنائی گئی

۱۔ ایک خط کے ذریعہ محمد بن ہارون زنجانی نے مجھے خبر دی کہ ان سے معاذ ابو ثنیٰ عنبری نے بیان کیا ان سے
عبداللہ بن محمد بن اسماء نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا جو یہ نے ان سے سفیان نے ان سے منصور نے ان سے ابو وائل
نے بیان کیا کہ ایک شخص عبداللہ بن کلابہ اپنے گمشدہ اونٹ کی تلاش میں نکلا، وہ اسے عدن کے جنگل اور بیابان میں
تلاش کر رہا تھا کہ انہی بیابانوں میں ایک شہر نظر آیا جس کے گرد ایک فصیل تھی چاروں طرف بہت سے قصر اور بے
شمار علم بلند تھے۔ وہ سمجھا کہ اس میں آبادی ہوگی وہ اپنے اونٹ کے بارے میں معلوم کرنے کا مگر کسی کو اس شہر میں
آتے جاتے نہیں دیکھا۔ وہ قریب پہنچا اور اپنے اونٹ سے اتر کر اس کو ایک طرف باندھ دیا اور اپنی تلوار نیام سے باہر
نکال کر شہر کے دروازے میں داخل ہوا۔ اسے دو بڑے دروازے اور نظر آئے جن سے بڑے اور اونچے دروازے کسی نے
دنیا میں نہ دیکھے ہوں گے۔ ان دروازوں کی لکڑیاں نہایت خوشبودار اور یاقوت زرد اور سرخ سے مرصع تھیں۔ جن کی
روشنی سے تمام مکانات روشن تھے یہ دیکھ کر وہ بہت متعجب ہوا۔ پھر اس نے ایک دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ اس
میں بھی ایک شہر دیکھا۔ جو بے مثل اور بے نظیر تھا۔ اس میں ایسے محل نظر آئے جو معلق تھے اور جن کے نیچے ستون
زبرجد اور یاقوت سے بنائے گئے تھے۔ ہر محل کے اوپر کھڑکیاں تھیں اور ہر کھڑکی کے اوپر ایک دوسری کھڑکی تھی وہ سب
سونے، چاندی، مروارید، یاقوت اور زبرجد سے بنی ہوئی تھیں۔ ان محلوں کے دروازے بھی شہر کے دروازوں کے مانند
تھے۔ جن کی لکڑیاں نہایت خوشبودار اور یاقوت سے مزین تھیں۔ ان محلوں کے فرش مروارید اور مشک و زعفران کی
گولیوں سے بنے ہوئے تھے۔ اس نے جب ان عمارتوں کو دیکھا اور کسی کو وہاں نہ پایا تو خوف زدہ ہوا۔ ان محلوں کے
چاروں طرف کیاریاں تھیں۔ جن میں درخت لگے ہوئے تھے۔ اور ان میں پھل لٹک رہے تھے۔ ان کے نیچے نہریں جاری
تھیں۔ اس نے گمان کیا کہ شاید یہ ہی وہ بہشت ہے جس کا خدا نے نیک بندوں کے لئے وعدہ فرمایا ہے۔ خدا کا شکر ہے
کہ دیا ہی میں اس نے مجھے بہشت میں داخل کیا۔ پھر اس نے مروارید، مشک اور زعفران کی شیشیوں سے جس قدر لے
سکتا تھا لے لیا۔ لیکن زبرجد اور یاقوت کا کوئی دانہ نہ اکھاڑ سکا کیونکہ وہ دیواروں اور دروازوں پر مضبوطی سے جڑے
ہوئے تھے اور لولہ و مشک و زعفران کی گولیاں ان محلوں اور کمروں میں سمت کی طرح پھیلی ہوئی تھیں۔ پس جتنا لے
سکتا تھا لے لیا پھر باہر آیا اور اپنے ناقہ پر سوار ہو کر جس راہ سے آیا تھا واپس یمن پہنچا۔ وہاں ان مروارید، زعفران اور
مشک کی گولیوں کو دکھایا اور جو کچھ دیکھا تھا بیان کیا۔ موتیوں کو فروخت کیا جو کہ گردش زمانہ کے سبب زرد اور مستغیر

ہو گئے تھے یہ خبر مشہور ہوئی اور معاویہ بن ابی سفیان تک پہنچی تو اس نے والی صنعاء کے پاس قاصد بھیجا کہ اس شخص کو میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ وہ شخص معاویہ کے پاس آیا اس نے اس کو تہنائی میں بلا کر اس شہر کے متعلق دریافت کیا اور یہ کہ اس میں کیا دیکھا۔ اس نے تمام واقعہ اس سے بیان کیا اور وہ بھی دکھایا جو لولؤ ہمشک اور زعفران میں سے وہاں سے اٹھایا تھا۔ اور کہا: خدا کی قسم سلیمان بن داؤد کو بھی ایسا شہر نہیں ملا ہوگا۔ معاویہ نے کعب الاحبار کو بلوایا اور کہا: اے ابو اسحاق کیا تجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا شہر ہے جو سونے اور چاندی سے بنایا گیا ہو۔ جس کے ستون یاقوت اور زبرجد کے ہوں اس کے قصر اور کھڑکیاں لولؤ کی ہوں اور اس کی کیاریوں میں درختوں کے نیچے نہریں جاری ہوں۔ کعب نے کہا: ہاں اس شہر کو شذاد بن عاد نے تعمیر کیا تھا۔ وہی ارم ذات الحماد ہے۔ جس کی تعریف میں اللہ عزوجل نے اپنی کتاب میں جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری کہا کہ اس کا مثل نہیں خلق ہوا۔ معاویہ نے کہا کہ اس کا حال مجھ سے بیان کر۔ کعب نے کہا کہ ایک شخص عاد اولی تھا اور یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد سے نہیں تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے ایک کا نام شدید اور دوسرے کا شذاد تھا۔ جب عاد مر گیا تو اس کے یہ دونوں بیٹے بادشاہ ہوئے اور غلبہ حاصل کیا یہاں تک کہ اہل مشرق و مغرب سب نے ان کی اطاعت کی۔ شدید پہلے مر گیا اور شذاد بلا نزاع بادشاہ بن گیا۔ اسے کتابوں سے بہت لگاؤ تھا۔ جب وہ ہشت کا ذکر سنتا کہ اس میں یاقوت و زبرجد و مروارید کی عمارتیں ہیں تو چاہتا تھا کہ دنیا میں بھی اس کے مثل خدا کے مقابلہ میں ایک ہشت بنائے۔ اس نے ایک سو افراد کو اس کام پر مامور کیا۔ اور ان میں سے ہر ایک کی مدد کے لئے ہزار ہزار افراد مقرر کئے اور حکم دیا کہ ایک ہشت بہتر اور وسیع میدان تلاش کرو اور اس میں میرے لئے ایک شہر سونے، چاندی، یاقوت و زبرجد اور مروارید کا حیار کرو۔ اور اس کے ستون زبرجد کے بناؤ۔ اس میں محل تیار کرو اور ان محلوں پر کھڑکیاں بناؤ اور ان کھڑکیوں پر مزید کھڑکیاں حیار کرو۔ ان قصروں کے نیچے مختلف میوؤں کے درخت لگاؤ اور ان کے نیچے نہریں جاری کرو جیسا کہ میں نے کتابوں میں ہشت کے اوصاف دیکھے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی کی مثل دنیا میں ایک شہر تعمیر کروں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اس قدر جواہرات اور سونا چاندی کہاں سے آئے گا جس سے ہم ایسا شہر بنائیں جیسا کہ تم چاہتے ہو۔ شذاد نے کہا: شاید تم لوگ نہیں جانتے کہ دنیا کے تمام ممالک میرے قبضہ میں ہیں۔ ان لوگوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جاؤ اور سونے، چاندی اور جواہرات کی کانوں پر ایک ایک گروہ کو مقرر کرو تاکہ جس قدر تم کو ضرورت ہو وہ لوگ جمع کریں۔ اس کے علاوہ لوگوں کے پاس جس قدر سونا، چاندی ہو حاصل کرو۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے فرمانروان مشرق و مغرب کو خطوط لکھے گئے اور لوگ دس سال تک جواہرات جمع کرتے رہے۔ پھر تین سو سال کی مدت میں وہ شہر تیار کیا گیا۔ شذاد کی عمر نو سو سال تھی۔ لوگوں نے اس کو اطلاع دی کہ ہم ہشت کی تعمیر سے فارغ ہو گئے ہیں تو اس نے کہا کہ اس کے گرد ایک حصار تیار کرو اور اس حصار کے چاروں طرف ہزار ہزار قصر بناؤ اور ہر قصر کے پاس ہزار ہزار عالم نصب کرو

کیونکہ ہر قصر میں میرا ایک وزیر رہے گا پس واپس جاؤ اور یہ تمام کام کرو۔ یہ سن کر وہ لوگ واپس ہو گئے اور اس کے حکم کے مطابق سب کچھ تیار کر کے اس کو اطلاع دی۔ اب اس نے حکم دیا کہ لوگ ارم ذات العمد چلنے کی تیاری کریں تو لوگ دس سائے تک سامان سفر تیار کرتے رہے۔ پھر بادشاہ ارم کے ارادہ سے روانہ ہوا جب اس جنت کے قریب پہنچا اور ایک دن اور شب کی مسافت باقی رہ گئی تو پروردگار عالم نے اس پر اور اس کے ساتھیوں پر آسمان سے ایک آواز بھیجی جس کو سن کر سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ نہ وہ خود ارم میں داخل ہو سکا اور نہ اس کے ساتھیوں میں سے کوئی داخل ہو سکا۔ یہ ہیں اس ارم کی صفات کہ شہروں میں اس جیسا شہر اور کوئی نہیں بنایا گیا۔

اور میں نے یہ بات کتابوں میں پائی ہے کہ ایک شخص اس ارم میں جائے گا۔ اسے دیکھے گا اور لوگوں سے بیان کرے گا مگر لوگ اس کی بات کا یقین نہیں کریں گے۔ البتہ آخری زمانے میں اہل ایمان اس میں داخل ہوں گے۔ اس کتاب کے مؤلف فرماتے ہیں کہ اگر زمین پر بسنے والی جنت کے لئے یہ بات جائز ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل رہے گی اور کوئی فرد اس کا پتہ نہ لگا سکے گا اور لوگ یہ علم نہ ہونے کے باوجود کہ وہ کہاں ہے، روایتوں کی بنا پر اس کی موجودگی کا اعتقاد رکھیں گے تو پھر روایتوں کی بنا پر قائم علیہ السلام کی غیبت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ اور اگر یہ قابل قبول ہے کہ شذاد بن عاد نو سو سال تک زندہ رہ سکتا ہے تو پھر امام قائم کی طویل عمر پر اعتراض کیوں کیا جاتا ہے۔ شذاد بن عاد سے متعلق خبر ابو وائل سے مروی ہے اور امام قائم سے متعلق خبر نبی اور ائمہ سے مروی ہے پس یہ صرف حق کا انکار کرنا ہے۔

میں نے کتاب معمرین میں دیکھا ہے جس میں ہشام بن سعید رحال سے منقول ہے کہ میں نے اسکندریہ میں ایک پتھر دیکھا جس پر لکھا تھا کہ میں شذاد بن عاد ہوں جس نے ارم ذات العمد تعمیر کیا، جس کے مانند کوئی شہر نہیں تعمیر ہوا اور بہت سے لشکر تیار کئے اور اپنے قوت بازو سے میدانوں کو ہموار کیا اور قصر ہائے ارم تیار کئے جس وقت پیری اور موت نہ تھی اور پتھر تری میں پھول کے مانند تھے۔ اور میں نے بہت سا خرچہ بارہ منزل تک دریا میں ڈال دیا جس کو کوئی نہ نکال سکے گا لیکن (حضرت) محمد کی امت اس کو باہر لائے گی۔

ادس بن ربیعہ بن کعب بن امیہ الاسلمی دو سو پودہ سال زندہ رہا اور یہ اشعار کہے۔

نقد عمرت حتی مل اہلی	ثوائی عندهم و سلمت عمری
میں نے اپنی زندگی گزاری کہ میرے گھر والے	میرے ان کے پاس رہنے اور میری عمر کے طولانی
اگتا گئے	ہونے سے

و حق لمن اتی مانتان عاماً	علیہ واربع من بعد عشر
اور انصاف یہ ہے کہ دو سو سال کے	علاوہ پودہ سال گزارے

يَمَلُّ مِنَ الشَّوَاءِ وَصَبْحَ يَوْمِ
زندگی سے اکتاہی جاتا ہے اور ہر صبح
فَابِلَى جَنْدَتِي وَتَبْرَكَتْ شَلْوَا
سیری ہڈیوں نے راہب (کی ہڈیوں) کی طرح
وَبَاغِ بِمَا جُنَّ ضَمِيرُ صَدْرِي
اور میرے ضمیر نے اس کو قبول کر لیا ہے۔
وَلَيْلٌ بَعْدَ يَسْرِي
کے بعد رات کرتا ہے۔
گوشٹ کو چھوڑ دیا ہے۔

ابو زبیدہ جس کا نام بدر بن حریطہ طائی تھا اور جو ایک نصرانی تھا ایک سو پچاس سال زندہ رہا۔

نصر بن دھمان بن (بصار بن بکر بن) سلیم بن اشع بن ریث بن غطفان ایک سو نوے سال زندہ رہا، یہاں تک کہ اس کے سارے دانت چھڑ گئے اور سر کے سارے بال سفید ہو گئے اور وہ ناترا عقل ہو گیا تھا۔ جب اس کی قوم کو ایک معاند میں اس سے مشورہ کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کی عقل اور جوانی اسے واپس کر دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور اسے عقل اور جوانی عطا کر دی اور اس کے تمام بال سیاہ ہو گئے۔

پس اس (سلسلہ) میں کہا مسلمہ بن غرشب اناری نے انار بن بغیض سے اور کہا جاتا ہے بلکہ عیاض مرد اس سلی نے کہا:

لنصر بن دهمان الهنيذة عاشها
نصر بن دھمان کی عمر سو سال کے اوٹ کی طرح
وتسعينَ جولا ثم قومَ فانصاتا
تھی جو اس نے گزاری۔
اس کا قد سیدھا ہو گیا اور اس کے بدن نے اس کو
قبول کر لیا۔

وعاد سواد الرأس بعد بياضه
اور مزید نوے سال پھر اور اس کے سر کے بالوں
اور مزید نوے سال پھر اور اس کے سر کے بالوں
کی سفیدی سیاہی میں بدل گئی۔
وراجع عقلاً عند مافات عقله
اور اس کی عقل بھی واپس آگئی
وراجعه شرح الشباب الذي فاتا
اور جوانی کی ابتداء پھر پلٹ آئی۔ اس کے
کھوجانے کے بعد
ولكنه من بعد ذاك له ماتا
جبکہ وہ اس کو کھو چکا تھا لیکن ان تمام چیزوں کے
باد جو وہ مر گیا۔

سوید بن مذاق عہدی دو سو سال زندہ رہا۔

جعشم بن عوف بن حزمہ ایک طویل عرصہ زندہ رہا۔ اور یہ شعر کہا:

حتى متى الجعشم في الاحياء
کب تک جعشم زندوں میں رہتا
ليس بذي ايدٍ ولا غناء
جس کا نہ کوئی پشت پناہی کرنے والا ہے نہ وہ غنی ہے۔

میهات ماللموت من دواء

ہائے افسوس موت کے لئے کوئی دوا نہیں ہے۔

شعلہ بن کعب بن زید بن عبدالاشعل اسی دو سو سال زندہ رہا اور یہ اشعار کہے:

لقد صاحبت اقواماً فامسوا خفاتاً ما یجاب لہم دعاء
میں نے بہت سے گروہوں کے ساتھ زندگی لیکن وہ سب چلے گئے۔ ایسے خاموش ہو گئے
گزار دی ہے۔

مضوا قصد السبیل وخلفونی فطال علی بعد ہم الشواء
کہ انہیں پکاریں تو کوئی جواب نہیں ملتا۔ پس مجھ پر ان کے بعد زندگی طویل ہو گئی۔
فاصبحت الغداة رہین بیٹی واخلفنی من الموت الرجاء
پس میں دن بھر اپنے گھر میں گوشہ نشین رہا اور موت کی تمنا میں وہ دن گزارے۔

رداء بن کعب بن ذحل بن قیس نخعی تین سو سال زندہ رہا اور یہ اشعار کہے:

لم یبق یا خذلة من لدائی ابو بنین لا ولا بنات
اور باقی نہ رہا ہائے کیا رسوائی ہے۔ میں تو نہ بیٹوں اور نہ بیٹیوں کا باپ ہوں۔
ولا عقیم غیر ذی سبات إلا یعدّالیوم فی الاموات
نہ ہی عقیم ہوں جس کے لئے کوئی پینڈ نہ ہو۔ مگر یہ کہ ہر روز مردوں کو گنا جا رہا ہے۔

ہل مشتر ابیعه حیاتی

کیا کوئی ہے جو میری زندگی خریدے میں اسے فروخت کر دوں۔

عدی بن حاتم طئی ایک سو بیس سال زندہ رہا۔

اماباة بن قیس بن حارث بن شیبان کندی ایک سو ساٹھ سال زندہ رہا۔

عمیرہ بن حاجر بن عمیر بن عبدالعزی بن قنیر ایک سو ستر سال زندہ رہا اور یہ اشعار کہے:

بلیت وأفنانی الزمان وأصبحت ہنیدة قد البقیة من بعدھا عشرا
میں ہلاک ہوا اور زمانے نے مجھے فنا کر دیا اور میں نے زندگی کے سو سال اور مزید اس پر دس سال۔

پلے

فأسلی ولا حی فأصدر لی أمرا وأصبحت مثل الفرخ لا انامیت
کہ غموں سے دور ہو جاؤں نہ زندوں میں میرا شمار ہے کہ اور میں ایسا ہو گیا جیسے کوئی چوزہ کہ نہ میں مردوں میں

شمار ہوتا ہوں

اپنا حکم جاری کروں۔

وَقَدْ عَمِشْتُ دَهْرًا مَا تُجَنُّ عَشِيرَتِي

لَهَا مَيِّتًا حَتَّى أَخْطَأَ بِهِ قَبْرًا

میں نے ایک طویل عرصہ زندگی گزار لی اپنے قبیلے والوں

اب ان کے لئے ایک مردہ ہے جو اپنی قبر کی نشان دہی

کے ساتھ۔

کر رہا ہے۔

ترام بن منذر بن زہید بن قیس بن حارثہ بن لام دور جاہلیت میں ایک طویل عرصہ زندہ رہا اور عمر بن عبد العزیز کے زمانے کو دیکھا اور اس سے ملاقات کی۔ اس کی چادر گر جانے سے اس کی ہنسیاں ایک دوسرے کے پیچھے (نظر آ رہی) تھیں پس اس سے پوچھا گیا: تم نے کیا پایا تو اس نے یہ اشعار کہے:

وَاللَّهِ مَا أَدْرِي أَدْرَكَتْ أُمَّةٌ

عَلَى عَهْدِ ذِي الْقَرْنَيْنِ أَمْ كُنْتُ أَقْدَمَا

اور خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ میں نے

ذو القرنین کے دور کے لوگوں کو دیکھا اور سمجھا کہ میں ان

سے بھی زیادہ پرانا ہوں۔

مَتَى تَخْلَعَا مِنِّي الْقَمِيصَ تَبَيَّنَا

جَاجِيءُ لَمْ يَكْسِينِ لِحْمًا وَلَا دَمًا

جب مجھ سے قمیض اتارو گے تاکہ

نظر آئے وہ سہینہ جس پر نہ کوئی گوشت ہے نہ خون۔

سیف بن دحب بن حذیمہ طائی دو سو سال زندہ رہا۔ اور یہ اشعار کہے:

أَلَا إِنَّنِي عَاجِلٌ ذَاهِبٌ فَلَا تَحْسَبُوا أَنَّي كَاذِبٌ

خبردار رہو کہ میں بہت جلد جانے والا ہوں۔ اور یہ خیال نہ کرو کہ میں جھوٹا ہوں۔

لَبَسْتُ شَبَابِي فَأَفْنَيْتُهُ وَ أَدْرَكْنِي الْقَدْرُ الْغَالِبُ

جو بھی چادر اوزہ لی پس اسے فنا کر دیا اور مجھے حادی مقدر نے آن لیا۔

وِخْصَمِ دَفَعْتُ وَمَوْلَى نَفَعْتُ حَتَّى يَثُوبَ لَهُ ثَائِبٌ

اور دشمن کو دفع کر دیا اور اپنے مولیٰ کو نفع پہنچایا تاکہ کوئی رہنے والا اس کے پاس رہے۔

ارطاة بن وٹھبہ مزنی ایک سو بیس سال زندہ رہا۔ اس کی کنیت ابو ولید تھی۔ اس سے عبد الملک بن مردان نے کہا کہ اے ارطاة تمہارے شعر سے کچھ بچا ہے۔ کہا اے امیر المؤمنین میں نہ شراب پیتا ہوں نہ گانا گاتا ہوں نہ غصہ کرتا ہوں اور میرے پاس جو شعراء آتے ہیں وہ ان خصلتوں کے حامل نہیں ہوتے۔ میں نے کہا ہے:

رَايَتُ الْمَرْءَ تَأْكُلُهُ اللَّيَالِي

كَأَكْلِ الْأَرْضِ سَاقِطَةَ الْحَدِيدِ

میں نے آدمی کو دیکھا کہ راتیں اسے کھا جاتی ہیں

جیسے زمین لوہے کے ذروں کو کھا جاتی ہے۔

وما تبقى المنيّة حين تأتي
اور جب موت آتی ہے تو
على نفس ابن آدم من مزيد
فرزند آدم کی زندگی ایک لمحہ کے لئے بھی باقی
نہیں رہتی۔

وأعلم انها ستكزّ حتى
اور جان لو یہ پھر آئے گی یہاں تک کہ
توفى نذرها بأبي الوليد
ابو الولید کی نذر کو پورا کر دے۔

عبدالملک چونک گیا۔ پس کہلاے ارطاة! تو ارطاة نے کہا: یا امیر المؤمنین میری کنیت ابو ولید ہے۔
اور حمید بن ابرص تین سو سال زندہ رہا اور یہ شعر کہا:

فنيّت وأفنانى الزمان واصبحت
میں فنا ہوا اور زمانے نے مجھے فنا کر دیا
لداتى بنو نعلش وزهر الفراق
اور میری مثال بنو نعلش اور سارہ فرقد کی طرح
ہو گئی (کہ جن سے رستے کے لئے رہنمائی حاصل
کی جاتی تھی)۔

پھر نعمان بن منذر نے اسے گرفتار کیا اور یوم بونسہ پر اسے قتل کر دیا۔

اور شریح بن حانی ایک سو بیس سال زندہ رہا یہاں تک کہ حجاج بن یوسف کے دور میں قتل ہوا۔ اپنی صحیفی اور
پیری میں یہ اشعار کہے:

اصبحت ذابث اقاسى الكبرا
میں طویل العمر ہوا اور بلاچپے کی ازنتیں
قد عشت بين المشركين أعصرا
اور میں نے مشرکین کے درمیان کافی عرصہ گزارا
برداشت کرتا رہا۔

تمت أدركت النبى المنذرا
اس کے بعد ڈرانے والے نبی کے زمانہ کو دیکھا۔
وبعدا صديقه و عمرا
اور اس کے بعد صدیق اور عمر کو بھی دیکھا۔

ويوم صهران ويوم تسترا
اور روز مہران اور اس اجتماع کو بھی (دیکھا)
والجمع في صفينهم والنهرا
جو صفین اور نہروان میں ہوا تھا۔

میہات ما أطول هذا عمرا

ہائے اس لمبی عمر پر افسوس

اور بنی خثبہ میں سے ایک شخص جس کو سبحان بن سبحان نے کہا جاتا تھا۔ طویل عرصہ تک زندہ رہا اور اس نے یہ
اشعار کہے۔

لقد طوّفت في الأفاق حتى
میں نے زمین کے ارد گرد بہت چکر لگائے یہاں
تک کہ

وأفنائی - ولو يفنى نهاراً
اور مجھے فنا کرو یا گیا اور اگر دن
اور رات فانی ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ پلٹ آتے
ہیں۔

وشهرٌ مستهلٌ بعد شهر
اور ہر مہینے کے بعد ایک مہینہ آجاتا ہے۔
وحوونٌ بعدا حوونٌ جدید
اور ہر سال کے بعد ایک سال آتا ہے۔

لقمان (۱) عادی کبیر پانچ سو ساٹھ سال زندہ رہا۔ عمر سات انسر زندہ رہا اور ہر انسر میں ۸۰ سال ہوتے ہیں۔ اور وہ عاد
اولیٰ کا بقیہ تھا۔ نیز یہ بھی روایت ہے کہ یہ تین ہزار پانچ سو سال زندہ رہا۔ اور یہ قوم عاد کے اس وفد میں شامل تھا جو حرم
کی طرف بارش کی دعا مانگنے گیا تھا۔ وہ نسر کے نرچوڑے کو اس پہاڑ پر رکھ دیتا تھا جو اس کا اصلی گھر ہوتا تھا کہ جب تک وہ
زندہ رہتا اور اس کے بعد دوسرے کو پکڑ لیتا پھر اس کی پرورش کرتا یہاں تک کہ اس کا بھی کچھ باقی نہ رہتا۔ اور اس کی عمر
کافی طویل تھی۔ پس اس کے بارے میں کہا گیا: باوجود کچھ نہ ہونے کے وہ ابد تک باقی رہا۔

اور اس کے بارے میں بہت سے معروف اشعار کہے گئے۔ اور اسے قوت و قدرتِ سماعت اور بصارت اس قدر عطا
کی گئی تھی جو اس کے لئے ضروری تھی اور اس نے بہت سی احادیث نقل کیں ہیں۔

ذہیر بن جناب بن خبیل بن عبداللہ بن کنانہ بن بکر بن عوف بن عذرہ بن زید اللہ بن رفیدہ بن ثور بن کلب کلبن
تین سو سال زندہ رہا۔

مزیتیا جس کا نام عمر بن عامر تھا آسمانی پانی کی مانند تھا کہ جہاں پہنچتا زندگی بکھیر دیتا اس کو مزیتیا اس لئے کہتے ہیں
کہ اس نے آٹھ سو سال زندگی پائی۔ چار سو سال عوامی رہا اور چار سو سال حکومت کی۔ یہ ہر دن دو جوڑے کپڑے پہنتا پھر
ان کو پھلا دیتا کہ کوئی دوسرا استعمال نہیں کر سکتا تھا۔

خبیل بن عبداللہ بن کنانہ چھ سو سال زندہ رہا۔

ابو طحان قینی ایک سو پچاس سال زندہ رہا۔

(۱) یہ ان لقمان کے علاوہ ہے جو حضرت داؤد کے دور میں تھے۔ (علی اکبر غفاری)

تسوع بن ریحہ بن کعب بن زید سناۃ بن تمیم تین سو تیس سال زندہ رہا۔ اس نے اسلام کا زمانہ دیکھا مگر اسلام نہ لایا۔ اس کے اشعار مشہور ہیں۔

دوید بن زید بن نهد چار سو پچاس سال زندہ رہا اس نے کہا:

ألقى على الذمير رجلاً ويدا
والذمير ما أصلح يوماً أفسداً

زمانے نے مجھے گھیر لیا۔
اور زمانہ ایسا ہے کہ جو کچھ بنائے اسے بگاڑ دیتا ہے۔

يُفسد ما أصلحه اليوم غدا

جس کی آج اصلاح کرے اسے کل خراب کر دیتا ہے۔

جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی تمام اولاد کو جمع کیا اور وصیت کی کہ لوگوں سے شر سے پیش آؤ ان کی معذرت قبول نہ کرو اور ان کے انتقام کو قبول نہ کرو۔

خیمہ اللہ بن ثعلبہ بن عکابہ دو سو سال زندہ رہا۔

ریح بن ضبع بن وھب بن بھغیث بن مالک بن سعد بن عدی بن فزارہ دو سو چالیس سال زندہ رہا۔ اس نے دور

اسلام کو پایا مگر اسلام نہ لایا۔

آل ذی یزن سے معدی کرب حمیری دو سو پچاس سال زندہ رہا۔

اور شریہ بن عبد اللہ یعنی تین سو سال زندہ رہا۔ پس وہ مدینہ میں عمر ابن خطاب کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اس صحرا میں جس میں تم ہو دیکھا ہے جو کچھ اس میں بارش کے قطرات گرے اور درخت اگے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہی قوم کے قدیم لوگ تمہاری اس شہادت کو پڑھتے تھے۔ یعنی لا الہ الا اللہ اس دوران اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا جو شکر اکر چل رہا تھا اور اس پر بڑھاپے کا عالم تھا۔ اس سے کہا گیا کہ اے شریہ یہ تمہارا بیٹا بڑھاپے کے عالم میں ہے۔ اور تم اب تک باقی ہو۔ اس نے جواب دینے والی قسم میں نے اس کی ماں سے اس وقت شادی کی تھی جب میں ستر سال کا تھا۔ لیکن میری یہ زوجہ نہایت پاک دامن اور وفادار تھی۔ اگر میں خوش ہوتا تو میرے لئے وہ کچھ کرتی جس سے میری آنکھوں میں ٹھنڈک آجاتی اور اگر میں ناراض ہوتا تو منت سماجت کر کے مجھے خوش کر لیتی۔ اور میرے اس بیٹے نے ایک ایسی عورت سے شادی کی جو نہایت فاحشہ اور بدکار تھی اگر وہ خوش ہوتا تو اس کو اس قدر ستاتی کہ وہ ناراض ہو جاتا اور اگر وہ ناراض ہو جاتا تو اس پر اس قدر زبان درازی کرتی کہ وہ مرنے کے قریب ہو جاتا۔

بیان کیا مجھ سے ابو سعید عبد اللہ بن محمد بن عبد الوہاب بن نصر مجزی نے انہوں نے کہا کہ میں نے ابو الحسن احمد بن محمد بن عبد اللہ بن حمزہ بن زید شعرانی سے سنا جو عماد بن یاسر کی اولاد میں سے تھا۔ اس نے کہا کہ مجھ سے ابو القاسم محمد بن قاسم مصری نے حکایت کی ہے کہ ابو الجیش حماد بن احمد بن طولون پر مصر کے غزوانوں کے منہ استنہ کھلے جتنے کسی اور پر

نہیں کھلے تھے۔ پھر اس نے اہرام مصر کے انہدام کا ارادہ کیا تو اس کے بااعتماد مشیروں نے مشورہ دیا کہ ایسا نہ کریں مگر وہ نہ مانا اور ایک ہزار مزدور اس کام پر لگا دیئے جو اس کے گرد ایک سال تک کھدائی کا کام کرتے رہے مگر راستہ نظر نہیں آیا تو مایوس ہو کر واپسی کا ارادہ کیا۔ کہ لسنے میں ایک سوراخ نظر آیا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ یہی وہ دروازہ ہے جس کی تلاش تھی۔ اس کو کھودنا شروع کیا تو سنگ مرمر کا ایک فرش نظر آیا۔ پس انہوں نے اندازہ کیا کہ یہ دروازہ ہے پس انہوں نے ترکیب سے اسے کھود کر نکالا محمد بن مظفر نے کہا: انہوں نے اس کے پیچھے ایک ایسی بنیاد دیکھی جو بہت معبوط تھی پھر اسے نکال کر صاف کیا تو اس پر یونانی زبان میں ایک تحریر کندہ تھی۔ اس تحریر کو پڑھنے کے لئے مصر کے تمام حکماء اور تمام مذاہب کے علماء کو بلایا گیا۔ لیکن کوئی بھی وہ تحریر پڑھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ان میں ایک شخص ابو عبداللہ مدینی تھا جو دنیا کے بڑے علماء میں شمار ہوتا تھا۔ اس نے ابوالجیش حمادیہ بن احمد سے کہا کہ میں حبشہ کے ایک اسقف کو جانتا ہوں جس کی عمر اس وقت تین سو ساٹھ سال ہے اور وہ اس رسم لفظ کو جانتا ہے۔ اس نے یہ رسم لفظ مجھے بھی سکھانا چاہتا تھا لیکن مجھے عربی سے زیادہ لگاؤ تھا اس لئے میں نے نہیں سیکھا۔ وہ شخص اب بھی زندہ ہے۔ چنانچہ ابوالجیش حمادیہ نے شاہ حبشہ کو ایک خط لکھا کہ وہ اسقف کو یہاں بھیج دے۔ شاہ حبشہ نے جواب میں لکھا کہ اسقف بہت بوڑھا ہو چکا ہے اور یہاں کی آب و ہوا کا عادی ہے اگر وہ اس آب و ہوا سے نکل کر کسی دوسری جگہ جائے تو خطرہ ہے کہ اسے وہاں کی آب و ہوا سے مر جائے اور وہ مر جائے اور اب وہ طویل سفر بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمارے لئے اس کا وجود باعث شرف و فرحت و طمانیت ہے۔ لہذا اگر آپ کو اس سے کچھ پڑھوانا ہے یا تفسیر کرانی ہے یا سوال پوچھنا ہے تو وہ یہاں لکھ بھیجیں۔

لہذا سنگ مرمر کے اس ٹکڑے کو ایک کشتی پر رکھ کر شہر اسوان بھیجا گیا۔ پھر وہ اسوان سے شہر حبشہ روانہ کیا گیا جو اسوان کے قریب ہے۔ جب وہ ٹکڑا حبشہ پہنچا تو اسقف نے اسے پڑھ کر اس کا ترجمہ حبشہ کی زبان میں کیا۔ حبشہ سے پھر اس کا ترجمہ عربی میں ہوا۔ اس میں تحریر تھا کہ:

"میرا نام ریان بن دومخ ہے" ابو عبداللہ مدینی نے اسقف سے پوچھا یہ کون شخص تھا؟ اس نے جواب دیا یہ حضرت یوسفؑ کے زمانے کے بادشاہ عزیز مصر کا باپ تھا جس کا نام ولید بن ریان بن دومخ تھا۔ عزیز مصر کی عمر سات سو سال تھی۔ اس کے باپ ریان کی عمر ایک ہزار سات سو سال اور دومخ کی عمر تین ہزار سال تھی۔ الغرض اس میں تحریر تھا۔

"میں ریان بن دومخ ہوں۔ میں یہ معلوم کرنے کے لئے نکلا تھا کہ دریائے نیل کہاں سے نکلتا ہے کیونکہ مجھے اس کے منبع کا پتہ نہ تھا۔ میرے ساتھ چار ہزار آدمی تھے اور میں ۸۰ ماہ تک چلتا رہا یہاں تک کہ ظلمات اور بحر محیط تک پہنچا۔ دیکھا کہ دریائے نیل اس بحر محیط کو کاٹ کر اسے عبور کر رہا ہے۔ میرے لئے عبور کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اور میرے ساتھ چار ہزار افراد میں سے ایک فرد باقی رہ گیا تھا۔ مجھے اپنی مملکت کے ختم ہونے کا اندیشہ ہوا اس لئے مصر واپس آ گیا پھر میں نے بہت سے اہرام اور تہ خانے بنوائے۔ دو اہرام ایسے بھی بنوائے جن میں اپنا سارا خزانہ محفوظ کر دیا۔ اور اس

بارے میں نے یہ اشعار کہے۔

ولا علم لی بالغیب واللہ اعلم
اور میرے پاس غیب کا علم نہیں اور اللہ بہتر جانتے والا
ہے۔

وأحکمتہ واللہ أقوى أوحکم
میں نے مضبوطی کی اور اللہ تو سب سے قوی اور حکیم
ہے۔

فأعجزنی والمرء بالعجز ملجم
تو میں عاجز آ گیا اور آدمی عاجز ہی ہے۔

وحولی بنی حجر و جیش عرمرم
جبکہ میرے ارد گرد بنی حجر کے قبیلے کے لوگ اور ایک
بہت بڑا لشکر تھا۔

وعارضنی لئج من البحر مظلم
اور ایک تاریک دریا کا میرا آمننا سامنا ہوا۔

لذی ہمة بعدی ولا متقدم
کسی بھی صاحب ہمت کے لئے خواہ وہ میرے بعد ہو یا پہلے

بمصر وللأیام بؤس وانعم
کبھی بلاؤں کے ساتھ اور کبھی نعمتوں کے ساتھ۔

وبانی برانیھا بہاد المقدم
اور اس کے تمام مئی کے برتنوں کا اور پہل کرنے والا ہوں

علی الذہر لا تبلی ولا تنهدم
اور زمانے کے حوالے کئے جو کبھی بوسیدہ ہوں گے اور نہ
ہی ختم ہوں گے۔

وأدرک علمی بعض ماہو کائن
میرے علم نے موجودات میں سے کچھ کے بارے میں جان
لیا۔

وأنتقت ما حاولت إتقان صنعه
اور جس چیز کو بنانے میں محکم کاری چاہئے تھی اس میں
محکم کاری کی۔

وحاولت علم النیل من بدء فیضه
میں نے کوشش کی کہ یہ جان لوں کہ دریائے نیل کہاں
سے بہنا شروع ہوا ہے۔

ثمانین شاموراً قطعت مسایحاً
۸۰ پھینے میں نے جہاں گردی میں گزارے۔

الی ان قطعت الانس والجن کلہم
یہاں تک کہ میں نے تمام جن وانس کو پیچھے چھوڑ دیا۔

فأیقنت ان لا منفذ بعد منزلی
پس میں نے یقین کر لیا کہ اس منزل کے بعد کوئی منزل
نہیں ہے۔

فأبیت إلی ملکی وأرسیت ثاویاً
پس میں اپنے ملک کی طرف لوٹ آیا اور اس میں قیام کیا

انا صاحب ألامرام فی مصر کلھا
میں مصر کے تمام اہراموں کا مالک ہوں۔

ترکت بہا آثار کفی و حکمتی
میں نے اس میں اپنے ہاتھوں کی ہنرمندی کے آثار اور اپنی
حکمت کے اثرات چھوڑ دیئے۔

وفيها كنوز جمة و عجائب

اور اس میں بہت سے خزانے اور عجائبات ہیں۔

سيفتح أقالی و یبدي عجائبی
میرے تالے کھولے جائیں گے اور میرے عجائب ظاہر ہو جائیں گے۔

باکناف بیت الله تبدو امورا
بیت اللہ کے اطراف میں اس کے کام آشکار ہوں گے۔

ثمان وتسع واثنتان وأربع

آٹھ اور نو اور دو اور چار

ومن بعد هذا كرتسون تسعه

اور اس کے بعد ننانوے سال ٹکراؤ ہوگا

وتبدي كنوزی كلها غیر انی

میرے تمام خزانے ظاہر ہو جائیں گے

زبرت مقالی فی صخور قطعها

میں نے اپنے اقوال کو پتھروں پر نقش کیا ہے۔

وللذهر أمر مرقة و تجهم

اور زمانے کے لئے یہ کام تلخی اور مایوسی کا سبب ہے۔

ولی لربی آخر الذهر ینجم

میرے پروردگار کے ایک دلی کے ہاتھوں جو آخری زمانے میں ستارے کی طرح چمکے گا۔

فلا بد ان یعلو ویسمعوبه السم

اور وہ بلندی پر پہنچ جائے گا اور حب صلح و آشتی کا دور دورہ ہوگا۔

وتسعون أخرى من قتیل وملجم

اور دوسرے نوے یا نو مقتول ہوں گے یا اسیر ہو جائیں گے۔

وتلك البرانی تستخر و تهدم

اور میرے سارے آثار ان کے ہاتھ لگ جائیں گے اور طعم ہو جائیں گے۔

اری کلّ هذا أن یفرّ قها الذم

لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے خون جہے گا۔

ستبقى وأفنی بعد ما ثم اعدم

یہ باقی رہیں گے اور اس کے بعد میں فنا اور پھر معدوم ہو جاؤں گا۔

اس تحریر کو دیکھ کر ابو الجیش حماد بن احمد نے کہا کہ یہ تو ایسی چیز ہے جس پر صرف قائم آل محمد کا تصرف

ہوگا۔ پھر وہ سنگ مرمر کا ٹکڑا اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا۔

اس واقعہ کے ایک سال بعد ابو الجیش کو جبکہ وہ حالت نشہ میں تھا اس کے غلام ظاہر نے اس کے بستر پر قتل

کر دیا۔ اس واقعہ سے پتہ چلا کہ اہرام کی تعمیر کب دہود میں آئی اور اس کو بنانے والا کون تھا۔ اور یہ نیل و اہرام کے

بارے میں صحیح ترین روایت ہے۔

ضمیرہ بن اسمعید بن اسعد بن سہم قرشی ایک سو اسی سال زندہ رہا۔ اس نے دور اسلام بھی پایا۔ اس کی موت ناگہانی ہوئی۔

اور لیبید بن ربیعہ جعفری ایک سو چالیس سال زندہ رہا اور اس نے اسلام کا زمانہ پایا اور اسے قبول کیا۔ جب وہ ستر سال کا ہو گیا تو یہ شعر کہا:

کأنتی وقد جاوزت سبعین حجة
گویا میں نے ۷۰ سال گزار لئے۔

اور جب ۷۷ سال کا ہو گیا تو یہ اشعار کہے:

باتت تشکى إلیّ النفس مجبہشة
یہ نفس روتے ہوئے مجھ سے شکایت کر رہا ہے

وقد حملتک سبعاً بعد سبعینا
کہ میں نے تجھے ستر سال کے بعد سات سال مزید

اٹھائے رکھا۔

فان تزیدی ثلاثاً تبغی أملاً
اگر مزید تین سال انفاذ کر دے تو کسی تمنّا کو پہنچے گے

اور جب نوے سال کا ہوا تو یہ اشعار کہے:

کافی وقد جاوزت تسعین حجة
گویا اب تو میں نے نوے سال گزار دیئے

رمتنی بنات الدّهر من حیث لا أری
وخران زمانہ نہ معلوم کہاں سے مجھ پر وار کرتی ہیں۔

وکیف بمن یرمی ولیس برام
اور اس کی حالت کیا ہوگی جس پر وار کیا جائے اور وہ کچھ

نہ کر سکے۔

فلوانتی أرمی بنبل رأیتها
اگر مجھ پر تیر کے ساتھ وار کیا جائے تو مجھے نظر آتا ہے۔

ولکننی أرمی بغير سهام
لیکن میں تیروں کے علاوہ کسی اور چیز سے زخم کھالیتا

ہوں۔

اور جب ایک سو دس سال کا ہوا تو کہا:

الیس فی مائة قد عاشها رجلاً
جو شخص سو سال زندہ رہا اور اس کے بعد مزید دس سال

تو اس عمر میں اس کے لئے کیا کچھ نہیں ہے۔

پورے کئے

اور جب وہ ایک سو بیس سال کا ہوا تو کہا:

قد عشت دهرأ قبل مجری داحس
میں نے ایک طویل زندگی گزاری قبل اس کے کہ مجھ پر
بیماری آئے۔

لوکان للنفس اللجوج خلود
مگر اس ہٹ دھرم نفس کے لئے کوئی مقام نہیں ہے۔

اور جب ایک سو چالیس سال کا ہوا تو یہ اشعار کہے:

ولقد سئمت من الحياة وطولها
اب میں زندگی اور اس کی طوالت سے اکتا چکا ہوں۔
غلب الرجال وكان غير مغلب
مرد لوگ مغلوب ہوئے جبکہ تم نہ ہارے۔

وسؤال هذا الناس كيف لبید
اور لوگوں کے اس سوال سے کہ لبید تم کیسے ہو
دهر طويل دائم ممدود
وہ طولانی زمانہ جو دائم اور ممدود ہے۔

يوماً اذا يأتى على وليلة
اگر ایک دن مجھ پر آتا ہے اور اس کے بعد رات

و كلاهما بعد المضى يعود
تو یہ دونوں گزرنے کے بعد پھر واپس آتے ہیں۔

جب اس کا وقت آفر آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ اے فرزند تمہارا باپ نہ صرف مرے گا بلکہ فنا ہو جائے گا۔ پس جب تمہارے باپ کی روح قبض ہو جائے تو اس کی آنکھیں بند کر دینا، اسے قبلہ رخ کر دینا اور اسے اس کے کپڑے میں لپیٹ دینا۔ اور سب سے کہہ دینا کہ خبردار کوئی نہ روئے نہ پیچھے نہ پھر اس بڑے پیالے میں جس سے میں ضیافت کیا کرتا تھا اچھا سا کھانا پکانا اور مسجد میں ان لوگوں کے لئے جنہوں نے میرے لئے فریاد کی ہے پہنچا دینا۔ جب امام جماعت سلام پھیرے تو اسے لوگوں کو کھلا دینا۔ جب سب لوگ فارغ ہو جائیں تو ان سے کہنا کہ آپ کا بھائی لبید بن ربیعہ فوت ہو گیا ہے۔ آپ لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض فرمائی ہے پھر یہ اشعار کہے:

واذا دفنت اباک فاجعل فوقه خشباً وطیناً

"جب اپنے باپ کو دفن کرنا تو اس پر لکڑیاں اور گیلی مٹی ڈال دینا"

وصفائح صماً روا شنھا تسددن الغصونا

"اور ایسے سخت تختے رکھ دینا کہ بن بلائے مہمان اس میں گھونسلا نہ بنا سکیں"

لیقین حرالوجه سف ساف التراب ولن یقیناً

"اور یقین ہے کہ چہرہ باریک مٹی کی طرح ہو جائے گا گو اس کا یقین نہیں آتا"

بڑے پیالے (دیگ) سے متعلق ایک اور بھی روایت ہے کہ لہید نے نذر مانی تھی کہ جب باد شمالی چلے گی تو میں چند اونٹ نحر کر کے اس بڑے پیالے (دیگ) کو بھردوں گا اور سب کی دعوت کروں گا۔

جب ولید بن عقبہ بن ابی معیط کوفہ کا والی بنا تو اس نے ایک خطبہ دیا اور حمد و درود کے بعد کہا کہ لوگوں تمہیں لہید بن ربیعہ جعفری کے بارے میں اور اس کی شرافت و مروت کا علم ہے۔ اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ اس نے نذر مانی ہے کہ جب کبھی باد شمالی چلے گی تو وہ چند اونٹ نحر کرے گا۔ لہذا تم لوگوں کا فرض ہے کہ اس کی شرافت کو دیکھتے ہوئے اس کی مدد کرو اس کے بعد وہ (منبر سے) اترتا اور اس نے لہید کے پاس پانچ اونٹ اور ان کے ساتھ یہ اشعار بھی لکھ کر بھیجے:

أرى الجزار يشحذ شفرتيه
- میں دیکھتا ہوں کہ جب ابی عقیل لہید کی باد
إذا هبت رياح ابی عقیل
شمالی چلتی ہے
تو قصاب اپنی تھریاں تیز کر لیتے ہیں۔

طویل الباع ابلج جعفری
وہ نہایت قد آور اور کشادہ سینے والا جعفری ہے
کریم الجدی کالسيف الصیقل
نسل کے لحاظ سے سخاوت مند، تیز تلوار کی طرح
على العلات والمال القلیل
اور جعفری کے فرزند میں بھی وہی صفات ہیں
گو اس کے پاس مال کی قلت ہے۔

کہتے ہیں کہ ولید نے بیس اونٹ بھیجے تھے جب ان اشعار کو لہید نے پڑھا تو کہا: خدا امیر کو اس کی جرأت خیر دے شاید اس کو علم نہیں کہ اب میں نے اشعار کہنا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد لہید نے اپنی پانچ سالہ بیٹی کو آواز دی اور کہا کہ تو امیر کے ان اشعار کا جواب دے اس بچی نے تھوڑی دیر غور و فکر کیا پھر چند اشعار کہے:

أذاهبت رياح ابی عقیل
- اب جب کبھی ابو عقیل کی باد شمالی چلے گی
دعونا عند هبتها الولیدا
تو ہم لوگ ولید کو یاد کریں گے۔
أعان علی مروءته لبیدا
طویل القامت، کشادہ سینے والا
اور عبد شمس سے تعلق رکھنے والا

بأمثال الهضاب كأنّ ركبا
اس نے لہید کی مدد کی ان لمبی رسیوں کی طرح
عليها من بنی حام قعودا
جس پر بنی حام کے لوگ سوار ہوں
جیسے اونٹوں کا قافلہ

أبا وهب جزاك الله خيرا
اسے ابو وہب (ولید) خدا آپ کو اس کا بدلہ دے

نحرننا ما واطعمنا التريدا
ہم نے آپ کے عطا کردہ اونٹ نحر کر دیئے اور
ان کے گوشت کا شوربہ سب کو کھلایا۔

فعد انّ الكريم له معاد
آپ بار دیگر سخاوت کریں۔ کیونکہ سخی وہ ہوتا
ہے

وعهدى بابين أروى ان تعودا
جو بار بار سخاوت کرے اور ہماری نذر بار بار
انجام پائے۔

بید نے (یہ اشعار سننے تو) کہا کہ بیٹی تو نے بہت اچھے اشعار کہے مگر تجھے ان میں کچھ طلب نہیں کرنا چاہیے تھا۔
اس نے جواب دیا: بادشاہ طلب کرنے سے کبھی ناراض نہیں ہوا کرتے بید نے کہا پھر تو تو بہت بڑی شاعرہ ہے۔
ذوالاصبع عدوانی جس کا نام حرثان بن الحارث بن محرث بن ربيعہ بن امیرہ بن ثعلبہ بن ظرب بن عثمان تھا وہ
تین سو سال زندہ رہا۔

جعفر بن قبط تین سو سال زندہ رہا اور اس نے اسلام کا زمانہ پایا۔

عامر بن ظرب عدوانی تین سو سال زندہ رہا۔

مختص بن عثمان بن ظالم بن عمرو بن قطيعہ بن حارث بن سلمہ بن مازن زبیدی دو سو پچاس سال زندہ رہا۔ اور یہ

اشعار کہے:

ألا يا سلم إني لست منكم
خبردار اے (قوم) مسلم میں تم میں سے نہیں
ہوں

ولكنى امرء قوتى سفوب
میں تو ایسا مرد ہوں جس کی قوت بھوکے ہے۔

دعاني الدّاعيان فقلت : هيا
مجھے دو نے لٹکارا تو میں نے کہا آؤ۔

فقلا : كلّ من يدعى يجيب
تو انہوں نے کہا ہر وہ شخص جس کو لٹکارا جائے
وہ اپنا جوہر دکھاتا ہے۔

الا ياسلم أعيانى قيامى
اگاہ رہو اے (بنی) مسلم میری زندگی نے
مجھے بیزار کر دیا

وأعيتنى المكاسب والذّموب
اور میری تجارت اور اس کے لئے آنے جانے نے
مجھے ناتواں بنا دیا۔

وَصرت رذية فى البيت كلاً
یوں میں بیماری اور کمزوری کی بنا پر گھر پر بوجھ بنا

تأذنى بى الأ باعدو القريب
اور ہر اجنبی اور دشمنہ دار مجھ سے بیزار ہوا۔

كذلك الذمير والایام خون
یہ زمانہ اور ایام دسترخوان کی طرح ہیں
نہاں کئی سائمتہ نصیب
جس پر ہر بھوکے کے لئے کوئی نہ کوئی حصہ ضرور ہے۔

عوف بن کناہ بن عوف بن عذره بن لید بن ثور بن کلب تین سو سال زندہ رہا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے اپنی اولاد کو جمع کر کے وصیت کی۔

”اے میرے فرزند میری وصیت کو یاد رکھنا اگر تم نے یاد رکھا اور اس پر عمل کرتے رہے تو میرے بعد تم لوگ قوم کی سرداری کرو گے۔“

”اللہ سے ڈرو، (مال کے نقصان ہونے پر) حزن و ملال نہ کرنا، خیانت کرنے سے بچنا، درندوں کو نہ چھیڑنا ورنہ وہ سب اپنی اپنی پناہ گاہوں سے نکل پڑیں گے اور تمہیں ندامت ہوگی۔ لوگوں کو تکلیف مت پہنچانا اور صلح اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنا۔ دست سوال دراز کرنے سے گریز کرنا تاکہ لوگ تمہیں بوجھ نہ سمجھیں۔ حق بات کے سوا زبان نہ کھولنا تاکہ لوگ تمہاری تعریف کریں۔ لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا تاکہ ان کے دل تمہارے لئے کشادہ ہوں لوگوں کو اپنی طرف سے فائدہ رسانی سے محروم نہ کرنا ورنہ ان کے دل میں تمہارے لئے شکایت پیدا ہوگی۔ اور لپٹے بچوں کو پوشیدہ طور پر انعام دینے والوں میں سے ہو جاؤ۔ لوگوں کے ساتھ زیادہ نہ اٹھنا یا سنا ورنہ حقیر جانے جاؤ گے۔ اگر مشکل پیش آئے تو صبر سے کام لینا اور زمانے کے کپڑے اسی کو پہنا دینا۔ پس یقیناً مشکل کے ساتھ اچھی گفتگو آسانی کے ساتھ برے تذکرے سے اچھی ہے۔ جو تم سے جھک کر لے تم بھی اس سے جھک کر لو۔ کیوں کہ محبت سے لوگ قریب ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بغض دیکھنے کو ظاہر کرے تو تم ہمدردی سے نہ اٹو جو تم سے عذر خواہی کرے تو اس کے عذر کو قبول کر لو۔ وفائے عہد اختیار کرنا اور عہد شکنی سے بچنا۔ جھوٹ سے گریز کر کے اپنے حسب و نسب کو بلند کرو اس لئے کہ آدمیت کی آفت کذب اور خلاف مرضی بات کرنا ہے۔ لوگوں سے اپنی تنگ دستی کا ذکر نہ کرو ورنہ ان کی نظروں میں گرجاؤ گے۔ عزت سے ڈرو اس لئے کہ یہ ذلت ہے۔ جو تمہارے ہم پلہ ہوں ان سے بزرگی کے ساتھ پیش آؤ اور اپنے لئے بلندیوں کی خواہش کرو اور تمہیں عورتوں کا صبر۔ صحت و نسب سے ہٹ کر غلبان میں ہٹنا نہ کرے۔ اس لئے کہ شریف عورتوں سے نکاح عزت و شرف کے مدارج میں سے ہے۔ اپنی قوم سے جھک کر لو ان سے بغاوت نہ کرو اور وہ سب جس بات پر متفق ہو جائیں اس بات سے اشکاف نہ کرو۔ اس لئے کہ مخالفت سردار کی اطاعت کے خلاف ہوتی ہے۔ پہلے اپنے لوگوں کے ساتھ نیکی کرو پھر دوسروں کے ساتھ۔ اور تم اپنے اہل و عیال کی خواہشات سے وحشت اختیار نہ کرو۔ اس لئے کہ ایسا کرنا لعنت کی آگ کے بجھانے اور حقوق کے ادا نہ کرنے کا سبب ہوگا۔ اور سونے والے کو چھوڑ دو اور تم ان کی مصیبتوں اور تکلیفوں میں مددگار بن جاؤ تو تم غلبہ حاصل کر لو گے اور اس مطالب سے ڈرو جس کی منفعت ان تک نہیں پہنچی۔ ہڑوسی کے ساتھ عزت سے پیش آؤ جو تمہارے پاس تروتاریگی کے ساتھ آتا ہے۔ ضعیف کے

حق کو خود پر ترجیح دو۔ بیوقوفوں کے ساتھ تحمل سے کام لو تاکہ تمہارا غم و الم کم ہو۔ گروہ بندی سے پرہیز کرو کیونکہ اس میں ذلت ہے۔ سوائے حالت مجبوری کے اپنے آپ کو اپنی استطاعت سے زیادہ تکلیف میں نہ ڈالو مگر جب مجبور ہو تاکہ تم عذر واضح ہونے کے بعد ملامت کا نشانہ نہ بنو اور تمہارے پاس ایسی قوت ہونی چاہیے کہ جو بے چارگی کی حالت میں ان سے معذرت کے ساتھ تعاون کرنے سے بہتر ہو (یعنی قبل اس کے کہ معذرت کرنی پڑے تم ان سے تعاون کرو) اور کوشش کرو اور اس میں کمی نہ کرو اس لئے کہ کوشش فقر و احتیاج سے روکتی ہے۔ تم سب کا نعرہ ایک ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہی بات باعث تکریم ہے۔ اور تم اپنی دھار کو تیز رکھو۔ جو بے عزت لوگ ہیں ان کی طرف توجہ نہ کرو کہ انہیں منہ لگاؤ اور نہ کینے لوگوں سے ملو جلو کہ ان سے تم کو تکلیف پہنچے۔ آپس میں حسد نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ کئیوی ایک مرض ہے اس سے دور رہو۔ جو دو کرم اور ادب و آداب اہل فضل کی پاکیزگیوں سے اپنا مقام بلند کرو۔ خرچ کر کے محبتیں حاصل کرو۔ صاحبان علم و فضل کی عزت کا خیال رکھو۔ تجربہ کاروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاؤ۔ وہ تم کو کسی چھوٹے سے کام سے بھی منع نہیں کریں گے جس میں ثواب ہو۔ اور لوگوں کی تحقیر نہ کرو ورنہ یہی پلٹ کر تم تک آئے گا۔ کیونکہ آدمی تذکیہ قلب یا تذکیہ لسان سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جب تم کسی امر سے خوف میں مبتلا ہو تو تم پر عجلت سے قبل ثابت قدمی لازم ہے۔ اور دیکھو محبت کے ذریعے حاکموں کے پاس اپنی جگہ بناؤ۔ اس لئے کہ جس شخص نے ان کی بے حرمتی کی وہ خود بے حرمت کیا گیا اور جس نے انہیں بلندی دی وہ بلند کیا گیا، اور شرافت کے ساتھ پیش آؤ کیونکہ نگاہیں تمہاری طرف نشان دہی کر رہی ہیں۔ لوگوں سے وقار کے ساتھ تواضع کرو تاکہ تمہارا رب تمہیں پسند کرے۔ پھر کہا:

وما کل ذی لبّ بموتیک نصحہ ولا کلّ موت نصحہ بلبیب
 " اور ہر صاحب عقل و فراست تمہیں نصیحت نہیں نہ ہی ہر نصیحت کرنے والا عقلمند ہوتا ہے۔

ولکن إذا ما استجمعا عند واحد فحقّ له من طاعة بنصیب
 لیکن اگر یہ دونوں چیزیں ایک کے پاس جمع ہو جائیں تو اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔"

صیفی بن ریاح بن اکثم جو اسد بن عمر بن حمیم کی اولاد میں سے تھا دو سو ستر سال زندہ رہا۔ وہ کہا کرتا تھا - تمہیں تمہارے بھائی پر سوائے حالت جنگ کے ہر حال میں قابو ہے۔ کیونکہ جب مرد اسلحہ اٹھا لیتا ہے تو پھر کسی کے قابو میں نہیں آتا۔ تلوار سب سے بڑی ناصح ہے، فخر کا چھوڑ دینا تعریف کو باقی رکھتا ہے۔ سب سے بڑی سزا باغی کی سزا ہے نصرت کا شر علم ہے۔ بدترین اخلاق تنگ کرنا ہے اور بے ادبی کرنا عتاب کی زیادتی کا باعث ہے اور اس نے اپنا عصا زمین پر مارا۔ اور یہ شعر کہا:

کاموں میں ان کی مدد کرو۔ وہ جس امر کی دعوت دیتے ہیں اگر وہ حق ہے تو اس کا فائدہ تم کو ہوگا اور اگر وہ باطل ہے تو
جہاد فرض ہے کہ ان کی پردہ پوشی کرو اور ان سے کوئی تعرض نہ کرو۔

اس سے پہلے اسقف نجران نے بھی ان کے اوصاف بیان کئے تھے۔ اس سے قبل سفیان بن مجاشع نے بھی ان
کا ذکر کیا تھا اور اسی لئے اس نے اپنے لڑکے کا نام محمد رکھا تھا۔ تم میں سے جو صاحب الرائے ہیں وہ اچھی طرح جانتے
ہیں کہ جس امر کی طرف وہ دعوت دے رہے ہیں وہ اچھی بات ہے۔ لہذا ان کو تسلیم کرنے میں تم لوگ ہی پہل کرو
اور اس سلسلے میں تاخیر نہ کرو۔ ان کی اتباع کرو تو جہارے شرف کا باعث ہوگا اور تم بنائیاں ہو جاؤ گے۔ ان کی
اطاعت میں جلدی کرو قبل اس کے کہ مجبوراً ایسا کرنا پڑے۔ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کسی بلندی و پستی کو نہ
چھوڑیں گے اور جی ہوئی چیز کو دکھائے بغیر نہیں رہیں گے۔ اور ہر جگہ ہانپیں گے اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ وہ جس
طرف دعوت دے رہے ہیں وہ کوئی دین نہیں ہے تو نہ سہی اچھے اور کریماں اخلاق تو ہیں۔ میری بات مان لو اور اس پر
عمل کرو۔ میں تم سے اس بات کے لئے کہتا ہوں جو تم سے کبھی چھین نہ جاسکے۔ عرب میں جہاری تعداد سب سے زیادہ
ہے اور جہارے شہر سب سے زیادہ وسیع ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ذلیل بھی ان کی پیروی کرے گا تو عزت دار
ہو جائے گا اور اگر عزت دار بھی ان کی مخالفت کرے گا تو ذلیل ہو جائے گا۔ تم لوگ عزت دار ہو اس لئے جہاری عزت
دوگنی ہو جائے گی۔ پھر جہارے مقابل کا کوئی نہ ہوگا۔ یاد رکھو آگے جانے والے پیچھے رہنے والوں کے لئے کچھ نہیں
چھوڑتے۔ سہقت کرنے والوں کے لئے رہبری اور پیچھے رہ جانے والوں کے لئے پیروی ہوتی ہے۔ پس تم اپنے کام میں
جلدی کرو اس لئے کہ عزیمت قوت کا نام ہے اور احتیاط عجز کا نام ہے۔

مالک بن نویرہ بولا۔ لوگو یہ بڑھا فتر العقل ہو گیا ہے۔ اکثم نے کہا دائے ہو اس شخص کے لئے جو غمگین ہو اور
انتہائی غمزدہ ہو۔ تم لوگ تو میری بات پر خاموش ہو۔ نصیحت کے لئے سب سے بری بات یہ ہے کہ اس سے منہ موڑ لیا
جائے۔

دیل ہو تیرے لئے اے مالک تو ہلاک ہوگا۔ جب حق سر بلند ہوتا ہے تو وہ اپنے پیروکاروں کو بھی سر بلند کرتا ہے
تو پسماندہ لوگ بھی ترقی یافتہ لوگوں کے برابر آجاتے ہیں۔ پس تو اپنے لئے لازم کر لے کہ تو ان لوگوں میں ہو جائے جو
قیام حق کے لئے کھڑے ہوں۔ اب جب کہ تم نے مجھے اپنا بڑا مان لیا ہے تو میرا ناقہ لے آؤ تاکہ میں اس پر سوار ہوں۔
یہ کہہ کر وہ اپنے اونٹ پر سوار ہوا اور اس کے پیٹھ اور بھتیجے اس کے پیچھے چل دیئے۔ پھر اس نے کہا:

مجھے اس کام پر افسوس ہے جسے میں نہیں کر پایا اور جس نے مجھے آگے نہیں بڑھایا۔

بنو طئی نے اکثم کو خط لکھا۔ یہ لوگ اس کے ماموں ہوتے تھے۔ جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ بنی مرہ نے خط لکھا یہ بھی

اس کے ماموں تھے کہ ہمیں کچھ نصیحتیں کریں۔ اکثم نے ان کے جواب میں لکھا۔

" انا بعد - میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو صلہ رحم اختیار کرو۔ اس لئے کہ اس کی جڑیں مستحکم اور شاخیں پھیلنے والی ہیں۔ معصیت اور قطع رحم سے بچو۔ اس لئے کہ اس کی جڑیں کمزور اور شاخیں پھیلنے والی نہیں ہوتیں بے وقوف عورت سے نکاح نہ کرو کیونکہ اس سے مباشرت کمزور اور اولاد بے کار ہوتی ہے۔ اونٹوں کی اہمیت سمجھو یہ عرب کے لئے مضبوط قلعے ہیں۔ ان پر ان کی قوت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ یہ کریم مہر اور قتل کی حدت قرار پاتے ہیں۔ ان کا دودھ بڑوں کے لئے محض اور بچوں کے لئے غذا ہے۔ یہ چکی چلانے کے بھی کام آتے ہیں۔ جس شخص کو اپنی اہمیت کا احساس ہے وہ کبھی برباد نہیں ہوتا۔ غربت دراصل عقل کی غربت ہے۔ مرد صالح اپنے مال کو کبھی برباد نہیں کرتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مرد سو مردوں سے بہتر ثابت ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک گروہ دو گروہوں سے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ جو زمانے کی شکایت کرتا ہے وہ تکلیف اٹھاتا ہے۔ جو قسمت پر شاکر ہے وہ اچھی زندگی بسر کرتا ہے۔ ہوا ہوس (صاحب) رائے کی راہ میں رکاوٹ ہے اور عادت ادب کے تحت ہونی چاہیے۔ ایک ایسا محتاج جس کے دل میں محبت ہے اس دولت مند سے بہتر ہے جس کے دل میں عداوت ہے۔ دنیا سرائے فانی ہے۔ جو کچھ آنا ہے وہ تمہاری کمزوری کے باوجود آنے گا۔ اگرچہ تم اس کی ظن میں قاصر رہے اور جو کچھ جانا ہے وہ تمہاری بھرپور طاقت و کوشش کے باوجود چلا جائے گا۔ فقر وفاقہ کی برائی شرف کو ضائع کر دیتی ہے۔ حسد ایسا مرض ہے جس کی کوئی دوا نہیں اور شہامت اس کے بعد آتی ہے۔ جس نے کسی کے ساتھ نیکی کی تو اس کے ساتھ بھی نیکی کی جائے گی۔ بے وقوفی کے ساتھ ندامت ہے۔ علم عقل کا ستون ہے۔ تمام (اچھے) کاموں کا مجموعہ صبر ہے اور بہترین کام معاف کر دینا ہے۔ معاہدہ کی پابندی مؤدت کو باقی رکھتی ہے اور جو شخص رغبت کا اظہار کرتا ہے اس سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے۔"

اکثم بن صغین نے اپنی موت کے وقت اپنی اولاد کو جمع کیا اور ان سے کہا: اے میرے فرزندو! میں ایک طویل عرصہ زندہ رہنے کے بعد اب مرنے سے پہلے تمہیں چند وصیتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور صلہ رحم کی وصیت کرتا ہوں۔ نیکی کرتے رہنا تاکہ تمہاری تعداد میں اضافہ ہو۔ نہ اس کی جڑیں ختم ہوتی ہیں نہ شاخیں۔ اللہ کی نافرمانی اور قطع رحم سے بچنا کیونکہ قطع رحم کرنے والے کی نہ جڑیں مضبوط ہوتی ہیں نہ شاخیں۔ اپنی زبان پر قابو رکھو کیونکہ یہ ہی تمہاری دشمن ہے۔ حق بات سنا کوئی دوست بھی گوارا نہیں کرتا۔ اور تم اونٹوں کی گردنوں کو دیکھو اور ان کے اہر ان کی طاقت کے مطابق بوجھ رکھو کیونکہ ان میں بہترین مہر اور قتل کا خون بہا ہے۔ اور تمہیں احمقوں کے نکاح سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ ان کا نکاح آنکھ کا تنکا ہے اور ان کی اولاد بربادی ہے۔ سفر میں معاش کا خیال رکھنا راحت و قوت کی بقا کا ضامن ہے۔ اور جو شخص کسی چیز کے ضائع ہونے پر مایوس نہیں ہوا تو اسے سکون حاصل ہوا۔ اور جس نے جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر قناعت کی تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتیں۔ نادام ہونے سے قبل اس (غلط) کام کو چھوڑ دو۔ اور کسی گناہ کے سرانجام دینے سے بہتر میرے نزدیک یہ ہے کہ میں صبح کام کروں۔ کوئی آدمی ہلاک

نہیں ہوتا ہے اگر وہ اپنی قدروں و منزلت پہچان لے۔ مصیبت کے وقت عاجز ہو جانا و قار کی رکاوٹ کا سبب ہے۔ جس نے جیسے نصیحت کی تو جہارے قبضے سے کوئی چیز تباہ نہیں ہوتی۔ اس عالم پر افسوس ہے جو اپنی نادانی سے بے خوف رہا۔ اور وحشت آگاہی کا چلا جانا ہے۔ جب کوئی کام سنبھلے آتا ہے تو وہ تشابہ ہو جاتا ہے اور جب کوئی کام نیچے چلا جاتا ہے تو اسے چالاک اور احمق دونوں پہچان لیتے ہیں۔ خوشحالی میں اسراف و حماقت ہے۔ بلندیاں حاصل کرنے میں عزت ہوتی ہے تو ہوا ملنے پر غم مت کرو کیونکہ اس سے زیادہ بھی ملے گا۔ جو بات تم سے نہ پوچھی جائے اس کا جواب نہ دو۔ جو بات ہنسنے کی نہ ہو اس پر نہ ہنسو۔ دنیا سے برات کا اظہار کرو اور بغض نہ رکھو۔ حسد و رقابت میں ہوتا ہے کہ جب جمع ہوتے ہیں تو ان کے ہتھیار کڑکڑانے لگتے ہیں، تم جب محبت میں قریب ہوتے ہو تو رقابت پر بھروسہ نہ کرو کہ کہیں علیحدگی نہ ہو جائے۔ اور تم پر لازم ہے کہ مال کے ذریعے اصلاح کرو کیونکہ جہاری اصلاح کے بغیر مال و متاع کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اپنے معاشی حالات پر توجہ دو۔ اپنے بھائی کے مال پر بھروسہ نہ کرو کہ وہ اپنی حاجت کو پورا ہوتے ہوئے دیکھے ایسا کرنے کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی پانی کو مٹھی میں بند کرنے کی کوشش کرے۔ جو صاحب ثروت بننا چاہے تو اسے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا چاہیے۔ اپنے سرداروں کا اکرام کرو۔ شریف عورت کا کھیل نکلے سے کھیلنا ہے (یعنی وہ اپنے کاموں میں مصروف رہتی ہے)۔ جب کوئی تدبیر نہ ہو تو صبر ہی آخری تدبیر ہے۔

قرہ بن ثعلبہ بن نفاذ سلولی ایک سو تیس سال زمانہ جاہلیت میں زندہ رہا پھر اس نے اسلام کا زمانہ دیکھا اور اسلام قبول کیا۔

مصاد بن جناب بن مرادہ جو عمرو بن یروغ بن حنظلہ بن زید بن مناکہ کی اولاد سے تھا ایک سو چالیس سال زندہ رہا۔ قس بن ساعدہ آیادی چھ سو سال زندہ رہا۔ اور یہ وہی ہے جس نے یہ اشعار کہے:

هل القیث مَعْطی الأمان عند نزولہ
کیا برساً بادل غراب حال شخص کو امن سے
وماقدتوتی وهو قدفات ذامباً
جو کچھ گزر گیا اور ہاتھ سے نکل گیا تو کیا
بحال مسیء فی الامور و محسن
ہمکنار کرتا ہے یا اس پر احسان کرتا ہے؟
فهل ینفعتنی لیتنی ولوانتی
افسوس کرنے اور اے کاش میں ایسا ہوتا کہنے سے کوئی
فائدہ ملے گا؟

اسی طرح بسید کہتا ہے:

وأخلف قساً لیتنی والوانتی
اور قس نے، اے کاش اور اگر میں ایسا ہوتا
وأعیاء علی لقمان حکم التدبیر
کہہ کر لقمان کو بھی حکمت میں نیچے چھوڑ دیا۔

حارث بن کعب مذہبی ایک سو ساٹھ سال زندہ رہا۔

اس کتاب کے مؤلف فرماتے ہیں کہ ان تمام روایات کا ذکر ہمارے مخالفین نے بھی محمد بن سائب کلبی، محمد بن اسحاق بشار، عوانہ بن الحکم، عیسیٰ بن زید بن آب اور ہشیم بن عدی طائی کے حوالے سے کیا ہے۔ اور حضور اکرم کا ارشاد ہے کہ جو کچھ سابقہ امتوں میں ہو چکا ہے وہ اس امت میں بھی ضرور ہوگا۔ بالکل اسی طرح قدم بقدم۔

پس جب کہ سابقہ امتوں میں طول عمر کا ہونا صحیح ہے اور حج اللہ علیہم السلام کے واقعات غیبت جو پچھلی صدیوں میں گذرے تو پھر امام قائم کی غیبت اور طول عمر کا انکار کیوں کیا جائے جب کہ ان کے لئے تو رسول اکرم اور ائمہ طاہرین کی نصوص وارد ہوئی ہیں جن کو ہم نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے۔

بیان کیا مجھ سے علی بن احمد دقاق نے ان سے محمد بن ابی عبداللہ کوئی نے ان سے موسیٰ بن عمران نخعی نے ان سے ان کے چچا حسین بن یزید نوقلی نے ان سے غیاث بن ابراہیم نے ان سے حضرت امام جعفر صادق نے ان سے ان کے والد بزرگوار نے ان سے ان کے آباؤں کے آباؤں نے انہوں نے کہا کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ جو کچھ سابقہ امتوں میں ہو چکا ہے۔ وہ سب اس امت میں ہو رہا ہوگا۔ بالکل اسی طرح قدم بقدم۔

بیان کیا مجھ سے احمد بن حسن قطن نے انہوں نے کہا کہ بیان یا مجھ سے حسن بن علی سکری نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن زکریا نے ان سے جعفر بن محمد بن عمارہ نے ان سے حضرت امام جعفر صادق نے ان سے ان کے والد بزرگوار نے ان سے ان کے جد امجد نے بیان کیا کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی اور بشیر مبعوث کیا میری امت میں وہ تمام باتیں جاری ہوں گی جو قدم بقدم سابقہ امتوں میں ہوئیں۔ حتیٰ کہ اگر بنو اسرائیل میں ایک سانپ کسی سوراخ میں داخل ہوا تھا تو میری امت میں بھی ایسا ہوگا۔

بیان کیا مجھ سے شریف ابوالحسن علی بن موسیٰ بن احمد بن ابراہیم بن محمد بن عبد اللہ نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے ابو علی حسن بن رکان نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے احمد بن محمد نوقلی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے احمد بن ہلال نے ان سے عثمان بن عیسیٰ کلانی نے ان سے خالد بن یحییٰ نے ان سے حمزہ بن حران نے ان سے ان کے والد نے ان سے سعید بن جبیر نے انہوں نے کہا کہ میں نے سید العابدین علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب علیہم السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارے قائم کے لئے انبیاء کی سنتیں ہیں۔ ان میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ایوب اور حضرت محمد کی سنت ہے۔

حضرت نوح کی سنت طویل عمر، حضرت ابراہیم کی سنت ولادت کا پوشیدہ ہونا اور لوگوں سے پوشیدہ رہنا۔ حضرت موسیٰ کی سنت خوف اور نجاست، حضرت عیسیٰ کی سنت کہ لوگوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا۔ حضرت ایوب کی سنت مصائب کے بعد خوشحالی اور حضرت محمد کی سنت توار لیکر خروج۔

پس جب سابقہ ادوار میں طول عمر کا واقع ہونا صحیح ہے تو امام قائم کے لئے اس سنت کا جاری ہونا بھی صحیح ہے جو

بارہویں امام تھے۔ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اس بات کا اعتقاد رکھا جائے کہ آجمناب کی غیبت میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اور جیسا کہ حضور اکرمؐ اور ائمہ علیہم السلام کا ارشاد ہے کہ اگر دنیا کے اختتام میں ایک دن بھی رہ جائے گا تو اللہ اس کو اتنے طویل کر دے گا کہ امام قائمؑ ظاہر ہو کر دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اور اسلام ہمیں اس وقت حاصل ہوگا جب ہم حضور اکرمؐ اور ائمہ طاہرین کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں گے۔ **ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم** ○

سابقہ ادوار میں بھی وہ لوگ جو دین دار، عبادت گزار اور پرہیزگار ہوتے تھے وہ ایسے شخص کو پوشیدہ اور لپٹے امور کو لوگوں سے چھپائے رکھتے تھے۔ اور صرف اس صورت میں اپنے کو ظاہر کرتے تھے جب لوگوں کے خوف سے امان ہوتی تھی ورنہ پوشیدہ رہتے تھے اور یہی طریقہ اس دنیا میں ابتدا سے ہمارے وقت تک رائج ہے۔ پھر کس طرح امام قائمؑ کی غیبت کا انکار ممکن ہے؟ یہ انکار صرف وہی نوگ کریں گے جن کے دلوں میں کفر و فسلالت اور نبیؐ اور ائمہ علیہم السلام کے لئے بغض و عناد ہے۔

بیان کیا مجھ سے احمد بن حسن قطن نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے حسن بن علی سکری نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن زکریا نے انہوں نے کہا کہ مملکت ہندوستان میں ایک بادشاہ کثیر لاد لشکر اور وسیع مملکت پر حکومت کرتا تھا جس کی ہیبت رعایا کے دلوں پر غیر معمولی تھی خواہشات نفسانی کا دلدادہ تھا۔ دنیا کے ہر عمل ناشائستہ سے محبت کرنے والا اور بہت زیادہ خوشامد پسند تھا۔ جو لوگ اس کی رائے کو اچھا سمجھتے تھے ان سے محبت کرتا تھا اور ان سے زیادہ مخلص تھا لیکن جو لوگ اس کے حکم کو ٹالتے تھے اور کسی دوسرے کے اثر میں رہتے تھے وہ ان سے بغض و عناد رکھتا تھا اور انہیں ملیا میٹ کر دیتا تھا۔ وہ جوانی اور عنفوان شباب میں پہنچ گیا تھا اس کی رائے بہت ہنست تھی، اس کی زبان بلیغ تھی، لوگوں کے ساتھ تدبر اور نظم و ضبط کا ماہر تھا۔ چنانچہ اس بات کے مشہور ہونے سے عوام ان اس کے مطیع ہو گئے۔ تند خو اور، کم ہمت سب ہی اس کے آگے سر جھکانے ہوئے تھے۔ نشت شباب اور نشت قوت و شہوت و غرور اس میں لکھے ہو گئے تھے۔ دشمنوں پر ظفر بام ہونے اور اہل مملکت پر قہر ڈالنے اور لوگوں کے مطیع ہو جانے، نے اس کو اور تقویت دی۔ پس اپنی بد سستی میں وہ لوگوں کی تحقیر کیا کرتا تھا۔ خوشامدیوں کی مدح سرائی نے اسے اور مدہوش کیا ہوا تھا۔ پھر اس کی رائے اور دل میں غرور و تکبر اس نے بڑھ گیا کہ لوگوں نے اس کی خوب تعریفیں کیں اور اس کے اقدامات کو اس کے سامنے سراہا۔ اس کی خواہش صرف دنیا تھی اور دنیا اس کو سب کچھ دے رہی تھی اور کوئی خواہش ایسی نہ تھی جسے دنیا نے پورا نہ کیا ہو۔ وہ عورتوں اور مردوں سے لذت حاصل کرتا تھا اولادِ زرینہ سے محروم تھا۔ اس کی حکومت سے پہلے دین چھایا ہوا تھا اور اکثریت اس پر عمل پیرا تھی۔ پس شیطان نے دین اور سننداروں کی عداوت کو اس کی نظروں میں زینت دی اور اس نے اپنی دین کو ضرر پہنچایا اور ان کے زور کو توڑ کر انہیں خوف زدہ کیا اور بہت پرستوں کو لپٹے سے قریب کیا اور ان کے لئے

چاندی اور سونے کے بت بنائے۔ ان کو فضیلت دی ان کا اکرام کیا اور ان کے بتوں کو سجدہ کیا۔

پس جب رعایا نے یہ دیکھا تو وہ بھی بت پرستی کی طرف مائل ہوئی اور اہل دین کو ذلیل کیا گیا۔

ایک روز اس نے ایک شخص کے متعلق پوچھا جو ملک میں اچھی منزلت اور بلند مقام کا حامل تھا تاکہ اس سے بعض

امور میں مدد لے اور اس سے محبت سے پیش آئے اور اس کا اکرام کرے۔

لوگوں نے کہا کہ بتاب اس نے دنیا کو اور جو کچھ اس میں ہے اسے چھوڑ رکھا ہے اور درویشوں سے منسلک ہو گیا

ہے۔ یہ بات بادشاہ پر گراں گزری اور حکم دیا کہ اس کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ جب وہ شخص بادشاہ کے سامنے حاضر

ہوا اور بادشاہ نے اس شخص کو درویشوں کے لباس میں اور انہیں کی طرح فروتنی کا اظہار کرتے ہوئے پایا تو اسے حیرت اور

شماخت کی اور کہا تو ہمارے درمیان ہمارے خدمت گزاروں، اعیان اہل مملکت، اور ان کے نمایاں افراد اور اشراف میں

سے تھا۔ تو کیوں تو نے خود کو رسوا کیا اور اپنے گھر والوں اور اپنے مال کو فاسخ کیا اور کیوں نقصان اٹھانے والوں اور ہیکار

لوگوں کی پیروی کی۔ یہاں تک کہ لوگوں کے لئے مشککہ اور مثال بن گیا۔ اور تو ہمارے اہم ترین امور میں ہمارا مددگار

تھا اور جو بھی میں چاہتا تھا اس میں تو میری مدد کرتا تھا۔

پس اس نے جواب دیا: اے بادشاہ اگر میرا تم پر کوئی حق نہیں ہے تو تمہاری عقل کا تو تم پر حق ہے۔ پس میری

بات سننے میں غصہ مت کرو۔ اور فہم اور دلیل کے بعد اس سلسلے میں فیصلہ کرنا کیونکہ غصہ عقل کا دشمن ہوتا ہے۔ اور یہ

انسان اور اس کی فہم کے درمیان پردہ ڈال دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا: تجھے کیا کہنا ہے؟ درویش نے کہا: اے بادشاہ میں تم

سے پوچھتا ہوں کیا میرے ذاتی گناہ پر تم نے مجھ پر عتاب کیا ہے؟ یا میرا گناہ تم پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا: تیرا

گناہ میرے نزدیک بہت بڑا ہے اور میری رعیت میں سے جو کوئی اپنے نفس کی ہلاکت کا سامان کرے گا تو میں اس کے اور

اس کے نفس کے درمیان آجاؤں گا۔ کیونکہ اس کا اپنے نفس کو ہلاک کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی دوسرے شخص کو ہلاک کرنا،

میں اس کا ولی ہوں اور تم پر بھی اور اس پر بھی حاکم ہوں۔ پس میں تمہارے نفس پر زیادہ حاکم ہوں اور مواخذہ کرنے والا

ہوں جب کہ تم نے خود کو اس طرح فاسخ و برباد کر دیا ہے درویش نے اس سے کہا: اے بادشاہ دلیل کے بغیر میری گرفت

نہ کرو اور دلیل کو نافذ نہ کرو سوائے اس کے کہ تمہارے پاس قاضی بھی ہو۔ اور تمہارے پاس انسانوں میں سے بہت سے

قاضی ہیں۔ اور تم انہیں کے احکامات نافذ کرتے ہو۔ اور میں ان میں سے کچھ سے راضی ہوں اور کچھ سے خوف زدہ۔

بادشاہ نے کہا: وہ قاضی کون ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ جس کے فیصلہ پر میں راضی ہوں وہ قاضی تمہاری عقل ہے

اور جس سے میں خوف زدہ ہوں وہ تمہاری خواہش نفس ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ بیان کر تو کہنا کیا چاہتا ہے۔ یہ خیال

تیرے دل میں کب سے پیدا ہوا؟ اور کس نے تجھے بہکایا؟ اس شخص نے کہا مجھے اس طرح پہ چلا کہ میں نے اپنے بچپن میں

یہ بات سنی تھی تو میرے دل میں بیجہ گئی اور اس دانے کی طرح ہو گئی جسے زمین میں بو دیا گیا ہو۔ پھر وہ بڑھتی رہی اور

درخت بن گئی جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ میں نے ایک عقلمند سے سنا ہے کہ جو بے وقوف ہوتا ہے وہ اس چیز کو جس کی کوئی اصل و حقیقت نہیں ہوتی اور وہ کسی کام نہیں آتی اس کو کارآمد سمجھ لیتا ہے اور وہ چیز جو اصل رکھتی ہے اور کارآمد ہوتی ہے اس کو بے کار سمجھ لیتا ہے۔ اور وہ اس امر کو نہیں چھوڑتا جس کی کوئی حقیقت نہیں تو وہ اس مقصد کو حاصل نہیں کرتا جو دراصل حقیقت ہے اور اس امر کو نہیں دیکھتا جو حقیقت ہے تو اس کا نفس اس امر کو چھوڑ دینے سے مطمئن نہیں ہوتا جو حقیقت نہیں اور حقیقت تو دراصل آخرت ہے اور جو حقیقت نہیں ہے وہی دنیا ہے۔ جب سے میں نے یہ سنا ہے تو میں نے بے حقیقت چیز کو جو یہ دنیائے فانی ہے ترک کر دیا اور حقیقی شے کے جو دار باقی ہے کو اختیار کر لیا ہے اور اب میری نظر میں حیات موت ہے تو نگرہی فقر۔ دنیا کی خوشی غم، صحت و دنیا بیماری، قوت و دنیا ضعف و بھوری، عزت و دنیا ذلت ہے، اور کس طرح حیات، دنیا موت نہ ہو جبکہ بیچنے والا موت کے لئے جیتا ہے۔ اور اسے موت کا یقین ہوتا ہے اور حیات کے ختم ہونے کا بھی۔ اور کیوں اس کے تو نگر کو فقیر نہ سمجھا جائے کہ کوئی چیز نہیں ملتی مگر یہ کہ اس کی وجہ سے وہ کسی اور چیز کا محتاج ہو جاتا ہے جو اسے ایسی اشیا کی طرف مائل کرتی ہے جو اس کے لئے ضروری ہوتی ہیں۔

جیسے آدمی کبھی جانور کا محتاج ہوتا ہے جسے وہ اسے پالیتا ہے تو اس کے گھاس، چارے اور اس کے تعاون کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح وہ ہر چیز کے لئے کچھ دوسری چیزوں کا محتاج ہوتا ہے جو اس کے کام آسکیں اور ضروری ہوں۔ تو اس کی حاجت کب پوری ہو سکتی ہے جو اس طریق کار کا محتاج ہو؟ اور کس طرح اس کی خوشی غم میں تبدیل نہ ہو کہ جسے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے تو غم و تکلیف اس کی گتھات میں بیٹھ رہتی ہے اور وہ اپنی آنکھ سے غم و حزن کو دگنا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اگر وہ اپنے بچے سے خوشی محسوس کرتا ہے تو اس کی بیماری اور موت میں اسے حزن سے سابقہ پڑتا ہے جو اس کے سرور سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اور اگر مال سے خوشی محسوس کرتا ہے تو کیا اس کی بربادی اور ضائع ہونے سے خوف نہیں کھاتا کہ مال کی خوشی ہی سب سے بڑی خوشی ہے۔ اگر یہ امر اسی طرح ہے تو لوگوں کا حق یہ ہے کہ وہ کسی شے سے اپنا دامن و اہستہ نہ کریں جو انہیں جھپٹے سے معنوم ہے۔ اور کس طرح اس کی صحت بیماری میں تبدیل نہیں ہو سکتی کہ اس کی صحت مختلف اضطرار پر مبنی ہے اور حیات سے قریب ترین خلط خون ہے۔ اور واضح ترین بات یہ ہے کہ انسان جو خون سے تخلیق کیا گیا ہے وہ اچانک موت، ذبح، طاعون، رخصت کے زخم اور ذاتِ بلب میں مبتلا ہو کر فوت ہو سکتا ہے اور کیوں اس کی قوت ضعف میں تبدیل نہ ہو جائے حالانکہ اس میں وہ قوتیں بھی پائی جاتی ہیں جو اسے نقصان پہنچاتی ہیں اور اسے ہلاک کر دیتی ہیں۔ اور کیوں کر ان اضطرار کی منزلت ذات میں تبدیل نہ ہو جائے جب کہ کبھی عزت برقرار نہیں رکھی گئی مگر اس انسان کے اہل کو لویل ذلت کا وارث بنا دیا گیا۔ سوائے اس کے کہ عزت کے دن بہت مختصر ہیں اور ذلت کے دن عموماً طویل ہیں۔ پس لوگوں کے سنے بہتر یہی ہے کہ وہ اس دنیا کی مذمت کریں جس کے لئے انہوں نے ہاتھ پھیلا رکھے ہیں۔ پھر حاجت پوری ہونے کے بعد وہ ہر ساعت اور ہر لمحہ توقع رکھے کہ ہر شب و روز وہ اپنے مال کو شمار کرے جس کا وہ محتاج

ہے اور وہ اس کے جمع کرنے میں اپنے رشتہ داروں کی آنکھوں کو چندھیا دیتا ہے اور اس کو جمع کی ہوئی اشیاء پر وہ لوٹ مار کرتے ہیں۔ اور اس کی عمارت کی بنیادوں کو مہندم کر دیتے ہیں اور موت اس کے اہل و عیال پر حملہ آور ہوتی ہے تو ان کو یح و بن سے اگلاز دیتی ہے۔ اور ہر شخص جو اس سے بھائی چارہ رکھتا ہے اسے تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ پس اسے بادشاہ میں اس دنیا کی کہ جو کچھ وہ دے رہی ہے مذمت کرتا ہوں اور وراثت کے مال سے جو لباس پہنارہی ہے کہ وہ مال موروثہ جو اس کے بعد برسرہ کر دیگا۔ بعض اوقات وہ کسی کی بندگی کا سبب بنتا ہے لیکن یہی بعد میں رونے پینے کا سبب بنتا ہے۔ اور جو اس کے عشق میں مبتلا ہے وہ اسے چھوڑنے والا ہے۔ مال موروثہ کے ملنے کے بعد شقاوت قلبی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جس نے اس مال کی اعانت کی اسے دھوکہ دیتا ہے اور جس نے اس پر بھروسہ کیا اس سے غداری کرتا ہے۔ اور مال موروثہ اس سواری کی طرح ہے جو الف ہو کر سوار کو گرا دیتی ہے اور ایسا ساتھی ہے جو خائن ہے اور ایسا راستہ ہے جو گمراہ کرنے والا ہے۔ اور ایسا جائے نزول ہے کہ جو ہلاک کرنے والا ہے اور ایسی بزرگی ہے جو کسی کا اکرام نہیں کرتی بلکہ ذلیل کر دیتی ہے اور ایسی عجب ہے جو کسی سے محبت نہیں کرتی اور ایسی لازم ہے جو ہمیشہ کسی کے ساتھ نہیں رہتی۔ کبھی یہ مال موروثہ وفا کرتا ہے اور کبھی بے وفائی۔ کبھی تصدیق کرتا ہے اور کبھی تکذیب۔ کبھی موافقت کرتا ہے اور کبھی مخالفت۔ جو اس مال موروثہ کے سہارے آگے بڑھنا چاہتا ہے اس میں کچی پیدا کر دیتا ہے۔ جس شخص نے اس کو اپنے قبضہ میں لیا تو وہ مال اس کے ساتھ خوب کھیلتا ہے۔ اسی اثنا میں جو شخص کھانے کا قصد کرتا ہے اسے لقمے کھلاتا ہے اور اسی دوران جب اس آدمی کو نادام بنا لیتا ہے تو اس کی خدمت کرتا ہے اور جو اس کے ساتھ ہنسی کرتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتا ہے اور جو اسے برا بھلا کہتا ہے تو وہ بھی اس کو برا بھلا کہتا ہے اور جب کوئی اس کے لئے روتا ہے تو وہ بھی اس کے لئے روتا ہے۔ جب کوئی دست سوال دراز کرتا ہے تو وہ بھی عطا کے لئے ہاتھ بڑھا دیتا ہے۔ اور عزت دیتا ہے جب کہ وہ ذلیل ہوتا ہے۔ اور اس کا احترام و اکرام کرتا ہے جب کہ وہ بے عزت ہو۔ اور اسی طرح وہ صاحب عظمت بنتا ہے جبکہ وہ حقیر ہو اور اسی طرح وہ بلند ہوتا ہے جب کہ وہ پستی میں گرا ہوا ہو۔ اور کبھی مال موروثہ مطیع ہوتا ہے جب کہ اس کی نافرمانی کی جائے اور اسی طرح اس مال موروثہ میں خوشی ہوتی ہے جب کہ اسے غم دیا جائے۔ اور اسی طرح اس میں شکم سیر لوگ (حقیقتاً) بھوکے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اس مال موروثہ کے سبب کچھ لوگ مردہ ہوتے ہیں حالانکہ وہ زندوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔

پس اس گھر پر تلف ہے جس کے کارنامے یہ ہوں اور اس میں اس قسم کی صفات پائی جائیں کہ یہ کسی کے سر پر کسی صبح تازہ رکھتا ہے اور کسی کو رات مٹی کے گڑھے میں دفن کر دیتا ہے۔ اور کسی کو رات میں ہاتھوں میں سونے کے زیور پہنا دیتا ہے اور صبح کے وقت زنجیروں میں گرفتار کر دیتا ہے۔ آدمی کو یہ دنیا کبھی محنت پر صبح کے وقت بٹھا دیتی ہے اور کبھی رات میں کسی قید خانے میں پھینک دیتی ہے کبھی رات میں دیبا کے فرش پھاتی ہے اور صبح کے وقت خاک پر سلا دیتی ہے۔ صبح کے وقت کبھی کھیل کود اور لعب و لہو کو جمع کرتی ہے اور کبھی رات میں گریہ کرنے والوں کو جمع کرتی

ہے۔ کسی رات میں اس آدمی کے اہل و عیال کی قربت کو محبوب بناتی ہے اور کسی صبح ان کی دوری کو محبوب بناتی ہے۔ کبھی صبح کے وقت اس کی خوشبو کو خوشگوار بناتی ہے اور کبھی رات میں اس خوشبو کو ناگوار بناتی ہے۔ پس وہ اپنی شان و شوکت کے ذریعے توقع رکھنے والا ہے جو اس کے فتنوں اور مصیبتوں سے نجات پانے والا نہیں ہے۔ اس آدمی کا دل دنیا کی باتوں سے فائدہ حاصل کرتا ہے اور اس کی آنکھیں ان کی عجیب و غریب اشیاء سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اس کا ہاتھ دنیا کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے پھر خالی بھی ہو جاتا ہے۔ مال کا چشمہ بر سکون رہتا ہے جو گیا سو گیا اور جو ہلاک ہوا سو ہلاک ہوا۔ جو ظاہر ہوا وہ ظاہر ہوا۔ ہر ایک کے بعد کسی ایک کو برقرار رکھتا ہے اور ہر ایک سے اس کے بدلے کے طور پر راضی رہتا ہے اور ہر صدی کو صدی کے بعد سکون پہنچاتا ہے۔ اور ہر قوم کے سرداروں کو بحیثیت قوم کے کھلاتا ہے۔ رذیل لوگوں کو افضل لوگوں کی جگہوں پر بٹھا دیتا ہے۔ اور عاجزوں کو صاحبان احتیاط کی جگہ بٹھا دیتا ہے۔ وہ قوموں کو خشک سالی سے تروتازگی کی طرف لاتا ہے۔ اور پیدل کو سواری، فاقہ شکنی سے نعمت کی طرف، شدت سے نرمی کی طرف، بد بختی سے پوشیدگی کی طرف بہاں تک کہ جس وقت وہ اس میں ڈوب جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے حالات میں تبدیلی پیدا کرتا ہے اور پھر ان سے خوشحالی اور تروتازگی کو دور کر دیتا ہے اور ان سے قوت کو چھین لیتا ہے پھر وہ سب سے بڑی ہلاکت اور سب سے بڑی تھمتی اور سب سے بڑی خشک سالی کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔

اے بادشاہ! یہ جو تم نے کہا کہ میں نے ترک دنیا کر کے اپنے نفس اور اپنے اہل و عیال کو ہلاکت میں ڈالا ہے تو ایسا نہیں ہے۔ بلکہ میں ان کی طرف اور زیادہ متوجہ ہو گیا۔ اور ان کے ساتھ خصوصی تعلق رکھا۔ لیکن میں انہی سحرزدہ آنکھ سے دیکھ رہا تھا کہ جس کے ذریعے اپنے رشتہ داروں میں سے اجنبیوں کو اور دوستوں میں سے دشمنوں کو نہیں پہچان رہا تھا۔ پس جب یہ سحر ختم ہوا تو سحرزدہ آنکھ صحیح آنکھ میں تبدیل ہو گئی اور دوستوں میں سے دشمن ظاہر ہو گئے اور اجنبی لوگوں میں سے قریبی رشتہ داروں کا پتہ چل گیا۔ پس اس وقت میں نے اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور بھائیوں اور تعلقات والوں کو شمار کرنا شروع کر دیا اور یہ شکاری کتوں کی طرح تھے جن کا قصد و ارادہ تھا کہ وہ مجھ کو کھالیں سوائے اس کے کہ ہمت و قوت کے اعتبار سے ان کے مختلف درجات تھے۔ پس ان میں سے کچھ گرم مزلی کی بنا پر شیر کی طرح تھے، کچھ بھیڑیے کی طرح پھاڑ ڈالنے والے اور نوج کھسوٹ میں مشہور تھے، کچھ چالوس کتوں کی طرح دم ہلانے والے تھے اور کچھ لومڑی کی طرح حلیہ گر اور چور تھے ان کا مقصد ایک ہی تھا لیکن ان کے طریقے جدا جدا تھے۔

اور اگرچہ اے بادشاہ جہاری عظیم مملکت کے بادصف اور تمہارے رشتہ داروں، لشکروں اور مصاحبوں اور مطیع و فرماں بردار لوگوں کی کثرت کی وجہ سے تمہیں عظمت حاصل ہے لیکن میں نے تمہارے بارے میں غور و فکر کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس دنیا کے لوگوں میں سے کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے اور تم تنہا ہو اور یہ بھی مجھے پتہ چلا کہ عوام تمہارے دشمن ہیں اور یہ کہ یہ امت جس پر تمہیں قدرت حاصل ہے بہت زیادہ حسد کرنے والی ہے اور یہ دشمنی کرنے

والے ہیں اور دلوں میں نفاق چھپائے ہوئے ہیں۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو شکاری کتوں سے زیادہ تمہارے دشمن ہیں۔ اور تمام انہی تم سے دشمنی رکھتے والے ہیں اور جب میں تمہارے مطیع و مددگار اور رشتہ داروں کی طرف دیکھتا ہوں تو ان کو ایسا گروہ پاتا ہوں جو ایک ظاہری فائدہ کے لئے عمل کرتے ہیں۔ اور اس کے باوجود حرص و ہوس میں ہٹلا ہیں کہ تمہارے لئے کام کم کریں اور اجر زیادہ لیں اور جب میں تمہارے مخصوصین اور رشتہ داروں کی طرف دیکھتا ہوں تو ان کو ایسا گروہ پاتا ہوں جو تمہارے لئے کوشش اور عمل میں مصروف ہیں اور تمہیں مال و دولت کما کر دیتے ہیں اور تم انہیں ہمیشہ تکلیف پہنچاتے ہو حالانکہ وہ سب ایسے نہیں ہیں۔ وہ تمہاری کوشش و جدوجہد سے راضی ہیں میں اگر تم نے انہیں اس کوشش اور جدوجہد سے روک دیا تو وہ تم سے راضی نہ ہونگے تو اسے بادشاہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم تنہا ہو۔ نہ کوئی تمہارا رشتہ دار ہے اور نہ تمہارے پاس مال و دولت۔

لیکن میرے پاس میرے اہل و عیال بھی ہیں، مال بھی، دوست بھی، بھائی نہیں ہیں جو مجھے نہیں کھارے اور نہ میرے ذریعے کھارے ہیں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ہمارے درمیان محبت مفقود نہیں ہے۔ میں انہیں نصیحت کرتا ہوں اور وہ مجھے نصیحت کرتے ہیں اور ہمارے درمیان کوئی ٹھگڑا نہیں ہے وہ میری تصدیق کرتے ہیں اور میں ان کی تصدیق کرتا ہوں اور ہم ایک دوسرے کو جھٹلاتے نہیں۔

وہ مجھ سے ہمدردی رکھتے ہیں اور میں ان سے ہمدردی رکھتا ہوں اور ہمارے درمیان کوئی دشمنی نہیں۔ وہ میری مدد کرتے ہیں اور میں ان کی مدد کرتا ہوں اور ہم ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ وہ ایسی نیکی کو چاہتے ہیں کہ میں بھی اسے چاہوں۔ انہیں خوف نہیں ہے کہ میں انہیں اپنا زبر اثر کر لوں گا۔ ہمارے درمیان نہ فساد ہے نہ حسد۔ وہ میرے لئے اور میں ان کے لئے ایسے اجر پر کام کرتے ہیں کہ جو فانی نہیں۔ اور ہمیشہ یہ عمل ہمارے درمیان قائم ہے۔ یہ لوگ اگر میں گمراہ ہو جاؤں تو میرے رہنما ہیں اور میرے نور نگاہ ہیں اگر میں ناجنبا ہو جاؤں اور اگر میں ان کے پاس آؤں تو میرے لئے حفاظت گاہ بن جاتے ہیں۔ اور اگر مجھ پر حملہ کیا جائے تو میری ڈھال بن جاتے ہیں۔ اور جب میں کسی دشواری میں پڑوں تو یہ میرے مددگار بن جاتے ہیں۔ اور ہم گھروں، دکانوں اور طعام گاہوں سے لپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں اور نہ ہم کو ان کی طیب ہے اور ہم نے تمام ذخیروں اور مال و متاع کو اہل دنیا کے لئے چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے ہم میں مال متاع کی خواہش نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے سے سرکشی نہیں کرتے، ایک دوسرے سے بغض نہیں رکھتے، نہ فساد کرتے ہیں، نہ حسد رکھتے ہیں، نہ قطع تعلقات کرتے ہیں۔ پس اسے بادشاہ یہ میرے اہل و عیال ہیں۔ میرے بھائی ہیں قریبی رشتہ دار ہیں دوست ہیں میں انہی سے محبت کرتا ہوں اور انہی کی طرف رخ کرتا ہوں اور میں نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا ہے جن کو میں نے اپنی عمر زدہ آنکھوں سے دیکھ کر پہچان لیا تھا اور میں نے ان سے اپنی سلامتی چاہی تھی۔

پس اسے بادشاہ یہ دنیا ایسی ہے کہ جیسا میں نے تم کو بتایا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ اس کا حسب و نسب ہے

اور یہی اس کی گردش ہے جو میں نے سنی تھی اور یہ جان لینے کے بعد میں نے اسے چھوڑ دیا اور میں نے اس امر کو دیکھا کہ جو اصل حقیقت ہے۔ پس اسے بادشاہ اگر تم پسند کرو تو میں آخرت کے متعلق جو مجھے معلوم ہے کہ دراصل وہی حقیقت ہے تمہارے سلسلے بیان کروں تو تم سننے کے لئے تیار ہو جاؤ۔ اور بہت ہی توجہ سے سنو اس طرح نہیں جیسے تم دوسری چیزوں کے بارے میں سنتے ہو۔ پس بادشاہ نے اس پر کوئی زیادتی نہیں کی مگر یہ کہ اس سے کہا کہ تو نے جھوٹ بولا ہے اور تیری کوئی بات درست نہیں اور تو شقاوت و عناد میں کامیاب رہا ہے پس فوراً انہماں سے نکل جاؤ اور میری مسمکت کے کسی حصہ میں قیام نہ کرنا اس لئے کہ تم فساد برپا کرنے والوں میں سے ہو۔

اس زمانے میں بادشاہ کے بیٹا پیدا ہوا جب کہ وہ اولاد نرینہ سے مایوس ہو چکا تھا۔ یہ بچہ حسن و جمال و ضیاء میں ایسا تھا کہ انسانوں نے ایسا مولود نہیں دیکھا تھا۔ بادشاہ بے انتہا خوش ہوا قریب تھا کہ وہ خوشی کی زیادتی سے ہلاک ہو جائے۔ اس کے خیال میں یہ عطا ان بتوں کی تھی جن کی وہ پرستش کرتا تھا۔ پس لوگوں نے جو کچھ اموال ان کے گھروں میں تھے بتوں کے مندروں پر بٹھا کر دیئے۔ لوگوں کو ایک سال تک خوشی منانے کا حکم دیا گیا اس نے اپنے بیٹے کا نام یوزاسف رکھا اور ملک کے تمام علماء اور نجومیوں کو طلب کیا تاکہ وہ بیٹے کا زائچہ تیار کریں۔ تمام نجومیوں نے بڑے خورد نگر کے بعد بتایا کہ یہ ارض ہند میں شرف و منزلت میں اپنے زمانے کے ہر بچے سے بلند تر ہوگا۔ لیکن ایک شخص نے کہا: نہ صرف شرف و منزلت و فضیلت (دنیا) ہم اس کے لئے پاتے ہیں بلکہ شرف آخرت بھی اور میرے حساب سے تو یہ دین اور دینداروں کا نام لینے گا۔ اور درجات آخرت میں فضیلت کا حامل ہوگا کیونکہ میں اس میں وہ شرف دیکھ رہا ہوں جو دنیا کے کسی شرف کے مماثل نہیں بلکہ آخرت کے شرف کے مماثل ہے۔

اس گفتگو سے سچے کے بارے میں بادشاہ کا سرور کا فور ہو گیا۔ کیونکہ مذکورہ بچہ معتدترین بچہ تھا اور بادشاہ کے نزدیک سب سے زیادہ صاحب علم اور سب سے زیادہ راست گو تھا۔ پس بادشاہ نے سچے کے لئے شہر میں ایک مکان خالی کر دیا اور معتد وایادوں اور خادموں کو وہاں مامور کیا۔ اور ان کو حکم دیا کہ سچے کے سامنے موت، آخرت، غم، مرض اور فنا کا تذکرہ نہ کریں یہاں تک کہ ان کی زبانیں اس کی عادی بن گئیں اور ان کے دلوں نے حقیقت کو فراموش کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ جب بچہ بڑا ہو تو اس کے سامنے کوئی ایسی گفتگو نہ کریں جس سے اس کے دل میں کوئی خوف پیدا ہو جو اسے دین اور دین داری کی جانب سے جانے کا سبب بنے۔ اور یہ کہ وہ اس کی حفاظت کریں اور اس سے بچائیں اور ان میں سے ہر ایک۔ ایک دوسرے کو بھول جائے۔

اسی طرح بادشاہ اپنے بیٹے کے (راہ راست اختیار کر لینے کے) خوف کی وجہ سے درویشوں پر شدید غضب ناک تھا۔

اس کا ایک وزیر تھا جو نہ اس کے مال میں خیانت کرتا تھا نہ جھوٹ بولتا تھا اور نہ اس سے کچھ چھپاتا تھا۔ نہ اس پر کوئی اثر ڈالتا تھا اور اس کے اعمال میں اس کا ہسر کوئی نہ تھا اور بادشاہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی وزیر

مذکور لطف و کرم والا۔ بھلائی کا ہاتھ پھیلانے والا اور نیکیوں میں مشہور تھا عوام الناس اس سے محبت کرتے تھے اور وہ ان سے راضی تھا۔ مگر یہ کہ بادشاہ کے احباب و اقربا اس سے حسد کرتے تھے۔ اس پر زیادتی کرتے تھے اور اس کی منزلت کو گراتے تھے۔

ایک روز بادشاہ شکار کے ارادہ سے باہر گیا اس کا وزیر بھی اس کے ہمراہ تھا۔ ایک پہاڑی راستے میں اس نے ایک شخص کو پایا جو بیروں سے زخمی تھا۔ ایک درخت کی جڑ سے لپٹا ہوا تھا اور وہاں سے چلے جانا اس کے لئے ممکن نہ تھا۔ وزیر نے اس سے اس کا حال دریافت کیا تو اس زخمی نے بتایا کہ صحرائی درندوں نے اس کی یہ حالت بنا دی ہے۔ وزیر کو اس کی حالت زار پر بہت رحم آیا۔ اس شخص نے وزیر سے کہا کہ میری مدد کر دو اور مجھے اپنے گھر لے چو تو میں بھی کسی وقت تم کو نفع پہنچاؤں گا۔ وزیر نے کہا اگر تجھ سے کوئی فائدہ نہ بھی پہنچے تب بھی اس عالم مجبوری میں تیری مدد کرنا میرا فرض ہے مگر یہ تو بتا کہ تو مجھے کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ کیا تو کوئی کام کر سکتا ہے یا کسی چیز کو اچھا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں بگڑی بات کو بنا جانتا ہوں۔ وزیر نے کہا کہ تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو؟ اس نے کہا: جیسے ہی اختلاف شروع ہوتا ہے میں جوڑ دیتا ہوں۔ نینچنا فساد پر نہیں ہوتا۔ وزیر نے اس کی بات پر کوئی خاص توجہ نہ دی اور ہمراہ لا کر علاج کر لیا جس سے وہ صحت یاب ہو گیا۔

آخر ایسا ہوا کہ اس بادشاہ کے احباب نے باہر مشورہ کیا کہ اس وزیر پر کوئی الزام لگا کر بادشاہ کی نظروں میں گرائنا چاہئے چنانچہ بادشاہ سے کہا کہ یہ وزیر بادشاہت کی طرح رکھتا ہے کہ آپ کے بعد غلبہ حاصل کر لے اسی لئے یہ رعایا پر اس قدر احسانات کرتا ہے اور اس میں دن رات کوشاں رہتا ہے۔ اگر آپ اس خبر کی صداقت جاننا چاہیں تو آپ اس کو بلا کر مشورہ کریں کہ میں ترک حکومت کر کے درویشی کو اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ پس آپ کو اس کی خوشی کے ذریعے پتہ چل جائے گا اور حقیقت حال آپ پر واضح ہو جائے گی۔ اور قوم جانتی تھی کہ دنیا کے فانی ہونے کے ذکر اور موت کے ذکر سے وزیر کا دل رقیق ہو جاتا تھا اور دین داروں کے لئے اس کے دل میں نرمی تھی اور ان سے محبت کرتا تھا۔ انہوں نے یہ خیال کرتے ہوئے ایسا کیا کہ وہ اپنے مطلب میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا اب جب میری اس سے ملاقات ہوگی تو یہی پوچھوں گا اور کچھ نہیں پوچھوں گا۔ چنانچہ جب وہ وزیر آیا تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم میری دنیا کی حرص اور طلب منک سے واقف ہو اور میں نے تم سے ذکر کیا تھا کہ ماضی میں میرے پاس یہ ماں و دولت نہیں تھی اور میں نے جان لیا ہے کہ جو کچھ باقی رہ گیا وہی ہوگا جو ماضی میں تھا۔ کیوں کہ یہ سب جو میں نے جمع کیا ہے جہتہا ہونے والا ہے اور کیا میں اس حاکم میں واپس نہیں جاؤں گا کہ میرے ہاتھ میں اس میں سے کچھ بھی ہو۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آخرت کے لئے کوئی عمل انجام دوں جو ان کاموں سے بہتر ہو جو میں دنیا کے لئے کیا کرتا تھا۔ اور میں اس طرح شروعات کرتا ہوں کہ حق دینداروں کے ساتھ ہے اور میں اس عمل (حکومت) کو اس کے لئے چھوڑتا ہوں تو تمہاری کیا رائے ہے؟ وزیر بادشاہ کی باتیں

سن کر شدت سے رو دیا، یہاں تک کہ بادشاہ نے جان لیا کہ اس کے دل میں کیا ہے اور عرض کیا بادشاہ سلامت جو چیز باقی رہنے والی ہے اگرچہ مشکل سے حاصل ہو لیکن پھر بھی اس کا حاصل کرنا بہتر ہے۔ اور جو چیز فانی ہو اور وہ آسانی سے حاصل ہو جائے اس کا حاصل کرنا بے کار ہے۔ آپ کی رائے اور خیال ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں کہ خدا آپ کو دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔

وزیر کی یہ بات بادشاہ کو بہت بری لگی اور اسے یقین ہو گیا کہ اس کے بارے میں مجھے جو اطلاعات دی گئیں ہیں وہ بالکل صحیح ہیں۔ اور وزیر کو اس کی فطرتی محسوس ہو گئی پس وہ اپنے گھر والوں کی طرف حسرت و افسوس اور محزون واپس ہوا اور وہ نہیں سمجھتا تھا کہ بادشاہ کے اس طرز عمل سے بچاؤ کا طریق کار کیا ہے۔ پس وہ رات کو بیدار رہ کر سوچ بچار کرتا رہا تو اسے اس شخص کا خیال آیا جس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ بگڑی بات کو بنا سکتا ہے۔ چنانچہ اسے بلایا جب وہ آیا تو اس سے کہا: تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم بگڑی بات بنا سکتے ہو۔ اس شخص نے کہا: ہاں بے شک تو آپ کو اس سلسلہ میں کون سی ضرورت پڑ گئی؟ وزیر نے کہا: ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں اس بادشاہ کی بادشاہت سے جیلے سے اس کا ساتھی رہا ہوں۔ اور جب سے وہ بادشاہ ہوا ہے تو میں واقف نہیں کہ میرے اور اس کے درمیان کبھی ناگوار بات ہوئی ہو۔ وہ جانتا ہے میری نصیحت، میری شفقت اور میرے ایثار کے بارے میں جو میں اپنے نفس اور تمام انسانوں کے لئے کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ آج کے دن جو کچھ پیش آیا میں اس سے قطعاً ناواقف ہوں اور گمان کرتا ہوں کہ اس کی طرف سے اس کے بعد بھلائی سامنے آئے گی۔ اصلاح کرنے والے نے کہا: تمہارے پاس اس کا کوئی سبب یا علت ہے؟ وزیر نے کہا ہاں کل (بادشاہ نے) مجھے بلایا تھا اور ایسا ایسا کہا اور میں نے جواباً ایسا ایسا کہا۔ پس اس شخص نے کہا: میں اختلاف کا سبب سمجھ گیا ہوں اور ان شاء اللہ اسے جوڑنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ جان لو کہ بادشاہ یہ گمان کر رہا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ اسے اس کے ملک سے ہٹا دو اور اس کے بعد اس پر قابض ہو جاؤ۔ تو جب صبح ہو تو اپنا لباس اور زیورات اتار دینا اور وہ کپڑے پہن لینا جو درویش پہنتے ہیں پھر اپنا سر منڈوانا اور اپنا چہرہ بادشاہ کے دروازے پر رگڑنا تو بادشاہ تمہیں بلا کر پوچھے گا کہ تم نے یہ کیا حلیہ بنایا ہے تو اس سے کہنا: یہ وہ چیز ہے جس کی طرف میں نے آپ کو دعوت دی تھی اور کسی کے لئے یہ مناسب نہیں کہ اپنے ساتھی کو کوئی نصیحت کرے ہاں مگر یہ کہ خود بھی دیسا ہی کرے اور اس پر ثابت قدم رہے اور میں نے جو کچھ آپ کو دعوت دی تھی تو میرا ارادہ ہم دونوں کے لئے خیر کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ پس آمادہ ہو جاؤ اس کام کے لئے جس کا تم نے ارادہ کیا ہے۔ پس وزیر نے ایسا ہی کیا تب جا کر بادشاہ کے ذہن سے یہ بات نکل پائی۔

بادشاہ نے دوسرے ہی روز شاہی حکم دیا کہ تمام عابد و زاہد اس کے ملک سے نکل جائیں پس وہ وہاں سے بھاگنے لگے اور خود کو پوشیدہ کرنے لگے۔ ایک دن بادشاہ شکار کے لئے نکلا تو اس کی نظر دور درویشوں پر پڑی۔ اس نے انہیں بلایا جب وہ قریب آئے تو وہ درویش تھے بادشاہ نے ان سے کہا کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم میری مملکت سے نہیں نکلے تو انہوں نے کہا کہ

ہم تو جا رہے تھے لیکن آپ کے فرستادہ ہمیں یہاں لے آئے بادشاہ نے کہا تم پیدل کیوں جا رہے ہو۔ انہوں نے کہا ہم ضعیف ہیں نہ ہمارے پاس جانور ہے نہ زاوراہ اور ہم معمولی رفتار سے زیادہ سفر کرنے پر قادر نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ جو شخص موت سے ڈرتا ہے وہ بغیر کسی جانور اور زاوراہ کے تیزی دکھاتا ہے۔ ان دونوں نے عرض کی کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے بلکہ ہم کسی شے میں خوشی و مسرت نہیں محسوس کرتے۔ بادشاہ نے کہا: تم موت سے کیوں نہیں ڈرتے جب کہ تمہارے خیال میں ہمارے فرستادہ تمہیں لے کر آئے اور تم جا رہے تھے کیا یہ موت سے فرار نہیں تھا۔ تو ان دونوں نے کہا کہ موت سے فرار خوف کا سبب نہیں ہے۔ آپ یہ گمان نہ کریں کہ ہم آپ سے خوفزدہ ہیں لیکن ہم اس لئے بھاگ رہے ہیں تاکہ اپنے نفسوں کے برصلاف آپ کی مدد کریں۔ بادشاہ نے ان کی گفتگو پر خشکی کا اظہار کیا اور ان دونوں کو آگ میں جلانے کا حکم دیا اور حکم دیا کہ جو کوئی جہاں بھی کوئی کسی عابد کو دیکھے تو فوراً آگ میں جلا دے۔ یہ حکم شے ہی بت پرستوں اور ان کے پیٹھاؤں نے ملک کے گوشہ گوشہ میں عابدوں کو نذر آتش کر دیا۔ جب سے ہی سرزمین ہندوستان میں مردوں کو جلانے کی رسم پڑی۔

ملک سے عابد و زاہد ناپید ہو گئے۔ چند عابدوں نے جان پر کھیل کر اپنے آپ کو غنی رکھا اور پوشیدہ رہے تاکہ کسی وقت تلاش حق کرنے والے کو راہ حق دکھا سکیں۔

یوزاسف بادشاہ کا فرزند اب کھمدار ہو گیا تھا۔ وہ بہت عقلمند نوجوان تھا۔ اس کی دانائی اس کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی تھی کہ اس کو چند آدمیوں کے درمیان تنہائی میں کیوں قید کیا ہوا ہے۔ وہ سوچتا تھا کہ اس کا سبب اپنے باپ سے معلوم کروں پھر خیال آتا تھا کہ یہ سب کچھ تو اسی کا کیا ہوا ہے وہ کیوں بتائے گا۔ وہ لوگ جو اس کے پاس آداب شاہی اور امور سلطنت بتانے کے لئے مقرر کئے گئے تھے ان میں سے ایک شخص جو اس کی دانائی اور عقلمندی کی وجہ سے بہت مرعوب تھا اس سے ایک روز یوزاسف نے کہا کہ آپ سے مجھے بہت محبت ہے۔ اور میں آپ کو اپنے باپ کی جگہ سمجھتا ہوں اور بادشاہ کے بعد سلطنت کا وارث میں ہوں اس وقت آپ کا درجہ سلطنت میں یا تو بہت بلند ہوگا یا بہت کم۔

اس شخص نے کہا تم کیوں مجھے خوف دلاتے ہو کہ میرا حال برا ہوگا؟ یوزاسف نے جواب دیا اس لئے کہ تم نے آج تک مجھ سے وہ بات چھپائی جو کل مجھے کسی اور سے پتہ چل جائے گی۔ تو میں تم سے شدید انتقام لوں گا جیسا بھی میرا پس چلے گا۔ یہ بات سن کر وہ شخص بہت ڈرا اور یوزاسف کو تمام راز، نجیوں کی پیشین گوئی، تنہائی سے باہر نہ نکلنے کا سبب سب کچھ شہزادے کو بتا دیا۔ جس پر شہزادہ نے شکر یہ ادا کیا اور اسے چپ رہنے کو کہا یہاں تک کہ ایک روز بادشاہ شہزادے کے پاس آیا تو شہزادے نے عرض کیا کہ ابا جان بے شک میں ابھی بچہ ہی ہوں تو میں نے خود خیال کیا اور اپنے حالات کے اختلاف کو بھی دیکھا تو مجھے جو یاد ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں اور پہچاننے کے باوجود جس کا میں نے ذکر نہیں کیا اسے بھی اچھی طرح جانتا ہوں اور میں یہ بات بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں اس جیسا نہیں ہوں اور نہ آپ اس حال پر

ہیں۔ اور نہ آپ ابد تک اس پر ثابت رہنے والے ہیں اور زمانہ آپ کو اس حالت سے عنقریب متغیر کر دے گا۔ پس اگر آپ چاہتے تھے کہ زوالی (فنا) کے معاملات مجھ سے مخفی رہیں تو وہ مجھ پر مخفی نہیں رہے۔ اور اگر باہر نکلنے سے آپ نے مجھے پابند کر دیا اور میرے اور لوگوں کے درمیان حائل ہو گئے تاکہ مجھ میں اتنی قوت پیدا نہ ہو اس چیز کے بارے میں جس میں نہیں ہوں۔ تو بے شک آپ نے مجھے اپنے حصار سے الگ کر دیا۔ میرے دل میں اضطراب اور تنہی ہے اس چیز سے جو میرے اور زمانہ کے درمیان حائل ہے۔ یہاں تک کہ مجھے کسی شے کا غم نہیں ہے۔

اور میرا اس کے علاوہ اور کچھ ارادہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ میرا دل اس چیز سے مطمئن نہ ہو جائے جس حالت میں میں ہوں۔ اور جس سے میں کوئی نفع نہیں اٹھا رہا اور نہ اس سے مجھے دلچسپی ہے۔ پس آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور مجھے اس بارے میں آگاہ فرمائیے جو آپ کو ناپسند ہے اور جس سے آپ خائف ہیں تاکہ میں اس سے اجتناب برتوں اور آپ کی موافقت اور رضامندی مجھ پر غالب آجائے۔ میری کجی میں اب تک یہ نہیں آیا کہ مجھے اس گوشہ تنہائی میں کیوں رکھا گیا ہے؟ باہر نکلنا میرے لئے کیوں منع ہے؟ کیا یہ میرے کسی جرم کی سزا ہے؟ اگر یہ مقصد ہے کہ میں فنا اور بقاء کے حالات سے بے خبر رہوں تو کب تک؟ ایک روز یہ دنیا خود بھلا دے گی۔ آپ مجھے باہر جانے کی اجازت دیں ورنہ میں یہ سوچ سوچ کر مریاؤں گا۔

پس بادشاہ نے جب اپنے بیٹے سے یہ سنا تو سمجھ گیا کہ اس کو اس بات کا علم ہو گیا ہے جس سے میں نے اسے بچانا چاہا تھا اور اس پابندی لگانے اور قید کر کے رکھنے سے سوائے تجسس اور حقیقت حال جان لینے کی خواہش کے علاوہ اور کسی چیز کا انصاف نہ ہوا۔ پس اس نے کہا: اے میرے بیٹے تمہیں اس پابندی میں رکھنے کا سبب اس کے علاوہ کچھ نہ تھا کہ میں تم کو تکلیف سے بچانا چاہتا تھا۔ پس مت دیکھو سوائے اس کے جو موافق ہو اور درست سنا سوائے اس کے جو تمہیں خوش کر دے۔ پس جب تمہاری خواہش اس کے علاوہ ہو تو یقیناً میں ایشیا کو اپنے نزدیک غالب کر لوں اس چیز پر جس پر تم رضامند ہو اور جس کی تم خواہش رکھتے ہو۔

پھر اس نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ اس کو شان و شوکت کے ساتھ سوار کرائیں اور اس کے راستے سے تمام قبح نظر آنے والی چیزوں کو ہٹا دیں۔

اس (پہلی) سواری کے بعد وہ متعدد بار سوار ہو کر نکلا۔

ایک روز ایسے راستے پر گیا جس سے وہ واقف نہ تھا اس نے دو بھکاریوں کو دیکھا۔ ایک کا جسم متورم، زرد جلد اور چہرہ بے رونق اور کربہ منظر تھا اور دوسرا ناہینا۔ جب اس نے یہ دیکھا تو لرز گیا اور ان سے اس بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا یہ ورم اندرونی بیماری کی بنا پر ہے اور اتنا ایک زمانے سے ایسا ہی ہے۔ شہزادے نے پوچھا: ان کے علاوہ کسی اور کو بھی یہ بیماریاں ہیں؟ کہا گیا: ہاں۔ پوچھا: کوئی ان بیماریوں سے خود کو بچا سکتا ہے؟ جواب دیا گیا: نہیں پس اس روز

شہزادہ غم زدہ، محزون، روتا ہوا اور اس سے خائف و ترساں جو کچھ اس کے اور اس کے باپ کی سلطنت میں تھا واپس ہوا۔ اور اس حال میں کئی دن رہا۔

ایک دن دوران سیر ایک بوڑھا دیکھا سفید بال، کمر خمیدہ، چلنے سے مجبور اس کی رنگت سیاہ ہو چکی تھی، جلد پر شکنیں پڑی ہوئی تھیں۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہا تھا۔ پس شہزادے کو اس کے حال پر تعجب ہوا اور اس نے اس بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا: یہ بوڑھا ہے۔ پوچھا: کتنے عرصے میں انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے؟ کہا: تقریباً ایک سو برس میں۔ پوچھا: بعد میں کیا ہوتا ہے؟ کہا: کہ بعد میں مرجاتا ہے۔ شہزادے نے کہا: کہ آدمی اور اس کی عمر کے بعد کوئی چیز باقی رہتی ہے۔ لوگوں نے کہا: نہیں اور یہ مختصر عرصے میں ہوتا ہے۔ تو شہزادے نے کہا: ہسینہ تیس دن کا ہوتا ہے اور سال بارہ مہینے کا اور عمر کی مدت سو ساٹھ ہے تو مہینے میں سب سے زیادہ تیز گزرنے والا دن کون سا ہے۔ اور سال میں کونسا مہینہ تیزی سے گزرتا ہے ہے اور عمر میں کون سا سال روانی سے گزر جاتا ہے؟ پھر شہزادہ واپس ہوا اور اپنی اس بات کو بار بار دہرا رہا تھا۔ پھر وہ راتوں کو بیدار رہنے لگا۔ اس کا دل زندہ ہو گیا اس میں ذکاوت و عقل پیدا ہو گئی۔ اس میں حسد و نسیان و غفلت باقی نہیں رہی اور اس میں حزن و اہتمام پیدا ہو گیا اور اس کا دل دنیا اور خواہشات دنیا سے پھر گیا۔ بہر حال وہ اپنے باپ کی مہارت کرتا تھا اور اس سے لطف و مہربانی سے پیش آتا تھا۔ اس کے باوجود وہ ہر مستحکم کی ایسی بات سننے کا حریص تھا کہ جس طرز فکر پر وہ ہے اس کے خلاف اسے کوئی دلیل ملے تاکہ وہ اس کی رہنمائی کا سبب ہو۔

شہزادے نے اپنے اس اتالیق کو بلوایا جس نے اسے اس راز سے واقف کرایا تھا اور اس سے پوچھا: تم ایسے لوگوں کو جانتے ہو کہ جن کی حالت ہماری اس حالت سے مختلف ہو۔ اس رفیق نے جواب دیا: ہاں ایک گروہ ہے جنہیں درویش کہا جاتا ہے۔ انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے اور آخرت کی طلب میں ہیں۔ اور ان کا کلام اور علم ایسا ہے کہ میں اس کے متعلق نہیں جانتا سوائے اس کے کہ لوگ ان سے دشمنی کرتے ہیں ان سے بغض رکھتے ہیں اور ان کو جلادیتے ہیں اور بادشاہ نے انہیں اس سرزمین سے نکال دیا ہے۔ پس ان دنوں ہمارے شہروں میں کوئی شخص ان کو نہیں جانتا کیوں کہ وہ پوشیدہ ہو گئے ہیں اور کشفائش کے منتظر ہیں۔ اور یہ اولیاء اللہ کا طریقہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ وہ باطن سلطنتوں میں ایک دوسرے سے پوشیدہ طور پر رہتے ہیں۔ پس یہ بات اس کی دل تنگی کا باعث ہو گئی اور اس کا بندوبست اس شخص کی مانند طویل ہو گیا جو اس گمشدہ سرمایہ کی خواہش کرتا ہے جو اس کے لئے ضروری ہوتا ہے اور زمین کے گوشے گوشے میں اس کے تفکر، جمال، کمال، فہم و عقل، زہد اور وقار کی خیر پھیل گئی۔

پس یہ سراندرپ کے ایک درویش منش بلوہر نامی تک بھی پہنچی۔ جو نہ صرف درویش بلکہ حکیم بھی تھا۔ پس وہ کشتی پر سوار ہو کر بحری راستے سے ارض سولابط آیا اور شہزادے کی بارگاہ کا ارادہ کیا تاکہ اس سے وابستہ ہو جائے اور اس نے درویشی کا لباس اتار کر تاجروں کا لباس پہن لیا۔ پھر اس نے اہل دربار، اہلکار اور وہاں رہنے والوں کے متعلق مکمل واقفیت

حاصل کی۔ چنانچہ اسے شہزادے کے رفیق و رازدوں کے ساتھ شہزادے کے حسن سلوک کے بارے میں بھی آگاہی ہوئی اور یہ کہ شہزادہ اس کا بہت احترام کرتا ہے چنانچہ بلوہر نے اس رفیق کے یہاں آمد و رفت شروع کی حتیٰ کہ وہ اس کی تنہائی میں پہنچا اور اسے کہا کہ میں سراندرپ کا تاجر ہوں چند دن سے یہاں آیا ہوں۔ میرے پاس ایک انمول چیز ہے جو بہت زیادہ مفید ہے چونکہ میں نے تمہیں قابل بھروسہ پایا اس لئے (اس عظیم کام کے لئے) تمہیں منتخب کیا ہے کہ میری دوا سرخ گندھک سے زیادہ قیمتی ہے جو اندھے کو بینا، بہرے کو قوت سماعت دیتی ہے، کمزوریوں کا مداوا کرتی ہے، ضعف کو قوت میں بدلتی ہے، جنون سے محفوظ رکھتی ہے اور دشمن کے مقابلے میں مدد دیتی ہے اور میں اس جوان سے زیادہ اس دوا کا حقدار کسی کو نہیں پاتا میں اگر تم مناسب سمجھو تو اس کا تذکرہ شہزادے سے کرو اگر اس نے ضرورت محسوس کی تو مجھے اس تک لے جانا کیونکہ میری اکسیر کی فضیلت اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہنی چاہیے۔ اتالیق نے حکیم سے کہا کہ جو بات تم کہہ رہے ہو ہم نے اس سے قبل کسی سے نہیں سنی اور میں تمہاری طرف سے اس چیز کا تذکرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا جس کے متعلق وہ نہیں جانتا لیکن پہلے مجھے وہ دوا دکھاؤ تو اگر میں نے اس میں کچھ بھی حقیقت پائی تو میں شہزادے سے اس کا تذکرہ کروں گا بلوہر نے کہا کہ میں مرد طیب ہوں، تمہاری بینائی میں ضعف پاتا ہوں چنانچہ ڈرتا ہوں کہ کہیں میری دوا دیکھنے سے تمہاری (رہی رہی) بینائی سلب نہ ہو جائے۔ لیکن شہزادہ کی بصارت صحیح ہے اور وہ سن میں کم بھی ہے چنانچہ مجھے اس کے لئے ایسا کوئی خوف نہیں ہے اگر اس نے دیکھ لیا تو اس کے لئے مفید ہی ثابت ہوگی۔ یہ سن کر وہ شخص شہزادہ کے پاس گیا اور اس سے بلوہر کا تذکرہ کیا۔ اس کی حق شناسی کی باتیں سن کر شہزادہ اپنی فراست ذاتی سے سمجھ گیا کہ اس سے مفید معلومات حاصل ہوں گی۔

پس اس نے کہا: اس شخص کو آج رات ہی لے آنا مگر یہ سب پوشیدہ رہے اور ظاہر نہ ہو کہ ایسے آدمی کو بے وقعت نہیں کیا جاتا چنانچہ اتالیق نے بلوہر کو اس ملاقات کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ پس اس نے ایک نوکری ہمراہ لی جس میں کتابیں تھیں اتالیق نے پوچھا: یہ نوکری کیسی ہے؟ بلوہر نے کہا: اس نوکری میں میری دوا ہے۔ تو اگر تم چاہتے تو مجھے اس کے پاس لے چلو۔ پس وہ روانہ ہوئے اور شہزادے تک پہنچ گئے۔ بلوہر کے وہاں پہنچنے پر شہزادے نے اسے سلام کیا، دعا دی اور بہترین طریقے سے پزیرائی کی۔ اس کے بعد اتالیق چلا گیا۔ حکیم شہزادے کے پاس بیٹھ گیا اور سب سے پہلے بلوہر نے اس سے سوال کیا: اے شہزادے میں نے محسوس کیا ہے کہ تم نے لپٹے خادموں اور ملک کے اشراف سے زیادہ میری تکریم کی ہے۔ شہزادے نے کہا: یہ اس عظیم امید کی بنا پر ہے جو مجھے تم سے ہے۔ بلوہر نے کہا: تم نے اسی طرح کیا ہے جیسے کسی ملک کے ایک بادشاہ نے کیا تھا جو اپنی نیکیوں کی وجہ سے معروف تھا اور اس سے لوگ امید خیر رکھتے تھے۔ وہ ایک دن سیر کر رہا تھا کہ اسی دوران اس نے لپٹے لاؤ لشکر کے ساتھ دو مفلوک الحال آدمیوں کو دیکھا جن کے لباس پھٹے ہوئے تھے۔ مجبوری اور حاجت مندی کے آثار ان سے ظاہر تھے۔ بادشاہ اترا انہیں سلام کیا اور مصالحتے کیا۔ اس کے وزراء

نے جو یہ دیکھا تو ان کی طبیعت بہت مکدر ہوئی۔ پس وہ اس کے بھائی کے پاس آئے جو اس پر اثر رکھتا تھا۔ اور اس سے کہا: بادشاہ نے خود کو اور اہل مملکت کو رسوا کیا ہے۔ وہ دو ذلیل انسانوں کے لئے زمین پر اترا۔ پس اس کی سرزنش کرو تاکہ وہ آئندہ ایسا نہ کرے۔ اور جو کچھ اس نے کیا اس کی وجہ پوچھو۔ پس بادشاہ کے بھائی نے ایسا ہی کیا تو بادشاہ نے اسے جو جواب دیا اس سے وہ بچھ نہ سکا کہ بادشاہ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے یا اس سے راضی ہے اور وہ اپنے گھر کو واپس چلا آیا یہاں تک کہ کچھ دن بعد بادشاہ نے منادی کو حکم دیا جسے منادی موت کا نام دیا گیا تھا پس اس نے اس (بادشاہ کے بھائی) کو اس کے گھر میں موت کی خبر دی۔ اور یہی بادشاہ کا طریق کار تھا جس کے لئے بھی وہ قتل کا ارادہ کرتا تھا۔ پس بادشاہ کے بھائی کے گھر میں نوحہ اور پکار شروع ہو گئی۔ وہ لباس موت پہن کر بادشاہ کے دروازہ پر پہنچا اور شدت سے گریہ کیا اور اپنے بال نوچنے لگا۔

جب بادشاہ کو اس کا علم ہوا تو اس نے اسے طلب کیا۔ بادشاہ کی اجازت پا کر وہ داخل ہوا تو خود کو زمین پر گرا دیا اور رو رو کر خود کو ہلاک کرنے لگا اور اظہارِ ذلت کے ساتھ ہاتھ جوڑنے لگا۔ بادشاہ نے اس سے کہا: اے بے وقوف قریب آ تو رو رہا ہے کہ منادی نے خالق کا نہیں بلکہ مخلوق کا حکم تجھ تک پہنچایا تھا اور میں تیرا بھائی ہوں اور تو جانتا ہے کہ تو نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ میں تجھے قتل کروں لیکن زمین میں جو کچھ میں نے کیا ہے اس پر تم مجھے ملامت کرتے ہو۔ اور میں اپنے رب کے منادی کو دیکھ رہا ہوں اور تم سے زیادہ اپنے گناہوں سے واقف ہوں۔ پس واپس جاؤ کہ میں مجھ چکا ہوں کہ میرے وزیروں نے تجھے دھوکہ دیا تھا اور وہ بھی جلد اپنی خطا کو جان لیں گے۔

اس کے بعد بادشاہ نے لکڑی کے چار صندوق بنوائے۔ وہ صندوقوں پر تار کول لگا دیا اور اندر سونا، یاقوت اور زبرجد بھر دیئے۔ باقی دو پر سونے کا مائع کیا اور اندر نفلہ، خون اور مردار پیڑیں بھریں۔ پھر ان ذرا اور اشراف کو جمع کیا جنہوں نے بادشاہ پر دو ضعیف درویشوں پر احسان کرنے کا عیب لگایا تھا۔ اور سوال کیا۔ ان صندوقوں میں کون سے صندوق زیادہ قیمتی ہیں؟ ان ذرا نے کہا ظاہری طور پر جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جو ہمارا علم ہمیں بتاتا ہے کہ جو صندوق سونے کے ہیں وہ زیادہ قیمتی ہیں اور جو تار کول کے ہیں وہ اپنی بے قدری کی بنا پر بے قیمت ہیں۔ بادشاہ نے کہا: ہاں تو یہ ہے اشیاء کے بارے میں تمہارے علم اور تمہاری رایوں کی حقیقت۔ پھر اس نے تار کول والے صندوقوں کو کھلنے کا حکم دیا پس دربار جو اہرات کی چمک دمک سے روشن ہو گیا۔ پھر اس نے کہا: ان (صندوقوں) کی مثال ان دو آدمیوں جیسی ہے جن کے لباس اور ظاہر بوسیدہ تھے۔ حالانکہ وہ علم و حکمت و صدق و احسان اور تمام مناقب خیر سے آراستہ تھے جو یاقوت، لعل، جو اہر اور سونے سے کہیں زیادہ افضل ہیں۔ پھر اس نے سونے کے صندوق کھلنے کا حکم دیا۔ پس انہوں نے اپنے کپڑے سمیٹ لئے اور کربہ منظر دیکھ کر قوم کا پینٹہ لگی اور انہیں اس کی شلاکت اور بدبو سے شدید اذیت ہوئی۔ پس بادشاہ نے کہا: ان دونوں (صندوقوں) کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو بظاہر کپڑوں اور لباس سے مزین ہوتے ہیں لیکن ان کے پیٹ جہالت،

اندھے پن، جھوٹ، ختم اور تمام اقسام کے شر سے بھرے ہوئے ہیں جو مردہ لاشوں سے زیادہ قبیح، بدتر اور قابل نفرت ہیں۔ اس پر قوم نے بادشاہ سے کہا: اے بادشاہ ہم تجھ گئے اور نصیحت حاصل کی۔

پھر بلوہرنے کہا: اے شہزادے مجھ سے ملاقات کرنے اور میرا اکرام کرنے میں تمہاری مثال بھی ایسی ہی ہے میں شہزادہ یوزاسف کھڑا ہو گیا اور کہا: کوئی اور سبق آموز واقعہ سنائیں۔ حکیم نے کہا: ہر دو حقان زمین میں بیچ ڈالتا ہے۔ کچھ دانے کھیت کے کنارے گر پڑتے ہیں کچھ ہتھریر گر جاتے ہیں جو بالآخر خشک ہو جاتے ہیں۔ کچھ خاردار میں گرتے ہیں جن کو تھالیاں بڑھنے نہیں دیتیں۔ کچھ پاک و صاف زمین میں گرتے ہیں جو کارآمد بنتے ہیں۔ اے شہزادے سوائے اس پاک و صاف زمین کے دوسرے سب بیچ بیکار جاتے ہیں۔ اسی طرح نیک باتیں صرف پاک و صاف دل میں نشوونما پاتی ہیں۔ شہزادے نے کہا: اے حکیم آپ کی باتوں سے مجھے جو سکون ملا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کوئی ایسی مثال دیں جس سے دنیا کی محبت کو فریب کہا جائے۔

بلوہرنے کہا: سنا ہے کہ ایک مست ہاتھی نے ایک شخص کا بچھا کیا۔ وہ ڈر کے مارے بھاگا۔ ہاتھی بچھے بچھے بھاگا راستہ میں ایک کنواں تھا جس کے کنارے پر ایک درخت تھا اس کی شاخ کو پکڑ کر لٹک گیا۔ دیکھا کہ درخت کی جڑ میں چار سانپ ہیں اور سب سے نیچے ایک اڑدھا منہ کھولے بیٹھا ہے۔ اور دیکھا تو سفید و سیاہ چوہے درخت کی شاخ کو کاٹ رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ درخت کی شاخوں میں شہد لگا ہوا ہے۔ یہ شخص شہد چاٹنے میں مشغول ہو گیا اور آنے والے خطرات سے بے خبر ہو گیا۔ اے شہزادے دنیا ایک ایسا کنواں ہے جو آفات و مصائب اور شر سے پر ہے یہ دو شاخیں عمر ہیں دو چوہوں سے مراد رات اور دن ہیں جو موت کے لانے میں جلدی کرتے ہیں۔ اور وہ چار سانپ چار غلطیوں جو زہر قاتل ہیں یعنی سودا، صنم، بلغم اور خون ہیں کہ ان کا مالک نہیں جانتا کہ کب یہ زہان میں آئیں گے۔ اور نیچے منہ کھولے ہوئے اڑدھا موت ہے جو اس کے انتظار میں ہے۔ شہد سے مراد دھوکا ہے کہ مغرور آدمی دنیا کی لذتوں، شہرتوں، نعمتوں، جائیدادوں، کمانے پینے کی لذتوں اور سونگھنے، چھونے، سننے اور دیکھنے کی احساسات سے دھوکا کھاتا ہے۔ شہزادے نے کہا: یہ مثل عجیب ہے اور یقیناً یہ تشبیہ درست ہے۔ پس مجھے دنیا، صاحب دنیا اور اس کے اوپر مغرور اور اس پر عاشق اور اس سے نفع حاصل کرنے والے کے بارے میں مزید بتائیں۔

بلوہرنے کہا: کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کے تین دوست تھے۔ ایک دوست سے وہ بے حد محبت کرتا تھا کہ انتہائی خوفناک اور ڈراؤنی چیزوں پر اس کے سبب غالب رہتا تھا اور اسی سبب سے مغرور ہو گیا تھا۔ رات دن اسی کی حاجت براری میں لگا رہتا ہے۔ دوسرے دوست سے بھی محبت کرتا مگر قدرے کم۔ وہ اس کا حکم مانتا تھا۔ اس سے لطف و اکرام سے پیش آتا تھا۔ اس کی خدمت اور اطاعت کرتا تھا۔ اس سے انعامات و اکرامات سے پیش آتا تھا اور اس سے غافل نہیں رہتا تھا۔ لیکن تیسرا دوست ہنفاکار، حقیر اور طبیعت پر گراں تھا۔ اس سے اس کو محبت نہیں تھی۔ وہ غریب بھی تھا۔

یہاں تک کہ اس شخص پر ایک ایسا وقت پڑا کہ اسے تینوں دوستوں کی ضرورت پڑی۔ اس کے پاس بادشاہ کے سپاہی آئے کہ اسے بادشاہ تک لے جائیں۔ پس وہ چھٹے دوست کے پاس گیا اور اس سے کہا: تم اپنے بارے میں میرے ایثار سے واقف ہو۔ اور یہ کہ میں نے خود کو تمہارے اختیار میں دے دیا تھا۔ اور آج کا دن وہ ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے تو تمہارے پاس میرے لئے کیا ہے؟ اس نے کہا: میں اب تمہارا دوست نہیں ہوں۔ میرے دوست اب اور ہیں جن کے ساتھ میں تمہارے بعد مشغول ہوں۔ وہ آج کے دن میرے لئے تم سے بہتر ہیں تاہم میں تمہیں وہ کپڑے دے سکتا ہوں جو تمہارے کام آئیں گے۔

پھر وہ دوسرے صاحب لطف و محبت دوست کے پاس پہنچا۔ اور اس سے کہا: تم اپنے بارے میں میرے اکرام و لطف سے واقف ہو اور یہ کہ میں تمہاری خوشی کا کیسا حریص تھا۔ تو آج کے دن مجھے تمہاری ضرورت ہے تو تمہارے پاس میرے لئے کیا ہے؟ اس نے کہا: میرے نفس نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم سے اور تمہارے کام سے غافل ہو جاؤں۔ پس تم لپٹنے اور پی بھروسہ کرو۔ اور جان لو کہ میرے اور تمہارے درمیان قطع تعلق ہو چکا کیونکہ میرے اور تمہارے رشتے جدا ہیں۔ میں تمہارے ساتھ چند قدم چل سکتا ہوں جن سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر میں اس کام کی طرف چلا جاؤں گا جو میرے لئے تم سے زیادہ اہم ہے۔

وہ مایوس ہو کر تیسرے کے پاس گیا جسے وہ ذلیل سمجھتا تھا، اس کی بات نہیں مانتا تھا اور اس کی دراندگی کے زمانے میں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا پس اس سے کہا کہ میں تم سے شرمندہ ہوں لیکن ضرورت مجھ کو تمہارے پاس لے آئی ہے تو تم میرے ساتھ کیا کر سکتے ہو؟ اس نے کہا: میرے پاس تمہارے لئے برابری اور بھائی چارہ ہے اور تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ گو تمہاری طرف سے کچھ غفلت ہوئی تھی۔ تو تمہیں بشارت ہو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ میں تمہارا ایسا ساتھ دوں گا جو تمہارے لئے نہ نقصان کا باعث ہوگا اور نہ کسی اور کے حوالے کرے گا۔ پس میں تمہیں شرمندہ نہیں کروں گا اس تمہارے عمل پر جو تم نے میرے ساتھ کیا۔ بلوہرنے کہا: یہ پہلا دوست مال تھا۔ دوسرا دوست اولاد تھی۔ تیسرا دوست عمل صالح تھا۔

شہزادہ یہ سن کر کہنے لگا بے شک یہ کھلا ہوا حق ہے پس اس دنیا اس کے غرور اور اس پر مغرور ہو جانے والے اور اس پر مطمئن ہو جانے والے کے بارے میں مجھے کچھ اور بتائیں۔ بلوہرنے کہا: ایک شہر کے رہنے والے جب ان کے پاس کوئی غریب جاہل آدمی آتا ایک سال کے لئے اپنا بادشاہ بنالیتے اور وہ اپنی جہالت کی بنا پر اس غلط فہمی میں رہتا تھا کہ یہ ہمیشہ ان پر حکومت کرتا رہے گا۔ لیکن جب سال ختم ہوتا تھا تو وہ لوگ اسے لپٹنے شہر سے نکالی ہاتھ اور عریاں کر کے نکال دیتے تھے۔ پس وہ بلا و بد بختی میں گرفتار ہو جاتا تھا اور کسی سے اسے بیان بھی نہ کر پاتا۔ وہ شخص جو کچھ اس پر اس کی حکومت میں گزری اور جیسا وہ ذلیل ہوا اور نقصان اٹھایا اور مصیبت و اذیت میں مبتلا رہا، اس بنا پر ٹوٹ کر رہ جاتا تھا۔ اسی طرح

انہوں نے ایک بار ایک شخص کو پکڑ کر اپنا بادشاہ بنالیا۔ اس شخص نے اپنی عزیزب الوطنی پر نظر کی اور یہ کہ وہاں اس کا کوئی مونس نہ تھا تو اس نے ان لوگوں کے رواج سے باخبر ہو کر اپنے علاقے سے ایک آدمی کو طلب کیا جب وہ آگیا تو اسے اس قوم کے حالات سے آگاہ کیا اور جو مال و دولت اس وقت اسکے تصرف میں تھا اس کی طرف توجہ دلائی کہ اس میں سے جتنا ہو سکے تھوڑا تھوڑا کر کے لٹو اور اس مقام پر جمع کر دو جہاں تجھے جانا ہے۔ پس جب قوم تجھے نکال دے گی تو میں اس جمع پونجی کا رخ کروں گا جو میں نے پہلے ہی بھیج رکھی ہوگی اور جمع کر رکھی ہوگی۔

پس اس آدمی نے ایسا ہی کیا اور اس کے حکم کی قطعاً خلاف ورزی نہیں کی۔

بلوہرنے کہا۔ شہزادے میں سمجھتا ہوں کہ تم وہ شخص ہو جو عزباء (اجتہیوں اور پردیسوں) سے انس نہیں رکھتے اور نہ غلبہ و اقتدار پر مغرور ہو اور میں وہ شخص ہوں جسے تم نے طلب کیا ہے اور میرے پاس تمہارے لئے دلیل، معرفت اور مفید شے ہے۔ شہزادے نے کہا: اے حکیم آپ نے سچ کہا میں ہی وہ شخص ہوں اور آپ ہی میری وہ خواہش ہیں جسے میں نے چاہا تھا۔ اب میرے لئے امر آخرت کی مکمل توصیف فرمائیں لیکن دنیا میری عمر کی قسم میں نے تصدیق کی اور میں نے اس دنیا سے وہ کچھ دیکھا ہے جو اس کی فنا پر میری رہنمائی کرتا ہے اور مجھ کو اس کے بارے میں بے رضی کی طرف متوجہ کرتا ہے اور امر دنیا میرے لئے ہمیشہ حقیر و ذلیل رہا ہے۔

بلوہرنے کہا: اے شہزادے! بلاشبہ ترک دنیا آخرت کی خواہش کی کنجی ہے اور جس نے آخرت طلب کی وہ اس کے دروازے تک پہنچ گیا اور اس کے حدود میں داخل ہو گیا اور تم اس دنیا کو کیوں نہ ترک کرو گے کہ اللہ نے تمہیں عقل عطا کی ہے اور تم نے دیکھا کہ اگرچہ اہل دنیا کی کثرت ہے لیکن وہ انہیں فانی جسموں میں نظر آئیں گے اور جسموں کے لئے بقا نہیں ہے۔ یہ اجسام ان کے لئے ضروری بھی ہیں جنہیں اس کی گرمی پگھلا دیتی ہے اور سردی جما دیتی ہے اس کی بادِ سموم نیزے مارتی ہے۔ اس کا پانی غرق کر دیتا ہے۔ اس کا سورج مھلسا دیتا ہے۔ اس کی ہوا بیمار ڈال دیتی ہے اور درندے بھاڑ کھاتے ہیں۔ اور پرندے ٹھونگیں مارتے ہیں۔ لہذا اس کو کاٹ دیتا ہے۔ درد مر اسے توڑ کر رکھ دیتا ہے۔

پس وہ طہشت کے اعتبار سے مختلف قسم کی بیماریوں، دردوں اور امراض کا سمون مرکب ہے اور وہ اسی میں گرفتار ہے۔ اور اس میں وہ تکلیف محسوس کرتا ہے اور اس (دنیا) سے بچنے میں دلچسپی بھی نہیں لیتا۔ جہاں وہ ایسی سات آفتوں میں مبتلا ہوتا ہے جن سے گلو خلاصی ممکن نہیں اور وہ ہیں بھوک، پیاس، گرمی، سردی، درد، خوف اور موت۔ لیکن تم نے جو آخرت کے بارے میں پوچھا ہے تو میں تمنا کرتا ہوں کہ تم جسے دور سمجھتے ہو اسے قرباب پاؤ اور جسے تم دشوار سمجھتے ہو اسے آسان پاؤ۔ اور جسے تم کثیر پاؤ۔

شہزادے نے کہا: اے حکیم آپ نے اس قوم کو دیکھا جسے میرے والد نے آگ میں جلا دیا اور اہم اصحاب کو ان سے دور کر دیا۔ بلوہرنے کہا: ہاں۔ شہزادے نے کہا: مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ لوگ ان کی عداوت پر اکٹھا ہو گئے تھے اور ان

کے نقائص بیان کرتے تھے۔ بلوہر نے کہا: ہاں ایسا ہی تھا۔ شہزادے نے پوچھا: اس کا کیا سبب تھا؟ بلوہر نے کہا: لیکن ان کے نقائص کے لئے جہارا قول، تو قریب تھا کہ وہ کہتے جو کچھ کہتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، اور جانتا ہے جاہل نہیں ہے، اور روکتا ہے اور اذیت نہیں دیتا، نماز پڑھتا ہے اور سوتا نہیں، روزہ رکھتا ہے اور افطار نہیں کرتا، اور بلا میں گرفتار ہو کر صبر کرتا ہے، جب فکر کرتا ہے تو نصیحت حاصل کرتا ہے، مالداروں کے مال کی اسے کوئی پرواہ نہیں اور لوگ لپٹے اموال اور اہلیان کے بارے میں اس سے کوئی خوف نہیں رکھتے۔ شہزادے نے کہا: لوگ ان کی عداوت پر کیسے اکٹھا ہو گئے جب کہ آپس میں ان میں اختلاف تھا؟

بلوہر نے کہا: اس کی مثال ان کتوں کی طرح ہے جو مردار سڑی ہوئی لاش پر جمع ہو جاتے ہیں اسے دانتوں سے نوچتے ہیں اور ایک دوسرے پر بھونکتے جاتے ہیں۔ وہ مختلف رنگ اور جنس کے ہوتے ہیں۔ پس یہ فوراً اس مردار پر دوڑ پڑتے ہیں کہ اس دوران وہاں ایک انسان آجاتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو چھوڑ کر اس انسان پر لپکتے ہیں اور سب اس پر بھونکنے لگتے ہیں کیونکہ وہ اس سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں حالانکہ اس انسان کو ان کی سڑی ہوئی لاش کی کوئی طلب نہیں ہوتی۔ اور نہ وہ ان سے اس بارے میں جھگڑنا چاہتا ہے۔ لیکن اس کے اجنبی ہونے کی بنا پر انہیں وحشت ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو بھول جاتے ہیں گو وہ اس انسان کے آنے سے پہلے ایک دوسرے سے خوفزدہ ہوتے ہیں (کہ دوسرا اس مردار میں سے زیادہ سے زیادہ کھا جائے گا)۔

بلوہر نے کہا: سڑی ہوئی مردار لاش کی مثال متاع دنیا جیسی ہے اور کتوں کی اقسام کی مثال ان آدمیوں جیسی ہے جو دنیا کے لئے قتل و غارتگری کرتے ہیں، انسانوں کا خون بہاتے ہیں اور ان کے اموال کو لوٹتے ہیں۔ اور اس شخص کی مثال جو ان کتوں کی طرف آیا جو مردار کو کھا رہے تھے اور اسے خود اس مردار کی کوئی خواہش نہیں تھی اس دین دار شخص جیسی ہے جس نے دنیا کو چھوڑ دیا اور اس میں سے نکل گیا۔ پس وہ اس بارے میں اہل دنیا سے جھگڑا نہیں کرتا اور وہ ان لوگوں کو اس بات سے نہیں روکتا کہ وہ ان سے اجنبی ہونے کی وجہ سے اس سے دشمنی کریں۔

پس اگر تم تعجب کرتے ہو تو انسانوں پر تعجب کرو کہ ان کا مقصد و ارادہ صرف دنیا، اس کی کثرت مال و اولاد، اس کا فخر اور ان کا اس پر غلبہ حاصل کر لینے کی ہمت ہے۔ سہاں تک کہ جب دیکھتے ہیں کہ کسی نے ان کے سامنے دنیا کو چھوڑ دیا اور اس سے علیحدہ ہو گیا تو وہ اس پر سخت غصہناک ہوتے ہیں اس شخص کے مقابلے میں جو دنیا کو پکڑے ہوئے ہے تو اسے شہزادے وہ کون سی دلیل ہے جو دو مختلف چیزوں کے ملاپ سے اس شخص پر جس کے لئے کوئی حجت نہ (مطلق) ہو تم دلائل کو باطل کر سکتے ہو؟ شہزادے نے کہا: میرے لئے اس کی وضاحت کریں۔

بلوہر نے کہا: بلاشبہ ایک مہربان طیب جب ایسے جسم کو دیکھتا ہے جسے فاسد اخلاط نے ہلاکت میں مبتلا کر دیا ہو تو وہ چاہتا ہے کہ اسے قوی اور موٹا کر دے پس اسے ایسا کھانا نہیں کھلانے گا جو گوشت اور خون پر مشتمل ہو اور مقوی ہو کیونکہ وہ

جانتا ہے کہ جب یہ کھانا فاسد اخلاط میں داخل ہوگا تو جسم کو نقصان پہنچائے گا، فائدہ نہیں پہنچائے گا اور قوی نہیں کرے گا بلکہ دوا اور کھانے سے پرہیز سے اس کا علاج کرتا ہے۔ پس جب جسم سے فاسد اخلاط نکال دے گا تو صالح خوراک اسے دے گا پس اب اسے کھانے کی خواہش ہونے لگے گی چنانچہ مریض اند کی مشیت سے موٹا بھی ہوگا، قوی بھی اور وزن بھی بڑھائے گا۔

شہزادے نے کہا: اے حکیم مجھے بتائیے کہ کھانے پینے سے کیا حاصل ہوتا ہے۔

حکیم نے کہا: لوگوں میں مشہور ہے کہ بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ایک بڑے ملک پر حکومت کرتا تھا کثیر لاؤ لشکر اور اموال رکھتا تھا اس نے ایک اور بادشاہ سے جنگ چھیڑ دی تاکہ اپنا ملک اس کے ملک سے اور اپنا مال اس کے مال سے بڑھالے۔ پس اپنے لشکروں اور سامان جنگ، عورتوں، اولاد اور خزانے لیکر اس کی طرف چلا۔ جب اس سے مقابلہ ہوا تو اس پر غائب آگیا اور اس نے اس کے لشکر کو فنا کر دیا پس وہ بادشاہ بھاگا۔ اس کی عورتوں اور بچوں کو حقارت سے ہٹکایا گیا۔ شام کے وقت وہ ایک نہر کے کنارے پر پہنچے۔ انہوں نے اپنے جانوروں کو (منہ باندھ کر) پابند کر دیا تھا کہ کہیں ان کے پہنچنے سے دشمن ان کا سراغ نہ پائیں۔ پس انہوں نے نہر کے کنارے پر رات گزاری اور وہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز ہر طرف سے سن رہے تھے۔ نہ انہیں کھلے میدان تک پہنچنے کا موقع تھا اور نہ نہر کو عبور کرنے کی طاقت اور حالت ایسی تھی کہ دشمن کے پڑاؤ کی وجہ سے وہاں سے نکلنا ممکن نہ تھا وہ ایک تنگ مقام میں تھے جہاں سردی انہیں ستا رہی تھی اور وہ خوفزدہ تھے۔ بھوک نے انہیں کمزور کر دیا۔ ان کے پاس کھانا تھا۔ ان کے ساتھ زاد راہ تھا اور نہ ماں و اسباب تھا۔ بادشاہ کے چھوٹے چھوٹے بچے، سونے، نیلے اور اس، اہلکار، سے رو رہے تھے جس میں وہ گرفتار تھے۔ پس اس طرح دو دن گزر گئے پھر اس کا ایک بیٹا مر گیا تو اسے نہر میں ڈال دیا گیا۔ دوسرا دن آیا تو اس نے بیوی سے کہا: ہم سب کے سب عنقریب ہلاک ہونے والے ہیں۔ اگر کچھ لوگ ہم میں سے باقی رہیں اور کچھ ہلاک ہو جائیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم سب کے سب ایک ساتھ مرجائیں۔ اور میری رائے یہ ہے کہ ان بچوں میں سے ایک بچے کو ذبح کر دیا جائے تاکہ وہ ہمارے اور ہماری اولاد کے لئے خوراک کا باعث بنے یہاں تک کہ اللہ ہمارے لئے کشائش کا انتقام کر دے۔ اگر ہم نے اس میں تاخیر کی تو روز بروز کمزور اور لاغر ہوتے جائیں گے۔ پھر ہم ان کے گوشت سے شکم سیر بھی نہیں ہو سکیں گے تاہیں کہ ہم بھی کمزور ہو جائیں گے اور ہٹے ہٹے کا قابض نہیں رہیں گے۔ اس کے علاوہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔

اس کی بیوی نے بھی اس امر سے اتفاق کیا۔ پس بیٹوں میں سے ایک کو ذبح کر دیا گیا اور سب کے درمیان رکھ دیا تو انہوں نے اس میں سے کھایا تو اے شہزادے اس مصطر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بتاؤ کہ زیادہ کھانے والے کتنے اور ایک مجبور اور مصطر شخص کے قلیل کھانے میں کیا فرق ہے؟

شہزادے نے کہا: قلیل کھانے والا بہتر ہے۔

عکیم نے کہا: اے شہزادے میرا دنیا میں اسی طرح کھانا پینا ہے کہ میں مجبوراً کھاتی رہا ہوں۔

شہزادے نے کہا: اے عکیم جس کی طرف آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں کیا وہ ایسی چیز ہے جو لوگوں کی نظر میں ان کی عقود اور ہوش مندیوں کے مطابق ہے یہاں تک کہ انہوں نے دنیا کو چھوڑ کر اسے پسند کیا۔ یا اللہ نے اس کی طرف ان کو بلایا تب انہوں نے اس کو قبول کیا۔ اس امر سے بلند اور نطف کی بات یہ ہے کہ زمین والوں سے یا ان کی رائے سے اس کی تدبیر کی گئی ہے اور مگر یہ امراہل زمین کی طرف سے ہے تو انہوں نے اس کے کام، اس کی نہایت، اس کی حفاظت اور اس کے تحفوں، اس کی نعمتوں، اس کی لذتوں، اس کے ہلو و لعب اور اس کی خواہشوں کی طرف دعوت دی ہے لیکن یہ امر عزیز ہے اور یہ اللہ عزوجل کی طرف سے روشن دعوت ہے اور سیدھا راستہ ہے جو اہل دنیا کے اعمال کے برخلاف ہے اور ان کا مخالف ہے۔ ان پر عیب لگانے والا ہے، طعن و تشنیع کرنے والا ہے، ان کی خواہشوں کو بدلنے والا ہے اور انہیں اپنے پروردگار کی اطاعت کی طرف دعوت دینے والا ہے اور یہ واضح ہے اس شخص کے لئے جو تینہیہ حاصل کرے اور جو نالائق افراد ہیں یہ امر ان سے چھپا ہوا ہے جہاں تک کہ اللہ حق کو اس کی پوشیدگی کے بعد ظاہر کرے گا اور بلند کلمہ اور ان لوگوں کا کلمہ بنائے گا جس سے کہنے لوگ لاعلم ہیں۔

شہزادے نے کہا: آپ نے سچ کہا! اے عکیم۔

پھر عکیم نے کہا: انسانوں میں ایسے ہوتے ہیں جو رسولانِ علیہم السلام کے آنے سے پہلے تفکر کرتے ہیں پس وہ درست راہ پر ہوتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں رسولِ آنے کے بعد بلاتے ہیں تو وہ بلیک کہتے ہیں اور تم اے شہزادے وہ ہو کہ جس نے اپنی عقل سے تفکر کیا پس تم بھی راہِ راست پر ہو۔

شہزادہ نے کہا: کیا آپ جانتے ہیں انسانوں میں سے کوئی ایک آپ کے علاوہ بھی ایسا ہے جو ترک دنیا کی دعوت دیتا ہو؟ عکیم نے کہا: اس ملک میں تو نہیں ہے لیکن تمام امتوں میں ایسی قوم ہوتی ہے جو دین کو اپنی زبانوں سے اختیار کرتے ہیں اور اپنے اعمال سے اس کا حق ادا نہیں کرتے تو ہمارا راستہ اور ان کا راستہ مختلف ہے۔

شہزادے نے کہا: کیسے؟ تم حق کے ساتھ خود کو ان سے بہتر سمجھتے ہو؟ اور ہماشہ یہ امر عزیز تم تک بھی وہیں سے آیا جہاں سے ان تک آیا۔ عکیم نے کہا: تمام حق اللہ عزوجل کی طرف سے ہی آیا ہے اور بے شک (اللہ) حبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی طرف بلایا۔ تو قوم نے اسے حق اور شرائط کے ساتھ مان لیا۔ یہاں تک کہ اس کے اہل کی طرف لوٹا یا جیسا کہ حکم دیا گیا تھا۔ نہ انہوں نے ظلم کیا نہ خفا کی اور نہ اسے فصیح کیا اور دوسروں نے اس طرح قبول کیا کہ نہ اس کے حق اور شرائط کے لئے قیام کیا اور نہ اس کے اہل کی طرف لوٹا یا اور نہ اس میں ارادہ کی منتہی دکھائی اور نہ ان کا عمل چھپا ہوا راز تھا۔ چنانچہ انہوں نے اسے فصیح کیا اور اسے بوجھ سمجھا پس فصیح کرنے والا محفوظ کرنے والے کی طرح نہیں ہوتا، نہ معتسر مسلح کی طرح ہوتا ہے، نہ ساہر ہے بے سبرے کی طرح ہوتا ہے۔ پس ہم ان کے مقابلے میں حق سے زیادہ قریب

اور ان سے بہتر ہیں۔ اور بعض امتیں اپنے نبی کے بعد کچھ عرصہ زمانے کے گزرنے کے بعد اس پر شہری رہیں کہ ان میں کوئی تغیر و تبدیل نہیں ہو۔ پھر اس کے بعد لوگ مختلف حوادث میں ہتلا ہو گئے اور خواہشات نفسانی کی اتباع کرنے لگے اور علم کو فاسخ کرتے رہے۔ تو جو شخص عالم محبر ہوتا تھا وہ اپنی شخصیت کو مخفی رکھتا تھا اور اپنے علم کو ظاہر نہیں کرتا تھا لوگ اس کو نام سے پہچانتے تھے لیکن اس کے مقام تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اور ان میں سے وہی لوگ باقی رہ گئے جو اہل علم میں بے خسیس و لئیم تھے اور جاہل اور باطل لوگوں کے اوپر چھائے ہوئے تھے۔ علم کو گنہگار کر رہے تھے اور جہل کا برہلا اظہار کر رہے تھے اور صدیاں گزر رہیں تھیں لیکن وہ اپنے جہل اور باطل کو پہچان نہیں رہے تھے اور جاہلوں کا غلبہ ہو رہا تھا اور کثرت بڑھتی جا رہی تھی۔ اور علماء گوشہ گنہگاری اور قلیل تعداد میں تھے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو جہدیں کر دیا تھا۔ اور اس کے راستے کے ارادے کو ترک کر دیا تھا۔ اور وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی تزیل کے اقرار کرنے والے تھے اور اپنی تاویل کا اتباع کرنے والے تھے وہ اس صفت سے متعلق تھے اور اس کی حقیقت کے ترک کرنے والے تھے اور اس کے احکام کے مخالف تھے پس ہر صفت کے رسول آئے کہ جو اس کی طرف دعوت دیتے تھے۔ پس ہم اس صفت میں ان کے موافق تھے اور ان انبیاء کے احکام اور ان کی سیرت کے مخالف تھے اور ہم کسی چیز کے بارے میں ان کی مخالفت نہیں کرتے تھے جب تک کہ ان پر کوئی واضح حجت اور عدل پر مبنی کوئی دلیل نہ ہوگی۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتابوں کی موجودگی میں ہمارے سامنے ہوتی ہیں ہر ایک ان (انبیاء) میں سے کچھ حکمت کے متعلق گفتگو کرتا تھا تو وہ ہمارے لئے اور ہمارے اور ان کے درمیان اس پر گواہ بناتا تھا کہ ہماری صفت اور صورت اور حکم ان کے موافق ہے اور اس پر بھی گواہی دیتا تھا کہ وہ ان کی سنت اور ان کے اعمال کا مخالف ہے پس وہ کتاب کو سوانے اس کی تعریف کے نہ جانتے تھے اور نہ دین کے نام سے وہ واقف تھے۔ وہ حقیقتاً اہل کتاب میں سے نہیں تھے کہ اس پر قیام کر سکیں۔

شہزادے نے کہا کہ وہ انبیاء و رسل علیہم السلام جو ایک زمانے کے بعد دوسرے زمانے تک آئے ان کا حال کیا ہے؟ حکیم نے کہا کہ اس کی مثال اس بادشاہ کی طرح ہے کہ جس کی زمینیں بجز ہوں اور جس میں آبادی نہ ہو۔ پس جب اس نے چاہا کہ اس کی آبادی کے لئے متوجہ ہو تو اس ملک کی طرف قومی، امین اور ناصح شخص کو بھیجا۔ پھر اس کو حکم دیا کہ اس زمین کو آباد کرے اور یہ کہ مختلف اقسام کے درخت اور طرح طرح کے کھیتوں کو سیراب کرے پھر اس کا نام ملک رکھا جو رنگ برنگ ذراعتوں سے پر ہو گیا اور طرح طرح کے کھیتوں سے مشہور و معروف ہو گیا اور پھر اس قومی، امین اور ناصح شخص کو حکم دیا کہ وہ اس نام زد ملک کے ساتھ دشمنی نہیں کرے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کرے جس کا حکم اس کے سردار نے نہ دیا ہو۔ اور اس کو حکم دیا کہ اس میں ایک نہر نکالے اور ایک چار دیواری کھینچ دے اور اس کی روک تھام کر کے کوئی مفسر اس کو تباہ و برباد کرے تو وہ رسول جس کو اس زمین کی طرف بھیجا تھا اس نے اس کو اس کے بجز ہونے کے باوجود اس سر نو حیات بخشی اور اس کی وراثی کو آبادی میں تبدیل کیا اور اسے سینچا اور ان اقسام کی کاشت کی کہ جس کا اس

کو حکم دیا گیا تھا۔ پھر اس زمین کی طرف پانی پہنچایا۔ تاکہ کھیتی اگے اور زراعت پھولے پھلے۔ پھر وہ کچھ عرصہ رہا۔ یہاں تک کہ اس زمین کو بنانے ستار نے والے کو موت آگئی۔ اور اس کے بعد اس کے قائم مقام آگئے۔ اور اس کے بعد میں آنے والے اس کے قیام کے خلاف گئے اور اس امر پر انہوں نے غلبہ حاصل کر لیا۔ آبادی کو ویران کر دیا، نہروں کو خشک کر دیا، ساری تری خشکی میں تبدیل ہو گئی اور کھیتی برباد ہو گئی۔ جب اس کے رسول کے بعد اس کی مخالفت پر زمین تباہ ہو گئی تو بادشاہ نے اس کی طرف ایک دوسرا نگر اس بھیجا جو اس کی دیکھ بھال کرے اور اس کی کایا پلٹ دے نیز اصلاح بھی کر سکے جیسا کہ وہ پہلے تھی۔ اسی طریقہ سے انبیاء اور رسول علیہم السلام ہیں کہ جنہیں اللہ عزوجل ایک کے بعد دوسرے کو بھیجتا ہے اور وہ لوگوں کے معاملات کو ان کی تباہی کے بعد اصلاح کرتے ہیں۔

شہزادے نے کہا: کیا انبیاء و رسول علیہم السلام مخصوص کر دیئے جاتے ہیں کہ وہ جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ عام افراد کے لئے ہوتا ہے؟ جوہر نے کہا: بیشک انبیاء و رسول جب آتے ہیں تو عوام کو دعوت دیتے ہیں تو جو لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان میں شامل ہو جاتے ہیں اور جو ان کی نافرمانی کرتے ہیں ان کا شمار ان میں نہیں ہوتا اور زمین کبھی اس بات سے خالی نہیں ہوتی کہ اللہ عزوجل کا اس کے انبیاء، رسولوں اور اس کے وصیوں میں سے کوئی اطاعت کردہ شخص نہ ہو اور اس کی مثال اس پرندہ کی طرح ہے جس کو قدم (ایک قسم کا پرندہ) کہا جاتا ہے اور وہ سمندر کے کنارے پر ہوتا ہے اور بہت زیادہ انڈے دیتا ہے اور بچوں کی کثرت کا خواہشمند ہوتا ہے۔ اور ایک وقت اس پر ایسا آتا ہے کہ وہ اس سے معذور ہو جاتا ہے کیونکہ کسی دوسری سرزمین کی طرف اس کے لئے کوچ کا وقت آ جاتا ہے۔ تو وہ اس خوف سے اپنے انڈوں کو کہ وہ اس کی شفقت کی محرومی کی وجہ سے غراب نہ ہو جائیں۔ مختلف پرندوں کے گھونسلوں میں رکھ دیتا ہے تو پرندے اپنے انڈوں کے ساتھ اس کے انڈے کو بھی سینے ہیں۔ اور ان کے بچوں کے ساتھ اس کا بچہ بھی لٹل آتا ہے۔ اور جب کچھ مدت گزر جاتی ہے تو قدم کے چوزے پرندوں کے چوزوں کے ساتھ باہمی الفت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان سے مانوس ہو جاتے ہیں پس جب قدم اپنی جگہ واپس آتا ہے تو وہ پرندوں کے گھونسلوں میں رات کے وقت پہنچتا ہے تو اپنے چوزوں اور دوسروں کے چوزوں کی آوازوں کو سنتا ہے پس جب اس کا چوزہ اس کی آواز کو سنتا ہے تو بولنے لگتا ہے اور دوسرے پرندوں کے چوزے بھی جو اس کے ساتھ الفت رکھتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ بولنے لگتے ہیں۔ گویا ضروری نہیں ہے کہ قدم کے بچے اپنے محبوب ساتھیوں کی وجہ سے اس کے بنادے کا جواب دیں۔ اسی طرح انبیاء ہیں کہ وہ لوگوں کو (دین کی طرف) دعوت دیتے ہیں تو اہل حکمت و عقل بغض حکمت ان کی معرفت کی وجہ سے ان کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ اس پرندے کی مثال جس نے اپنی آواز بند کی ان انبیاء و رسولوں کی طرح ہے جن کی دعوت تمام لوگوں کے لئے عام ہے اور مختلف پرندوں کے گھونسلوں میں رکھے ہوئے انڈوں کی مثال حکمت کی مثال ہے اور تمام پرندوں کے چوزوں کی قدم کے چوزے کے ساتھ مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے رسولوں کے آنے سے پہلے حکماء کی باتوں کو قبول کیا۔ اس لئے کہ اللہ

عزوجل نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو وہ فضل اور (صلاحیت) رائے بخشی ہے جو دوسرے لوگوں کو نہیں دی۔ اور ان کو وہ جہیں، نور اور ضیاء عطا کئے ہیں جو ان کے غیر کو نہیں دیئے۔ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب وہ رسالت کا ابلاغ اور اس کی جتوں کے نزول کا ارادہ کرتا ہے اور جب رسول آتے ہیں اور ان کی دعوت غالب ہوتی ہے تو لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ ان کو قبول کرتے ہیں۔ جنہوں نے حکما، کو قبول نہیں کیا اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت میں روشن اور واضح دلیل کو رکھا ہے۔

شہزادے نے کہا: آپ کہتے ہیں کہ جو کچھ رسول اور انبیاء لاتے ہیں وہ انسانوں کا کلام نہیں ہوتا اور اللہ عزوجل کا کلام ہی دراصل کلام ہے اور اس کے فرشتوں کا کلام بھی کلام ہے۔ حکیم نے کہا: کیا تم نے لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جب وہ بعض چوپاؤں اور پرندوں کے متعلق چاہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی پہلے رہے کوئی بعد میں، کوئی آگے رہے کوئی پیچھے رہے تو وہ چوپاؤں اور پرندوں کے لئے جو گوکہ ان کے کلام کو سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں اپنے منہ سے سنی کی آواز یا جیج کی آواز نکالتے ہیں اور چوپائے اور پرندے اس طرح کی آوازوں پر ان کی خواہش کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ان کی بات کو سمجھنے کے اہل نہیں ہیں۔ اسی طرح بندے ہیں کہ وہ اللہ عزوجل اور ملائکہ کے کلام کو اس کی حقیقت، کمال، لطف اور صفت کو ساتھ جاننے سے عاجز ہیں تو عوام الناس ان آوازوں کی طرف جو حکمت کے ذریعے چوپاؤں اور پرندوں کے مشابہ وضع کی گئی ہیں رجوع کرتے ہیں یہ آواز اس حکمت کی جگہ ہے کہ جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ آوازیں عوام الناس کے درمیان واضح، قوی، روشن، شرف والی اور عظمت والی ہیں اور حکمت ان معانی کے مختلف موقعوں پر واقع ہونے سے ان کو نہیں روکتی اور اس ابلاغ سے بھی نہیں روکتی کہ جس کے ذریعے اللہ عزوجل نے اپنے بندوں پر بھت قائم کی ہے۔ آواز حکمت کے لئے جسم اور مسکن کی طرح ہے اور حکمت آواز کے لئے نفس و روح کی حیثیت رکھتی ہے اور لوگوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ حکمت کے کلام کی گہرائی پر تفوؤ حاصل کر سکیں۔ اور نہ وہ اپنی عقلوں کے ذریعے اس کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے علماء نے اپنے علم میں فضیلت حاصل کی ہے۔ پس ہمیشہ ایک عالم دوسرے عالم سے علم حاصل کرتا ہے۔ یہاں تک کہ علم کا مرجع اللہ عزوجل کی وہ ذات ہے جس کی طرف سے وہ علم آیا ہے۔ اسی طرح علماء ہیں جو حکمت اور علم سے وہ کچھ پاتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ تہل سے نجات پاتے ہیں۔ لیکن ہر صاحب فضل کے لئے اس کا فضل کافی ہوتا ہے جس طرح سے لوگ سورج کی روشنی سے وہ نفع حاصل کرتے ہیں جو ان کی ضروریات زندگی اور جسموں کے لئے ضروری ہوتا ہے۔ لیکن وہ اس بات پر قادر نہیں ہیں کہ وہ سورج کو اپنی نگاہوں سے دیکھ سکیں جو کہ فطری آئینہ کی طرح ہے جو ہر اس کا مقام اجراء ہے لیکن اس کا عنصر پوشیدہ ہے تو لوگ اس تری سے جو ظاہر ہوتا ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کے تہہ تک نہیں پہنچتے۔ اور اس آنکھ کی مثال ان روشن ستاروں کی طرح ہے کہ جن سے لوگ براہ راست پاتے ہیں انہیں وہ ان کے اصل مقام سے واقف نہیں ہوتے۔

پس میں نے جو کچھ بیان کیا حکمت ان سب سے اشرف، ارفع اور عظیم ہے۔ وہ تمام نیکیوں کے بند دروازے کی چابی ہے۔ اور ہر برائی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ وہ آب حیات ہے جس نے اسے پی یا وہ کبھی نہیں مرے گا اور بیماری سے شفا ہے کہ جس نے اس کے ذریعے شفا صلب کی وہ کبھی بیمار نہیں پڑے گا۔ اور سیدھا راستہ ہے کہ جس نے اسے اختیار کیا وہ کبھی نہیں بھٹکتے گا۔ وہ اس انداز میں مضبوط رہی ہے کہ جو بخشش (دعوت) کی تکرار سے تھکتا نہیں۔ جس نے اس سے تمسک کیا اسے اندھے پن سے بچاتی ہے اور جس نے اسے پکڑ لیا وہ کامیاب ہو اور بد قسمت ہو گیا اور اس نے مضبوط رہی تو بچ لیا (یعنی دین پر مضبوطی سے قائم ہو گیا)۔ شہزادے نے کہا آپ نے فضل و شرف، بسند اور قوت، منفعت اور کمال و برہان سے جس حکمت کی تعریف کی ہے اگر وہ تمام انسانوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی تو اس کا کیا فائدہ؟ باہر نے کہا حکمت کی مثال آفتاب کی سی ہے جو گورے، کالے، چمڑے اور بڑے پر اپنی روشنی ڈالتا ہے۔ تو جو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اسے روکتا نہیں اور نہ وہ قریب اور بعید کے درمیان حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص چاہے کہ آفتاب سے فائدہ حاصل نہ کرے تو اس میں آفتاب کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور نہ سورج تمام لوگوں کو اس سے روکتا ہے اور نہ لوگوں اور ان کے فائدے کے درمیان حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح حکمت کا حال ہے کہ وہ قیمت تک لوگوں کے درمیان رہے گی۔ حکمت تمام لوگوں میں عام ہے مگر یہ کہ لوگ اس میں ایک دوسرے سے فضیلت رکھتے ہیں اور سورج جب دیکھنے والی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے تو وہ تین قسم کے لوگوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو ان میں سے جو صحیح نظر والا ہے اس کو روشنی فائدہ پہنچاتی ہے اور نظر کو قوی بناتی ہے اور ان میں سے کچھ اندھے ہیں جو اس بے بصارتی کے حامل ہوتے ہیں کہ اگر ان پر ایک سورج یا بہت سے سورج طلوع ہو جائیں تو انہیں ذرا بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور کچھ کمزور بصارت والے ہوتے ہیں کہ جن کا شمار نہ اندھوں میں ہوتا ہے نہ نگاہ والوں میں۔ اسی طرح حکمت ہے جو دلوں کا سورج ہے جب وہ ضلوع ہوتا ہے تو وہ بھی تین منزلوں میں بٹ جاتا ہے۔ پہلی منزل ان مساجد بصیرت کی ہے جو حکمت کو سمجھتے ہیں اور ان کا شمار اپنی حکمت میں ہوتا ہے۔ اور وہ اس پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں۔ اور دوسری منزل ان اندھوں کی ہے جن کے دل ان کے انکار حکمت کی وجہ سے سست ہو جاتے ہیں۔ اور حکمت قبول کرنے کو ترک کر دیتے ہیں جس طرح کہ اندھوں سے سورج کی روشنی غائب ہوتی ہے۔ اور تیسری منزل ان مریضان قلوب کی ہے جن کا علم بہت کم ہوتا ہے جن کا عمل ضعیف ہوتا ہے اور ان کے نزدیک برائی اور اچھائی اور حق و باطل برابر ہوتے ہیں۔ اور بے شک سورج جن لوگوں پر زیادہ ضلوع ہوتا ہے وہ وہی حکمت ہے کہ جس سے لوگ اندھے ہوتے ہیں۔

شہزادے نے کہا کیا کوئی آدمی حکمت قبول نہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے یہاں تک کہ وہ کچھ عرصہ اس کا منکر رہے پھر اسے قبول کرے اور اس کی طرف بازگشت کرے۔ باہر نے کہا: ہاں حکمت کے بارے میں لوگوں کے زیادہ

تر حالات یہی ہیں۔

شہزادے نے کہا: کیا ان باتوں کو میرے والد نے کبھی سنا۔ بلوہر نے کہا: نہیں میں نے ان کو صحیح طریقہ سے سنتے ہوئے نہیں پایا جو ان کے دل میں اتر جاتا اور نہ کسی شفیق تابع نے ان سے اس بارے میں کلام کیا۔

شہزادے نے کہا: ان حکما نے عمر ہونے کے باوجود کس طرح اسے ترک کیا (کہ معمر شخص بے خوف ہو جاتا ہے)۔

بلوہر نے کہا: انہوں نے موقع محل کی مناسبت کی وجہ سے اسے ترک کر دیا بلکہ اس کو اس شے کے لئے چھوڑ دیا جو تمہارے باپ کے لئے بطور انصاف کے زیادہ اچھی اور بحیثیت نفس کے زیادہ نرم اور بحیثیت شنوائی کے زیادہ بہتر تھی یہاں تک کہ ہو آدمی کسی آدمی کے ساتھ عمر طویل کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے اور ان کے درمیان موانست و مودت اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے اور ان کے درمیان کوئی شے سوائے دین و حکمت کے تفریق پیدا نہیں کرتی اور وہ اس کے اوپر جزع و فزع کرتا ہے اور اس کے لئے دردناک ہوتا ہے پھر بھی اس پر حکمت کے اثرات واضح نہیں ہوتے اس لئے کہ اس نے ان کے لئے کوئی موقع نہیں دیکھا اور ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ ایک عقلمند بادشاہ جو لوگوں سے قریب تھا ان کے امور کی اصلاح کرنے والا تھا، حسن نظر کا مالک اور انصاف کرنے والا تھا اس کا ایک وزیر بھی بڑا نیک اور سچا تھا جو اصلاح کے سلسلے میں اس کا مددگار تھا اور جو اس کی نصرت کرتا اور اس کے امور میں مشورے دیتا تھا۔ یہ وزیر مہذب اور عاقل تھا، دین دار، پرہیزگار اور دنیا سے بے رغبت تھا، اہل دین سے ملاقات کرتا تھا، ان کی باتوں کو سنتا تھا، ان کی فضیلت کو پہچانتا تھا، ان کو مانتا تھا اور ان سے بھائی چارگی اور محبت کا تعلق رکھتا تھا اور بادشاہ کے حضور اس کو مرحبہ اور خصوصیت حاصل تھی۔ بادشاہ اس سے کسی امر کو چھپاتا نہیں تھا اور وزیر بھی اسی منزلت پر فائز تھا لیکن دینی امور کے متعلق بادشاہ کو مطلع نہیں کرتا تھا اور نہ حکمت کے رازوں کو اس پر آشکارا کرتا تھا دونوں نے اسی طرح ایک طویل عرصہ گزارا اور وزیر جب کبھی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو بتوں کو سجدہ کرتا اور ان کی تعظیم کرتا اور بہت کچھ بطور جہالت اور نسلالت اور تقیہ کے طور پر کرتا تھا گو وزیر پر یہ سب شاق گزرتا تھا آخر اس نے اپنے احباب اور بھائیوں سے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے کہا کہ تم خود اپنی طرف اور اپنے ساتھیوں کی طرف نظر ڈالو اور کوئی گفتگو کا موقع دیکھ کر بادشاہ سے گفتگو کرو اور اس تک حق بات پہنچاؤ ورنہ تم اس کی اپنی ذات کے خلاف مدد کر رہے ہو اور اپنے اہل دین کے خلاف اس کو دجھان میں پتلا کر رہے ہو۔ کیونکہ بادشاہ کو اس طرح دھوکا نہیں دینا چاہیے اور نہ اس کی شان و شوکت سے بے خوف رہنا چاہیے۔ تو وزیر اس اہتمام کے لئے کمر بستہ رہا اور اس امید میں بادشاہ کا رفیق بنا رہا کہ فرصت ملی تو اسے نصیحت کرے گا یا گفتگو کے لئے کوئی موقع ملا تو یہ بات اس تک پہنچائے گا۔

بادشاہ باوجود اپنی گمراہی کے بہت متواضع اور نرم دل تھا۔ اپنی رعیت کے بارے میں اس کا طریقہ کار اچھا تھا۔

وہ ان کی اصلاح کا حریص تھا اور ان کے امور میں گہرائی تک پہنچنے والا تھا۔ پس کچھ عرصے کے بعد وزیر کو بادشاہ کی معیت حاصل ہوئی بادشاہ نے ایک رات جب کہ لوگ نیند میں مشغول تھے وزیر سے کہا: کیا تم میرے ساتھ سیر کرنے کے لئے شہر نل سکتے ہو تاکہ ہم لوگوں کے حالات اور ان مصائب کے آثار کو دیکھ سکیں جن میں وہ مبتلا ہیں۔ وزیر نے حامی بھری اور دونوں شہر کے گرد و نواح میں گھومنے کے لئے نکلے۔ ان دونوں کا گزر راستے میں ایک کوڑھ گھر (مزید) پر ہوا تو ایک پہاڑی کے مشابہ تھا۔ بادشاہ نے اس کوڑھ گھر کے گرد آگ کی روشنی دیکھی تو وزیر سے کہا: اس واقعے کو دیکھنے کے لئے اترو تاکہ ہم پیدل اس کے قریب پہنچیں اور معلوم کریں کہ کیا بات ہے۔ پس ان دونوں نے ایسا کیا۔ جب وہ روشنی کے مخرج تک پہنچے تو انہیں غار کے مشابہ ایک گڑھا نظر آیا جس میں ایک مسکین تھا۔ پھر انہوں نے غار کو اچھی طرح دیکھا تو انہیں کوئی اور مرد نظر آیا۔ اور وہ مسکین اجہاتی بدہیئت تھا۔ اس کے بدن پر کوڑا گھر کے پھسے ہوئے کپڑوں کا لباس تھا وہ کوڑے کا سایہ کئے ہوئے تھے۔ اس کے سامنے ایک بڑی چھاگل رکھی ہوئی تھی جس میں شراب تھی اور اس کے ہاتھ میں طنبورہ تھا جسے وہ بجا رہا تھا اور اس کی عورت بھی پھسے ہوئے لباس میں اس کے سامنے تھی جو اس کو شراب پلا رہی تھی اور وہ جب اس کو ہارتا تھا تو وہ رقص کرتی تھی۔ وہ عورت اسے شراب پلا کر بادشاہوں کی سی تعظیم دیتی تھی۔ وہ مرد اس عورت کو سیدۃ النساء کے نام سے پکارتا تھا۔ اور وہ دونوں اپنے آپ کو حسین و جمیل سمجھ رہے اور ان کے ماہین خوشی، مسرت اور ایسا طرب تھا جسے بیان نہیں کیا جاسکتا۔ بادشاہ اپنے دونوں پیروں پر مضبوطی سے کھڑا ہوا تھا اور وزیر بھی اس منظر کو دیکھ رہا تھا اور یہ دونوں ان دونوں کی لذت اور پسندیدگی جو ان کے ماہین تھی کو تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ پھر بادشاہ اور وزیر واپس ہوئے۔ بادشاہ کہنے لگا۔ تمہیں اور مجھے کیسا محسوس ہوا جو زمانے نے اس رات لذت، سرور اور خوشی ہمیں عطا کی ہے۔ میرا ان دونوں کے مستغرق خیال ہے کہ وہ ہر رات اسی طرح عمل کرتے ہیں۔ پس وزیر نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور کچھ دیر بعد بادشاہ سے کہا: اے بادشاہ مجھے ڈر ہے کہ ہماری دینا بھی اسی قسم کے دھوکے کی نئی ہو اور آپ کا ملک اور وہ چیز جس میں ہم خوشی اور مسرت محسوس کر رہے ہیں جو ہماری نگاہوں میں ہے۔ کون جانتا ہے کہ یہ ہمیشگی کی سلطنت بھی اس کوڑا گھر کی طرح ہو اور ان دونوں افراد کی طرح ہو جنہیں ہم نے دیکھا ہے۔ کون اسے سمجھ سکتا ہے اس شخص کی طرح جو سعادت اور آخرت کے ثواب کی امید رکھتا ہے اس گھر کی طرح کہ جسے ہم نے دیکھا ہے۔ اور ہمارے جسم جو طہارت اور تازگی اور حسن و صحت کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں اس بدہیئت آدمی کے جسم کی طرح ہوں اور ہماری حیرانی سے لوگوں کو تعجب ہو جس طرح ہم ان دونوں افراد کو اس حالت میں دیکھ کر متعجب ہوئے۔

بادشاہ نے کہا: کیا تم اس صفت کا کسی کو اہل پاتے ہو؟ وزیر نے کہا: جی ہاں۔ بادشاہ نے کہا: وہ کون لوگ ہیں؟ وزیر نے کہا: وہ اہل دین ہیں جنہوں نے آخرت کے ملک اور اس کی نعمتوں کو پہچانا پھر ان کو طلب بھی کیا۔ بادشاہ

نے کہا: آخرت کا ملک کیا ہے؟ وزیر نے کہا: وہ ایسی نعمت ہے جس کے بعد ہلاکت نہیں ہے۔ اور ایسی تو گمری ہے جس کے بعد کوئی فقیری نہیں۔ اور ایسی خوشی ہے جس سے بڑھ کر کوئی راحت نہیں اور ایسی صحت ہے جس کے بعد کوئی بیماری نہیں۔ اور ایسی رضا مندی ہے جس کے بعد کوئی ناراضگی نہیں اور ایسا امن ہے کہ جس کے بعد کوئی خوف نہیں اور ایسی حیات ہے جس کے بعد موت نہیں اور ایسی سلطنت ہے جس کے بعد زوال نہیں۔ وہ ایسا ہمیشہ رہنے والا گھر ہے اور ایسا زندگی والا گھر ہے جس سے کبھی جدائی نہیں ہوگی اور جس میں کبھی جدیٹی نہیں ہوگی۔ اللہ عزوجل نے دارِ آخرت کے ساکنوں کے لئے نہ بڑھاپا رکھا، نہ بیماری، نہ مشقت، نہ ٹھن، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ موت۔ یہ ملک آخرت کی تعریف ہے اور اسے بادشاہ بھی اس کی مصنوعات ہیں۔

بادشاہ نے کہا: کیا اس گھر کی خواہش کی جاسکتی ہے اور کیا اس میں داخل ہونے کی کوئی سہیل ہے؟ وزیر نے کہا: ہاں یہ دارِ آخرت اپنے ظاہ کو میرا جاتا ہے اور جو اس کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا: آج سے چلے تمہیں مجھے یہ بات بتانے سے کس نے روکا تھا؟ وزیر نے کہا: مجھے اس بات سے آپ کے جاہ و جلال اور ہیبتِ سلطانی نے روکا تھا۔ بادشاہ نے کہا: جیسا کہ تم نے بیان کیا ہے اگر یقینی طور پر یہ بات ہے تو ہمارے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اس کو فراموش کر دیں اور ہمیں اس تک پہنچنے کے لئے جدوجہد ترک نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس دارِ آخرت کی خبر ہمارے لئے صحیح اور درست ہو جائے۔ وزیر نے کہا: اے بادشاہ کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں آپ سے اس کا ذکر بار بار کرتا رہوں؟ بادشاہ نے کہا: بلکہ میں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ اس کا تذکرہ رات دن مجھ سے کرو۔ اور کسی وقت اس تذکرے کو روکو نہیں۔ کیونکہ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ جسے آسان نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اس جیسے کام سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ اور یہی بادشاہ اور وزیر کی نجات کی راہ تھی۔

شہزادے نے کہا: میں ان امور سے اور اس راستے سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ بلکہ میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی ہے کہ میں تمہارے ساتھ رات کو اسی مقام پر جاؤں جہاں سے تمہیں یہ بات معلوم ہوئی۔ بلوہرنے کہا: آپ میرے ساتھ کس طرح جاسکتے ہیں اور میری ہم نشینی پر کس طرح صبر کر سکتے ہیں جبکہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو میری حفاظت کرے اور نہ میرے پاس سواری کے لئے جانور ہے، نہ میں سونے چاندی کا مالک ہوں، نہ میرے پاس رات کے کھانے کے لئے غذا ہے، نہ میرے پاس کپڑے ہیں اور نہ میں مستقل طور پر کسی شہر میں ٹھہرتا ہوں۔ یہاں تک کہ اس سے روگردانی اختیار کرتا ہوں۔ اور نہ میرے پاس ایک سرزمین سے دوسری سرزمین تک پہنچنے کے لئے کوئی مستقل زادراہ ہوتا ہے۔ شہزادے نے کہا: مجھے بھی وہی چیز قوی کرے گی جس نے تمہیں قوی کیا ہے۔ بلوہرنے کہا: لیکن یہ کہ اگر تم میری ہم نشینی کا خیال چھوڑ دو تو تم زیادہ صاحبِ خلق ہو گے اور اس غمی کی طرح ہو گے جو کسی فقیر کا

قراہت دار ہو۔

یوڈاسف نے کہا: یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ بلوہرنے کہا: یوں سمجھو کہ ایک جوان مالداروں کی اولاد میں سے تھا اس کا باپ اس کے چچا کی بیٹی سے اس کی شادی کرنا چاہتا تھا جو صاحب مال و جمال تھی۔ لیکن وہ جوان اس بات پر مستفق نہیں تھا۔ اس نے اپنی ناپسندیدگی سے اپنے باپ کو مطلع بھی نہیں کیا بلکہ کسی دوسری جگہ چلا گیا۔ راستے میں ایک لونڈی سے ملاقات ہوئی جس کے بوسیدہ کپڑے تھے اور جو مفلوک الحال لوگوں کے گھر کے دروازے پر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی اسے پسند آگئی۔ تو اس نے اس لڑکی سے کہا: تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس گھر میں رہنے والے ایک بوڑھے آدمی کی بیٹی ہوں۔ اس جوان نے اس بوڑھے شخص کو آواز دی اور اس تک پہنچا۔ پھر اس نے کہا: کیا تم اپنی اس بیٹی کی مجھ سے شادی کر دو گے؟ اس بوڑھے نے کہا: تم فقیروں کی بیٹیوں سے شادی کرنے والے نہیں ہو کیونکہ تم مالداروں میں سے ایک جوان ہو۔ تو وہ کہنے لگا مجھے یہ لڑکی اچھی لگی ہے اور میں صاحب حساب اور مالدار عورت سے بھاگ کر آیا ہوں۔ جس کی شادی مجھ سے ہو رہی تھی اور میں نے اسے ناپسند کیا۔ لہذا تم اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ کیونکہ تم مجھ سے ان شاء اللہ خیر ہی پاؤ گے۔

اس بوڑھے نے کہا: میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کس طرح کر دوں جبکہ تم اس کو ہم سے جدا کر دو گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی گمان رکھتا ہوں کہ تمہارے گھر والے اس کے تمہارے ساتھ رہنے پر راضی نہیں ہوں گے۔ وہ جوان کہنے لگا: ہم اسی گھر میں آپ کے ساتھ رہیں گے۔ بوڑھے نے کہا: جو تم کہہ رہے ہو اگر سچ ہے تو تم اپنا یہ لباس اور زیورات اتار دو۔ بلوہرنے کہا: اس جوان نے ایسا ہی کیا۔ ان کے اٹائے میں سے ایک پرانا لباس لیا، اسے پہن لیا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس بوڑھے نے اس کے حالات دریافت کئے اور اس سے گفتگو کرنے کے لئے کہا تاکہ اس کی عقل کا اندازہ کر سکے۔ پس اس نے جان لیا کہ وہ صحیح العقل ہے اور اس کی اس حرکت کو بیوقوفی پر محمول نہیں جاسکتا۔ چنانچہ بوڑھے نے کہا: اب جب کہ تم نے ہمیں پسند کر لیا ہے اور ہمارے ساتھ رہنے پر راضی ہو تو تم اس گھر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس مکان کے پیچھے بہت سے مکانات تھے۔ وسعت و حسن کے اعتبار سے جن کا کوئی شیل و نظیر نہیں تھا اور ان میں وہ تمام خزانے موجود تھے جن کی کسی کو احتیاج ہو سکتی ہے۔ پھر اس بوڑھے نے ان کی کھنیاں اس کے حوالے کیں اور کہا: ہاں جو کچھ ہے وہ تمہارا ہے اور اس سے جو تم چاہو کرو۔ کیونکہ تم ایک بہترین جوان ہو۔ اس طرح وہ جوان جو کچھ چاہتا تھا اس کو مل گیا۔

یوڈاسف نے کہا: جس طرح بوڑھے نے اس لڑکے کی عقل کا امتحان لیا تاکہ اس پر اعتماد کر سکے میں بھی اسی جیسا ہونا چاہتا ہوں پس تم میری عقل کے بزحانے میں کوشش کرو اور اس بارے میں جو کچھ تمہیں معلوم ہے اس سے مجھے آگاہ کرو۔

حکیم نے کہا اگر یہ کام میرے سپرد کرنا چاہتے ہو۔ تو میں معمولی گفتگو سے اس مسئلے کو حل کر سکتا ہوں لیکن میرے ذہن میں ایک اور طریقہ ہے جو اتہانتک پہنچنے میں توفیق کے لئے ائمہ ہدئی کا طریقہ ہے اور ایک علم ہے جو سینوں میں محفوظ ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر تم نے اس طریقہ کی مخالفت کی تو میں کہیں کسی بدعت کے شروع کرنے کا سبب نہ بن جاؤں اور میں تم سے آج رات رخصت ہو رہا ہوں اور پھر ہر رات آؤں گا۔ لہذا تم خود اس بارے میں غور و فکر کرو اور اس سے نصیحت حاصل کرو۔ اور اپنے فہم و فراست سے کام لو اور ثابت قدم رہو۔ اور تم پر جو تکلیف وارد ہو اس کی تصدیق میں جلدی نہ کرو (کہ وہ حقیقی غم ہے) تا ایں کہ اس کی ادائیگی اور قربت کے بعد تمہیں اس کی حقیقت کا علم ہو جائے اور تم پر لازم ہے کہ اس بارے میں تم اس بات سے بچو کہ تمہیں ہوا و ہوس اور شبہ اور گم گشتگی راہ کی طرف رغبت ہو۔ اور ان مسائل میں چھان بین کرو کہ جن میں تمہیں شبہ محسوس ہو پھر اس بارے میں مجھ سے استفسار کرو اور اپنی غور و فکر کے نتیجے سے مجھے آگاہ کرو۔ اس بات پر اس رات وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔

پھر حکیم جب دوبارہ آیا تو اسے سلام کیا دعا دی اور بیٹھ گیا۔ اس نے دعا میں کہا: میں اس اللہ سے سوال کرتا ہوں جو اولیٰ ہے اور جس سے پہلے کچھ نہ تھا اور وہ ایسا آخر ہے کہ جس کے ساتھ کوئی شے باقی نہیں رہے گی اور ایسا باقی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے وہ ایسا واحد و یگانہ اور بے نیاز ہے کہ کوئی اس کے ساتھ نہیں اور ایسا قاہر ہے کہ کوئی اس کا شریک نہیں اور ایسا پیدا کرنے والا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ خالق نہیں وہ ایسا قادر ہے کہ کوئی اس کی ضد نہیں وہ ایسا صمد ہے کہ جس کا کوئی مثل نہیں وہ ایسا مالک ہے کہ تم کو ملک عادل بنا دیتا ہے جب کہ کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ وہ تقویٰ کی طرف لے جانے والا ہے اور اندھے پن سے بصارت دینے والا ہے۔ دنیا سے زہد و بے رغبتی عطا کرنے والا ہے اور صاحبان عقل کو دوست رکھنے والا ہے اور ہلاکت والوں سے بغض رکھنے والا ہے۔ وہ ہمیں اور تمہیں پورا فیض پہنچاتا ہے اور اس چیز کی طرف پہنچاتا ہے جس کا اس اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے لئے اپنا انبیاء کی زبانوں کے ذریعے اپنی جنت اور اپنی رضا کا وعدہ کیا۔ پس ہماری اللہ کی طرف رغبت نور بخشنے والی ہے اور اس سے ہمارا خوف باطنی ہے اور جس سے ہماری نگاہیں خوف و خضوع و خشوع محسوس کرتی ہیں اور ہماری گردنیں اس کے آگے جھکی ہوئی ہیں اور ہمارے تمام امور اس ہی کی طرف بازگشت کرتے ہیں۔

شہزادے پر اس دعا سے شدید رقت طاری ہوئی اور حصول خیر کی رغبت میں اضافہ ہوا اور اس کا تعجب اس قول سے ظاہر ہوا کہ اے حکیم مجھے اپنی عمر کے بارے میں بتائیے کہ کتنی ہے؟ حکیم نے کہا: بارہ سال۔ شہزادہ حیران رہ گیا اور کہا بارہ سال کا تو بچہ ہوتا ہے اور میں آپ کو بڑھاپے کے اعتبار سے ساٹھ سال کا سمجھ رہا ہوں، حکیم نے کہا: باعتبار پیدائش تو ساٹھ سال کا ہوں لیکن تم نے مجھ سے عمر کے متعلق سوال کیا اور عمر تو حیات کا نام ہے اور حیات دین اور اس پر عمل کرنے سے اور دنیا سے بچنے سے ہے اور اس کا عرصہ میرے لئے بارہ سال سے زیادہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے

بچنے میں مردہ تھا۔ اور میں موت کے دنوں کو اپنی عمر میں شامل نہیں کرتا۔

شہزادے نے کہا: تو پھر آپ کیوں کہتے پیٹتے تھے جب کہ آپ مردہ تھے؟ حکیم نے جواب دیا: اس لئے کہ میں اندھے پن اور بہرے پن اور گونگے پن میں مردوں جیسا تھا میری زندگی بڑی کمزور تھی اور دوسروں پر انحصار کرتا تھا۔ گویا میں اس صفت میں ان (مردوں) کا شریک تھا تو میں نے نام کے اعتبار سے ان کے ساتھ موافقت کی۔

شہزادے نے کہا: اگر آپ اپنی زندگی کا شمار نہیں کر سکتے اور نہ اس خوشحالی اور شادمانی کا جو آپ کے لئے ضروری ہے تو آپ واقع ہونے والی موت سے جسے آپ ناپسند نہیں سمجھتے اسے شمار کریں۔

حکیم نے کہا: میری ذات تمہاری رہنمائی کرے گی یہ جاننے کے باوجود کہ تمہارے باپ کی مطلق العنانی، اہل دین کے لئے تباہی کا باعث بنے گی اس لئے کہ میں نہ موت کو موت سمجھتا ہوں نہ اس زندگی کو زندگی سمجھتا ہوں اور نہ میں موت سے کسی ناپسندیدہ چیز کی توقع رکھتا ہوں۔ پس وہ شخص زندگی سے کیا رغبت رکھے گا جس نے اس کا حصہ ہی چھوڑ دیا ہو۔ یا وہ کیوں موت سے بھاگے گا کہ جس نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے کو مار ڈالا ہو۔ اے شہزادے کیا تم نہیں دیکھتے کہ دین دار آدمی نے دنیا کے اہل اور مال کو چھوڑ دیا اور ان چیزوں کو بھی ترک کر دیا جو زندگی میں اسے دستیاب تھیں لیکن وہ ان کی طرف راغب نہیں ہوا۔ اس نے عبادت کے بار کو اٹھایا جو سوائے موت کے اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ پس ایسا شخص جو حیات کی لذتوں سے مستمع نہیں ہو سکتا تو اسے ایسی حیات کی کیا ضرورت؟ اور اس راحت سے وہ کیوں بھاگے جو اسے موت سے حاصل ہوتی ہے۔

شہزادے نے کہا: اے حکیم آپ نے سچ کہا۔ کیا آپ کو خوشی ہوگی اگر موت آپ کو کل آجائے؟ حکیم نے جواب دیا: بلکہ میری خوشی کا سبب ہوگا اگر کل کے بجائے اس رات ہی میں موت مجھ پر واقع ہو جائے۔ کیونکہ جس شخص نے برائی اور اچھائی کو پہچانا اور ان کے اجر کو پہچانا جو اللہ عزوجل کی طرف سے ہے۔ جو برائی کے چھوڑنے اور اس کی سزا کے خوف میں ہے۔ اور اچھائی کا عمل اس کے ثواب کی امید میں کرے اور جو اللہ کے یکتا ہونے میں یقین رکھے اور اس کے وعدہ کی تصدیق کرے تو وہ موت کو پسند کرتا ہے اس لئے کہ موت کے بعد جس نرمی کا وہ امیدوار ہے اور زندگی میں دنیاوی خواہشات اور اللہ کی نافرمانی سے خوف کھاتا ہے تو وہی موت کے جلد آنے کو پسند کی نگاہ سے دیکھتا ہے شہزادے نے کہا: یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ہلاکت کی جلدی نجات کی خواہش کے لئے کرے! خیر ہماری اس قوم کے مشفق بتائے کہ وہ کیوں بتوں پر اعتماد کرتے ہیں۔ حکیم نے کہا: ایک آدمی نے محنت کر کے ایک باغ لگایا۔ اس میں شہرنا اس کے لئے راحت کا باعث تھا ایک دن اس نے اپنے باغ میں ایک چیز کو دیکھا کہ جو ایک درخت پر لگا ہوا پھل کھا رہی تھی۔ تو اس نے ایک ڈھیلے اس پر کھینچ مارا۔ پس جب اس نے اس کے ذبح کا ارادہ کیا تو اللہ عزوجل نے چیز کو قوت گویائی عطا کی اور اس نے باغ کے مالک سے کہا تم مجھے ذبح کرنے کا قصد رکھتے ہو جب کہ تم میرے ذریعے حکم

سیر نہیں ہو سکتے اور نہ اس سے ہمیں کوئی قوت حاصل ہو سکتی ہے تو جو تم نے ارادہ کیا ہے کیا اس میں خیر کا کوئی پہلو نکل سکتا ہے؟ اس آدمی نے کہا: وہ خیر کیا ہے؟ چڑیا نے کہا: مجھے آزاد کر دو تو میں تمہیں تین باتیں بتاؤں گی۔ اگر تم نے انہیں یاد رکھا تو یہ تمہارے اہل و مال سے جو تمہارے پاس ہے بہتر ہوگا۔ وہ آدمی بولا: میں نے نیکی کا ارادہ کر لیا ہے اب تم مجھے یہ باتیں بتاؤ۔ چڑیا نے کہا: جو میں کہوں اسے یاد رکھنا۔ جو تم سے گم ہو جائے اس پر مایوس نہ ہونا اور جو شے وجود نہ رکھتی ہو اس کی تصدیق نہ کرنا اور جس کی طاقت نہ ہو اس کی طلب نہ کرنا۔ جب باتیں پوری ہو گئیں تو اس مرد نے چڑیا کو آزاد کر دیا وہ اڑ کر ایک درخت پر بیٹھ گئی اور اس آدمی سے کہا: کاش تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم سے کیا چیز ضائع ہو گئی ہے تو میں بتاتی ہوں کہ تم سے ایک بڑا امر فوت ہو گیا ہے۔ اس نے کہا وہ امر کیا ہے؟ چڑیا نے کہا: اگر تم نے جو ارادہ کیا تھا اس پر عمل کرتے اور مجھے ذبح کر دیتے تو میرے پونے سے بطخ کے انڈے کے برابر ایک موتی پاتے جس کے تم مالک ہو جاتے اور زمانے سے بے نیاز ہو جاتے۔

جب اس آدمی نے یہ بات سنی تو جو اس سے ضائع ہو گیا تھا اس سے اس کے دل میں ندامت پیدا ہو گئی پس کہا اچھا جو گزر گیا اسے چھوڑو اور نیچے اتر آؤ اور میں تمہارے ساتھ لپٹے گھر چلتا ہوں اور تمہاری ہم نشینی سے اچھائی اور تمہارے احسانات سے بزرگی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔

چڑیا نے کہا: اے جاہل تو نے مجھ سے جو کچھ سنا تھا اسے یاد نہیں رکھا اور تو نے میرے ان کلمات سے فائدہ نہیں حاصل کیا جو میں نے تجھے بتائے تھے۔ کیا میں نے تجھ سے عہد نہیں لیا تھا کہ جو چیز تم سے گم ہو جائے اس پر غم نہ کرنا اور جو موجود نہ ہو اس کو بچ نہ سمجھنا اور جو حاصل نہ ہو سکے اس کی طلب نہ کرنا۔ کیا تم جو گم کر چکے ہو اس سے دردناکی محسوس کر رہے ہو؟ اور مجھ سے میری واپسی کی خواہش کر رہے ہو اور وہ طلب کر رہے ہو جو تم پا نہیں سکتے۔ اور تم بچ کچھ رہے ہو کہ میرے پونے میں ایک ایسا موتی ہے جو بطخ کے انڈے کے برابر ہے اور (حالانکہ) میرا مجموعی جسم بطخ کے انڈے سے چھوٹا ہے اور میں نے تم سے عہد لیا تھا کہ جو موجود نہ ہو اس کو بچ نہ سمجھنا۔

اسی طرح تمہاری قوم نے اپنے ہاتھوں سے بت بنائے اور تم نے یہ خیال کیا کہ یہی وہ ہیں جنہوں نے تم کو پیدا کیا اور جنہوں نے تم کو خوف و خطر سے بچانے کی کوشش کی اور تم نے یہ بھی گمان کیا کہ یہ بت تمہاری حفاظت کرتے ہیں پس تم اپنی کمائی اور مال ان پر خرچ کرتے ہو اور تمہاری قوم نے یہ گمان کیا کہ یہی بت ان کو رزق دیتے ہیں اور تمہاری قوم نے اس چیز کو طلب کیا جو ان سے نہیں پاسکتے اور اس کو بچ سمجھا جس کا کوئی وجود نہیں۔ پس انہوں نے بھی اسی کو ضروری سمجھا جسے بارغ کے مالک نے ضروری سمجھا۔

شہزادے نے کہا آپ نے بچ فرمایا لیکن بتوں کے متعلق میں کچھ نہیں جانتا میں نے کبھی ان کی طرف رغبت نہیں کی نہ انہیں فائدہ پہنچایا۔ اب آپ مجھے اس ذات کے بارے میں بتائیے جس کی طرف آپ مجھے دعوت دیتے ہیں۔

اور اس ذات کے متعلق بھی بتائیے جسے آپ نے اپنے نفس کے لئے پسند کیا ہے کہ وہ کیا ہے۔

بلوہر نے کہا: دین دو باتوں پر مشتمل ہے ایک اللہ عزوجل کی معرفت اور دوسرا اس کی رضا پر عمل۔ شہزادے نے کہا: اللہ کی معرفت کس طرح ہو سکتی ہے۔ حکیم نے کہا: میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم یہ جان لو کہ اللہ ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں۔ وہ ہمیشہ سے یگانہ پروردگار ہے اور اس کے سوا جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس کی پروردہ ہیں اور یہ کہ وہ خالق ہے اور اس کے علاوہ تمام مخلوق ہیں اور یہ کہ وہ قدیم ہے اور اس کے علاوہ سب حادث ہیں اور یہ کہ وہ صالح ہے اور اس کے علاوہ سب مصنوع ہیں اور یہ کہ وہ مدبر ہے اور اس کے علاوہ سب اس کے تدبیر کردہ ہیں۔ اور یہ کہ وہ باقی ہے اور اس کے علاوہ سب فانی ہیں۔ اور یہ کہ وہ صاحب عزت ہے اور اس کے علاوہ سب ذلیل ہیں۔ اور یہ کہ نہ وہ سوتا ہے نہ غافل ہوتا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ کمزور ہے نہ اس پر غلبہ حاصل کیا جاسکتا ہے نہ اس سے ناراضگی کا اظہار کیا جاسکتا ہے نہ کوئی شے اسے عاجز کر سکتی ہے۔ آسمان، زمین، ہوا، فشنگی اور تری اس کے حکم کو نال نہیں سکتے۔ اس نے اشیا کو بغیر کسی شے کی مدد کے پیدا کیا، وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔ اس میں حوادث پیدا نہیں ہوتے اور حالات اس کو متغیر نہیں کر سکتے اور نہ زمانے اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں اور وہ ایک حال سے دوسرے حال میں بدلتا نہیں۔ اس سے کوئی مکان خالی نہیں اور نہ وہ کسی مکان میں مقید ہے اور کوئی جگہ اس سے قریب تر نہیں ہے کوئی شے اس سے غائب نہیں ہے۔ وہ عالم ہے جس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ الہی قدرت رکھنے والا ہے کہ کوئی شے اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور یہ کہ تم اس کو اس کی نرمی، رحمت اور عدل سے پہچان سکتے ہو۔ اور یہ کہ اس شخص کے لئے اس نے ثواب مقرر کر رکھا ہے جس نے اس کی اطاعت کی اور اس شخص کے لئے عذاب مقرر کیا ہے جس نے اس کی نافرمانی کی۔ لہذا تم اللہ کی رضا کے مطابق عمل کرو اور اس کی ناراضگی سے پرہیز کرو۔

شہزادے نے کہا: کیا یہ یکتا خالق اعمال سے راضی ہو جاتا ہے؟ حکیم نے کہا: اے شہزادے اس کی رضا یہ ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو اور نافرمانی نہ کرو اور تمہیں جو کچھ دیا جائے وہ تم اپنے غیر کو دینا پسند کرو۔ اور جو کچھ تم سے روکا جائے وہ تم اپنے غیر سے روکنے کی کوشش کرو۔ پس یہی عدل ہے اور عدل میں اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے آثار کی پیروی کرنے میں تم ان کی سنت کو مت بھلاؤ۔

شہزادے نے کہا: اے حکیم زہد دنیا اور اس کی حالت کے متعلق مجھے بتائیے۔

حکیم نے کہا: جب میں نے دنیا کو تصرف و زواں کا گھر پایا اور اس کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتے ہوئے دیکھا اور جب سے میں نے اس دنیا کو مناسب کا نشانہ بننے دیکھا اور مختلف بیماریوں میں پستلا پایا۔ اور کبھی صحت کے بعد بیمار ہوتا دیکھا اور جوانی کے بعد بڑھاپا اور مالداری کے بعد فقر اور خوشی کے بعد حزن اور عزت کے بعد ذلت۔

آسودگی کے بعد بے سرو سامانی۔ امن کے بعد خوف، اور زندگی کے بعد موت کو دیکھا اور میں نے قلیل عمر میں دیکھیں اور ایسی اچانک موتیں دیکھیں جو بغیر کسی قتل وغیرہ کے واقع ہوتی ہیں اور ایسے تیر دیکھے جو نفلانے پر بیٹھنے والے تھے اور ایسے جسم دیکھے جو کمزور تھے۔ جن کے جوڑ جوڑ الگ تھے اور جو محفوظ نہیں تھے تو میں نے جان لیا کہ دنیا جدا ہو جانے والی اور فنا ہو جانے والی ہے اور میں نے یہ بھی پہچانا کہ اس دنیا سے جو کچھ بھی ظاہری طور پر میرے سامنے آیا اس میں سے بہت کچھ میری نظر سے غائب ہو گیا۔ میں نے اس کے ظاہر و باطن کو دیکھا اور اس کی گہرائیوں کو واضح طور پر پہچانا اور اس کے پوشیدہ رازوں کو علانیہ طور پر دیکھا اور اس کے وارد ہونے سے اس کے احکامات کے صادر ہونے کو دیکھا تو میں اپنی اس موت سے خوفزدہ ہو گیا اور جو کچھ میں نے دیکھا اس سے راہ فرار اختیار کی۔ دریں اثناء تم ایسے لوگ بھی دیکھو گے جو نہایت متکبر اور مغرور اور سرکش ہیں اور ایسے بادشاہ بھی ہیں جو آسودگی اور مال کے اعتبار سے اور نعمت اور گنجائش کے اعتبار سے شباب کی راحت اور اپنے ملک پر تکبر کرنے اور اپنے غلبہ کی خوشی میں اور صحت بدن میں مسرور ہیں۔ جب دنیا میں انقلاب آتا ہے تو آدمی اس کا امیر ہو کر رہ جاتا ہے اور جس کو اس نے آنکھ سے دیکھا ہے اس کا اقرار کرتا ہے۔ لہذا تم اس دنیاوی ملک، اس کے تکبر، اس کی آسودگی اور اس کی خوشی سے نکل آؤ۔ اور ذلت کو عزت سے بدل دو، غم کو خوشی سے، حزن کو سرور سے، ہلاکت کو نعمت سے، فقر کو مالداری سے، جنگی کو کشائش سے، بڑھاپے کو شباب سے، بدنامی کو شرف سے اور موت کو حیات سے تبدیل کر لو۔ پس یہ ایک سنگ قبر ہے جس میں انتہائی وحشت ہے جس میں انسان یکتا و تنہا مسافر کی طرح ہے جو اپنے دوستوں سے جدا ہو گیا ہے۔ اور جنہوں نے اسے چھوڑ دیا ہے، اس کے بھائیوں نے بھی اسے تنہا چھوڑ دیا ہے اور ان کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور اس کے دشمنوں نے اسے دھوکا دیا ہے۔ اب اس کی طرف سے کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہے۔ اور اس کی عزت، اس کا ملک، اس کے اہل و عیال اور اس کا مال و دولت، اس کے بعد لوٹ کا مال بن جاتے ہیں۔ گویا وہ دنیا ہی میں نہیں تھا اور ایک لمحہ بھی اس کا تذکرہ نہیں ہوتا اور ذرا بھی اس کا خیال نہیں آتا۔ گویا اسے کبھی زمین کی ملکیت میں سے کوئی حصہ نہیں ملا تھا۔ تو اسے شہزادے ایسے گھر کو اختیار مت کرنا۔ اور نہ اس گھر میں مال و متاع اور چوپائے رکھنا۔ پس اس دنیا کے اوپر اف بھی ہے اور تف بھی ہے۔

شہزادے نے کہا: اس دنیا کے لئے بھی اف ہے اور اس شخص کے لئے بھی اف ہے جو اس پر غرور کرے جب کہ اس کا یہ حال ہے یہ کہہ کر شہزادہ رونے لگا اور اس نے حکیم سے کہا: اپنی بات ذرا اور بڑھائیے اس لئے کہ یہ میرے سینے کے لئے شفاء ہے۔

حکیم نے کہا: عمر بہت قلیل ہے اور رات دن تیزی سے بدل رہے ہیں اور دنیا سے کوچ بہت تیزی سے قریب ہے اگرچہ عمر کتنی ہی طویل ہو جائے لیکن موت آنے والی ہے اور کوچ کرنے والا لامحالہ جانے والا ہے اور جو کچھ اس دنیا میں

جمع کیا ہے وہ مستشرق ہونے والا ہے اور جو کچھ اس نے اس دنیا میں اعمال کئے ہیں وہ اعمال اس سے بیزار ہیں اور جو کچھ اس نے مضبوط سے مضبوط تعمیرات کی ہیں وہ ویران اور برباد ہونے والی ہیں۔ لوگ اس کے نام سے ناواقف ہو جائیں گے اور اس کا ذکر بھلا دیا جائے گا۔ اس کا حسب گناہ ہو جائے گا اور اس کا جسم کہنہ اور شکستہ ہو جائے گا اور اس کا شرف کینگی سے بدل جائے گا، اس کی نعمت و بال بن جائے گی اور اس کی کمائی خسارہ میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور کوئی دوسرا اس کی مملکت کا وارث بن جائے گا اور اس کے پیچھے رہنے والے ذلیل ہو جائیں گے۔ اس کے اہل عرم دوسروں پر مباح ہو جائیں گے۔ اس کے عہد و عہدیمان ٹوٹ جائیں گے، اس کی ذمہ داریاں فراموش کر دی جائیں گی۔ اس کے آثار پرانے ہو جائیں گے۔ اس کا مال تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس کے ساز و سامان کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اس کے دشمن خوش ہوں گے، اس کا ملک تباہ و برباد کر دیں گے، اس کے تاج کے دارث بن جائیں گے، اس کے تخت سلطنت پر بیٹھ جائیں گے۔ اور اسے اس کے گھر سے نکال کر ہر چیز چھین کر اس کی قبر کی طرف لے جائیں گے اور اسے قبر میں چھپائی، وحشت، تاریکی اور مسکنت کے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ دوست اسے مٹی کے سپرد کر کے جدا ہو جائیں گے۔ وہ کبھی اپنی وحشت سے مانوس نہیں ہوگا اور اس کا عالم غربت کبھی ختم نہ ہوگا اور یہ بھی جان لو کہ ایک عقلمند آدمی کہ یہ حق ہے کہ وہ اپنے نفس کو سوئی پر پڑھا دے خاص طور پر اس امام عادل اور محتاط کی سیاست کی طرح جو عوام کو ادب سکھاتا ہے اور رعایا کی اصلاح کرتا ہے اور جو ان کے لئے درست ہوتا ہے اس کا حکم دیتا ہے اور جس سے ان میں فساد پیدا ہوتا اس سے روکتا ہے پھر ان میں سے جو نافرمانی کرتا ہے اس کو مزار داتا ہے اور ان میں سے جو اطاعت کرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مرد دانا کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے تمام اخلاق، خواہشوں اور خواہشات نفسانی میں اپنے نفس کو ادب سکھائے اور ان کو برداشت کرے خواہ وہ ان کے ضروری فائدوں سے کراہت کرتا ہو۔ اور اپنے نفس کو ان کے نقصانات سے بچائے اور یہ کہ جب اس نے کوئی نیک کام کیا ہے اور اسے خوشی محسوس ہو تو اپنے نفس کو ثواب و عتاب کے لئے تیار رکھے اور ایسے ہی جب اسے غم ہو اور اسے برا لگے حب بھی اور یہ بھی صاحب عقل کا حق ہے کہ جو اس پر امور وارد ہوتے ہیں ان پر نظر غائر ڈالے اور ان کے درست امور کو حاصل کرے اور ان امور کے غلط ہونے سے اپنے نفس کو روکے اور یہ کہ اپنے عمل کو اور خود کو اپنی رائے میں حقیر سمجھے تاکہ اس میں غرور و عجب پیدا نہ ہو۔ کیونکہ اللہ عزوجل نے صاحبان عقل کی مدح کی ہے۔ اور اہل غرور کی مذمت کی ہے۔ اور ان لوگوں کی بھی مذمت کی ہے جن کے پاس عشق نہیں۔ عشق سے اللہ کی اجازت سے ہر نیکی کا اور آگ کیا جاتا ہے اور تہل کے ذریعے نفوس ہلاک ہو جاتے ہیں اور بے شک صاحبان عقل و فہم کے لئے سب سے مستحبات یہ ہے کہ جو ان کی عقلوں نے اور آگ کیا ہے اور جو ان کے تجربوں سے ہم تک پہنچا ہے اور جو ان کی نگاہوں نے ترک ہوا ہوس میں دیکھا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اور صاحب عقل کے لئے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے عمل کی حفاظت پر قوت رکھنے کے باوجود اس کو حقیر سمجھ کر

چھوڑ دے جبکہ اس عمل پر جو بس سے زیادہ اہم ہے وہ قدرت نہ رکھتا ہو۔ اور یہ تو چھپ ہوئے شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے کہ جس کو وہی شخص دیکھتا ہے جو اس میں غور و فکر کرتا ہے۔ اور اس سے کوئی شخص محفوظ نہیں رہتا۔ مگر وہ کہ جسے اللہ محفوظ رکھے۔ شیطان کے اٹلے کا سرا یہ دو ہتھیار ہیں۔ ایک ان میں سے انکار عقل ہے جو انسان عاقل کے قلب میں پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ نہ اس کے پاس عقل ہے نہ اس کی کوئی نگاہ ہے۔ اور نہ اس کی عقل و نگاہ میں اس کے لئے کوئی فائدہ ہے۔ اور وہ اس کو علم کی محبت و طلب سے روکنا چاہتا ہے۔ اور اس کے لئے دنیا کے ہلو و لعب میں سے کچھ مشغلوں کو سجا کر پیش کرتا ہے تو اگر اس طریقے سے انسان اس کی پیروی کرتا ہے تو یہ شیطان کی کامیابی ہے اور اگر وہ شیطان کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ غلبہ پانے کے لئے دوسرے ہتھیار کی طرف مائل ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے اور غور کرتا ہے تو شیطان ایسی اشیاء اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں پاتا کہ وہ اس کو کسی پریشانی میں مبتلا کر دیں گی اور جس چیز کا اسے علم نہیں ہے اس میں وہ اسے نقصان پہنچائیں گی۔ جہاں تک کہ وہ اشیاء اس کی عقل کی کمزوری کا سبب بنتی ہیں اور اس میں بغض اور شک پیدا ہو جاتا ہے اور شیطان کہتا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ تم اس کام کو پورا نہیں کر سکتے تھے اور اس کی طاقت تم میں کبھی نہ تھی۔ تم نے اس بارے میں بیچارہ مشقت اٹھائی۔ پس وہ اس ہتھیار سے بہت سے لوگوں کو ہتھیار دیتا ہے۔ چنانچہ جو ایسے عالم کے حاسن کرنے سے جو یہ تمہیں سکھا رہا ہے اور جو تم نے اس سے اکتساب کیا ہے وہ دھوکا ہے۔ تم ایسے مقام پر ہو کہ جہاں کی اکثریت پر شیطان نے مختلف حیلوں اور گمراہیوں کے اسباب کے ساتھ غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے کانوں کو، اپنی عقلوں کو، اپنے قلوب کو مار رکھا ہے اور شیطان نے ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا کہ جو کچھ بھی نہیں جانتے اور ایسے عالم سے جس سے وہ جاہل ہیں جانوروں کی طرح سوال نہیں کرتا۔ اور عامتہ اناس میں مختلف دین ہیں ان میں سے کچھ لوگ اس گمراہی میں اتنے اگے بڑھے ہوئے ہیں کہ دیگر لوگوں کے خون اور اموال کو حلال سمجھتے ہیں۔ اور ان کی گمراہی انہیں حق کی چیزوں سے منحرف کر دیتی ہے تاکہ ان پر ان کے اس دین کا غلبہ کر دے۔ اور اس کی کمزوری کو زینت دیدے اور ان کو دینِ قیم سے روک دے۔ شیطان اور اس کا لشکر لوگوں کی ہلاکت میں ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں اور ان کے گمراہ کرنے میں وہ مایوس نہیں ہوتے اور نہ وہ راو فرار اختیار کرتے ہیں۔ اور ان کی تعداد سوائے اللہ کے کوئی شمار نہیں کر سکتا اور کسی شخص کے لئے ان شیطانوں کے مکر و فریب کا دفاع، اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کے دین کو مستبطلی سے بچانے بغیر ممکن نہیں۔ پس ہم اللہ سے اس کی اطاعت کی توفیق اور اپنے دشمن پر غلبہ حاصل کرنے کا سوال کرتے ہیں کیونکہ سوائے اللہ کے کسی میں کوئی طاقت نہیں۔

شہزادے نے کہا: آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف یہ ہے سامنے اس طرح کریں گویا میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ حکیم نے کہا: اللہ جس کا ذکر بڑا پاک و پاکیزہ ہے اس کا روایت کے ذریعہ وصف بیان نہیں کیا جاسکتا۔ اور عقلمند کے ذریعے اس

کے صفت کی حقیقت تک نہیں پہنچا جاسکتا اور نہ زبانیں اس کی مدح کی حقیقت کو پہنچ سکتی ہیں۔ اور بندے اپنے علم کے ذریعے سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر اس علم کے ذریعے سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء، علیہم السلام کو سکھایا تھا وہی اس کی حقیقت کا وصف بیان کر سکتے ہیں۔ اور ہماری قوت و ہم وادراک اس کی ربوبیت کا ادراک نہیں کر سکتے وہ اس سے کہیں بند و بالا اور ہلیل و عزیز تر ہے۔ وہ سب سے عظیم عطا کرنے والا اور لطف و مہربانی کرنے والا ہے۔ پس اس نے اپنے علم میں سے جو پسند کیا۔ بندوں کو بخش دیا۔ اور اپنی صفت میں سے جس کا ارادہ کیا اس کو ان پر ظاہر کر دیا۔ اور اپنی معرفت اور اپنی ربوبیت کی معرفت کو ان چیزوں سے جو نہ تھیں پیدا کر کے اور جو موجود تھیں ان کو معدوم کر کے ان کی رہنمائی کی۔

شہزادے نے کہا: اس کی قطعی دلیل کیا ہے؟ حکیم نے کہا: جب تم کسی بنی ہوئی چیز کو دیکھتے ہو اور اس کا بنانے والا جہد و سائنس نہیں ہوتا تو تم اپنی عتس کے ذریعے سے جان لیتے ہو کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے اسی طرح آسمان زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان کا کوئی صانع ہے پس کون سی دلیل اس سے قوی تر ہے؟

شہزادے نے کہا: اسے حکیم مجھے بتائیے کہ آیا لوگوں کو جو امراض اور درد و فقر اور دوسرے نامناسب حالات پیش آتے ہیں وہ اللہ کی قدرت سے ہیں یا اس کے بغیر ہیں؟ بوہر نے کہا: نہیں بلکہ قدرت سے متعلق ہیں۔ شہزادے نے کہا: تو مجھے لوگوں کے برے اعمال کے متعلق بتائیے۔ بوہر نے کہا: اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے برے اعمال سے بری ہے لیکن اس نے بہت بڑا ثواب ان لوگوں کے لئے رکھا ہے جو اس کے مطیع ہیں اور جنہوں نے اس کی نافرمانی کی ہے ان کے لئے سخت عذاب رکھا ہے۔

شہزادے نے کہا: اب مجھے سب سے زیادہ عادل انسان، سب سے زیادہ ظلم و جور کرنے والے، سب سے زیادہ سخت کرنے والے، سب سے زیادہ احمق، سب سے زیادہ شقی اور سب سے زیادہ نیک لوگوں کے بارے میں بتائیے۔ بوہر نے کہا: سب سے زیادہ عادل وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ذات سے انصاف کیا، سب سے زیادہ ظلم و جور کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے جور کو عدل سمجھتے ہیں اور جن کے نزدیک عدل کرنے والوں کا عدل ظلم ہے۔ اور سب سے زیادہ مصلحتی اور کمانے والا وہ شخص ہے کہ جس نے آخرت کے لئے زادراہ حاصل کیا، اور سب سے زیادہ احمق وہ شخص ہے کہ جس کا مقصد دنیا ہو اور غلطیوں اس کا عمل ہوں، اور سب سے زیادہ نیک بخت وہ شخص ہے کہ جو اپنے انجام کار کو خیر پر ختم کرے۔ اور سب سے زیادہ شقی وہ شخص ہے کہ جو اپنے عمل کو اللہ کی ناراضگی پر ختم کرے۔

پھر اس نے یہ کہا: جس نے اپنے دین کو اپنی خواہش جیسا سمجھا وہ ہلاک ہو گیا پس وہی اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور جو بات اسے پسند کرنی چاہیے تھی اس کا مخالف ہے۔ اور جس نے یہ یقین کیا کہ دین صلح کی مانند ہے تو یہی اللہ کا مطیع ہے اور یہ بات اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے کے لئے پسندیدگی کا باعث ہے۔

پھر کہا: اچھائی اگرچہ بد افعالوں میں ہو تو اسے برا نہ سمجھنا اور اگر برائی نیک لوگوں میں پائی جائے تو اس کو اچھا نہ سمجھنا۔

پھر شہزادے نے کہا: ٹھیکے یہ بتائیے کہ کون لوگ سعادت کے حق دار ہیں اور کون لوگ شقی کہلانے کے مستحق ہیں۔ بلوہر نے جواب دیا: سعادت کے مستحق وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اس کے انکسارات میں اطاعت کریں اور اس کے ممنونہ احکامات سے پرہیز کریں۔ اور شقاوت کے حامی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی پر عمل پیرا ہیں، اس کی اطاعت کو ترک کئے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کی رضا کے خلاف اپنی خواہشات نفس کو خود پر اثر انداز کئے ہوئے ہیں۔

شہزادے نے کہا: کون لوگ سب سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں؟

حکیم نے کہا: جو اس کے امر کی اتباع کرنے والے ہیں اور جو اس کے دین پر مضبوطی سے قائم ہیں اور جو برے

اعمال سے دور ہیں۔

شہزادے نے کہا: نیکیاں اور برائیاں کیا ہیں؟ حکیم نے جواب دیا: نیکیاں نیت، عمل، پسندیدہ قول اور عمل

صالح کی صداقت کا نام ہے۔ اور برائیاں بری نیت، برے عمل اور برے قول کا نام ہے۔

شہزادے نے کہا: صدق نیت کیا ہے؟ حکیم نے جواب دیا: ارادہ میں میانہ روی اختیار کرنے کا نام ہے۔

شہزادے نے کہا: بد گوئی کیا ہے؟ حکیم نے جواب دیا: جھوٹ بولنا۔ اس نے پوچھا: بد عملی کیا ہے؟ بلوہر نے کہا:

اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔

شہزادے نے کہا: مجھے بتائیے کہ ارادہ میں میانہ روی کس طرح ہو سکتی ہے؟ بلوہر نے کہا: دنیا کے دوال اور

امور دنیا سے قطع تعلق کے بار بار تذکرہ کرنے سے اور ان امور سے بچنے سے جن سے آخرت میں ہلاکت اور تباہی ہو۔

شہزادے نے کہا: سخاوت کیا ہے؟ بلوہر نے جواب دیا: فی سبیل اللہ مال دیدینا سخاوت ہے۔ اس نے کہا: کرم

کیا ہے؟ بلوہر نے کہا: تقویٰ کرم کا نام ہے۔ اس نے کہا: عمل کیا ہے؟ بلوہر نے جواب دیا: حق داروں کو حق نہ دینا

اور بغیر کسی وجہ کے ان کا حق لے لینا، عمل ہے۔

شہزادے نے کہا: حرص کیا ہے؟ بلوہر نے کہا: دنیا کی طرف ہمیشہ رغبت کرنا۔ اور ان امور کی طرف متوجہ ہونا

جن میں فساد ہی فساد ہو اور جن کا حلیہ آخرت کا عذاب ہو۔

شہزادے نے کہا: صدق کیا ہے؟ بلوہر نے جواب دیا: دین کی راہ میں ضروری ہے کہ آدمی نہ تو اپنے آپ کو دھوکا

دے اور نہ اس دین کے راستے کی تکذیب کرے۔

شہزادے نے کہا: حماقت کیا ہے؟ بلوہر نے کہا: دنیا پر مطمئن ہونا اور ان چیزوں کو جنہیں دوام و بقا، حاصل ہے

چھوڑ دینا۔

شہزادے نے پھر دریافت کیا: جھوٹ کیا ہے؟ بلوہر نے جواب دیا: آدمی اپنے آپ کو جھٹلائے اور اپنی خواہشات نفس پر فریفت ہو۔ اور اپنے طریقہ پر بختہ ہو۔

شہزادے نے دریافت کیا: کون لوگ صلاح و مشورے میں کامل ترین ہوتے ہیں؟

بلوہر نے کہا: جو لوگ عقل میں کامل اور امور کے نتائج میں زیادہ بصیرت رکھتے ہیں اور جو اپنے دشمنوں کا مکمل علم رکھتے ہیں اور جو ان سے بچنے میں شدید ہیں۔

شہزادے نے کہا: انجام کیا ہے اور وہ کون دشمن ہیں کہ جنہیں ایک عقلمند انسان پہچانے اور پھر خود کو ان سے محفوظ رکھے۔ بلوہر نے کہا: انجام آخرت اور دنیا کی فنا کا نام ہے۔

شہزادے نے پوچھا: دشمن کون ہیں؟ بلوہر نے کہا: حرص، غضب، حسد، حییت، شہوت، ریا اور لجاجت دشمن ہیں۔

شہزادے نے کہا: وہ کون لوگ ہیں جنہیں آپ زیادہ قوی اور اہم سمجھتے ہیں اس بات سے کہ ان سے بچا جائے؟ بلوہر نے جواب دیا: حرص جس میں رضا قطعاً نہیں اور جو غضب کے اعتبار سے زیادہ برا ہے اور غضب قلب میں زیادہ ظلم کرنے والا ہے اور شکر کو کم کر دینے والا ہے اور بغض کرنے والوں کی سب سے بڑی کمائی ہے۔ اور حسد نیت کی گناہی کو زیادہ برا کر کے دکھانے والا ہے۔ اور ظن اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے اور حییت، لجاجت سے زیادہ شدید ہے اور معصیت سے زیادہ پریشان کن ہے اور کسینہ کی آگ درپا ہوتی ہے اور رحمت کی نفی ہوتی ہے اور غلبہ کے اعتبار سے شدید ہوتی ہے۔ اور ریاکاری دھوکہ اور فریب سے زیادہ سخت ہوتی ہے اور پوشیدہ چیز کو اور مخفی کردیتی ہے اور موقع و محل کے لطافت ہوتی ہے۔ اور لجاجت دشمنی کو بڑھاتی ہے اور عذر خواہی کو قطع کردیتی ہے۔

شہزادے نے پوچھا: شیطان کے وہ کون سے حیلے بہانے ہیں جو لوگوں کی ہلاکت کا زیادہ باعث ہوتے ہیں؟ حکیم نے جواب دیا: شیطان کا انسانوں کو خواہشات نفسانی کے ارتکاب میں اور نیکی، گناہ، ثواب اور عذاب میں اندھا بنا دینا ہے۔

شہزادے نے کہا: مجھے اس قوت کے بارے میں آگاہ فرمائیے کہ جس کے ذریعے اللہ نے اپنے بندوں کو ان برے امور اور ہلاک کر دینے والی خواہشات پر غلبہ حاصل کرنے میں قوی بنایا ہے۔

حکیم نے جواب دیا: وہ علم کہ جس کے ساتھ عقل بھی ہو اور عمل بھی اور خواہشات نفسانی سے اپنے نفس کو روک دینا۔ اور دین میں ثواب حاصل کرنے کے لئے امیدوار ہونا ہے۔ اور فحاشی و دنیا کا اور موت سے قریب ہونے کا کثرت سے تذکرہ کرنا ہے۔ اور فحاشی و دنیا کے بعد باقی رہ جانے والی ذات کی ضد سے پرہیز کرنا۔ پس گزرنے والے امور کا اعتبار ان کے انجام سے ہے۔ اور ان کا ذہن میں محفوظ رکھنا۔ سوائے صاحبان عقل کے کوئی شخص اپنے نفس کو بری

عادت سے روکنے اور اچھی عادت پر معمول کرنے اور پسندیدہ اخلاق پر قائم رہنے پر محنت نہیں کر سکتا۔ اور یہ کہ صاحبانِ عقل اپنی زندگی کے مطابق اس کی انتہائیک پہنچ جائیں۔ اور یہی باتیں ہیں کہ جن کا نام قناعت ہے اور ساز و سامانِ زندگی کے ساتھ صبر و رنسا ہے اور فیصلہ حتمی کو اپنے لئے لازم رکھتا ہے۔ اور انتہائی سخت تکلیف اٹھانے اور اکتساب کرنے میں زیادتی کرنے اور جو کچھ تم ہو گیا ہے اس پر ماتم کرنے اور نفس کے اس سے خوش ہونے اور اس علاج کو چھوڑ دینے سے جو مکمل نہیں ہو سکتا اور ان امور پر صبر کرنے سے جو اس پر وارد ہوتے ہیں اور راہِ راست کو گمراہی کے راستے پر اختیار کرنے اور نفس کو اس بات پر لازم کرنے میں کہ وہ اگر اچھا عمل کرنے کا تو اسے (اچھی) جزا دی جائیگی اور اگر برا عمل کرے گا تم اسے ویسی ہی جزا دی جائیگی۔ پس ان سب باتوں کی معرفت: دینی چاہیئے اور حقوق اور حدودِ تقویٰ اور نصیحت پر عمل کرنے اور خواہشوں کی پیروی سے نفس کو روکنے اور شہواتِ نفسانی پر غائب آنے اور تمام امور کو اپنی رائے پر معمول کرنے اور یقین و قوت کے ساتھ اس پر جتنے کی معرفت: دینی چاہیئے۔ پس اگر اس پر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ آنے اور وہ بغیر کسی آزرِ دینی کے معذور سمجھا جائے گا۔

شہزادے نے کہا: کون سا اخلاق زیادہ اچھا اور لائقِ عزت ہے؟ حکیم نے کہا: اللہ کے لئے بھائیوں کے ساتھ خوش گفتاری اور تواضع سے پیش آنا۔

شہزادے نے کہا: کون سی عبادت زیادہ بہتر ہے؟ حکیم نے کہا: وہ عبادت و تقار اور سودت ہے۔ وہ کہنے لگا: مجھے بتائیے کہ کون سی عادتیں افضل ہیں؟ بلوہرنے کہا: نیک لوگوں سے محبت کرنا۔

شہزادے نے دریافت کیا: کون سا تذکرہ افضل ہے؟ حکیم نے کہا: وہ تذکرہ بہتر ہے جو نیک کام کو کرنے اور ناگوار بات سے روکنے کے لئے کیا جائے۔

شہزادے نے پوچھا: کون سا دشمن سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے؟ حکیم نے کہا: گناہوں سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں۔

شہزادے نے کہا: مجھے یہ بتائیے کون سا افضل سب سے بڑھ کر ہے؟ بلوہرنے کہا: ساز و سامانِ زندگی پر راضی رہنا (جتنا حاصل ہو جائے اس پر اکتفا کرنا)۔

شہزادے نے کہا: کون سا ادب زیادہ اچھا ہے؟ حکیم نے کہا: دین کا ادب۔

پوچھا: کون سی چیز زیادہ ظلم و جفا کرنے والی ہے؟ اس نے جواب دیا: سرکش بادشاہ اور سنگدلی۔

شہزادے نے پوچھا: کون سی چیز انتہا کے لحاظ سے بعید تر ہے؟ حکیم نے جواب دیا: حرمیں کی وہ آنکھ جو دنیا سے

بہر نہیں ہوتی۔

شہزادے نے کہا: کون سے امور ایسے ہیں جو انجام کے اعتبار سے زیادہ برے ہیں۔ حکیم نے کہا: اللہ تعالیٰ کی

ناراضگی میں لوگوں کی رنسامندی کی خواہش کرنا۔

شہزادے نے پوچھا: کون سی چیز زیادہ جلد تبدیل ہو جاتی ہے؟ بلوہر نے جواب دیا: ان بادشاہوں کے دل جو دنیا کے نئے کام کرتے ہیں۔

شہزادے نے کہا: مجھے بتائیے کہ کون سے گناہ ایسے ہیں جو زیادہ برے ہیں؟ حکیم نے کہا: اللہ کے عہد کو قبول کرنا اور پھر اس سے خیانت کرنا۔

شہزادے نے کہا: کون سی چیز جلد منقطع ہونے والی ہے؟ حکیم نے کہا: فاسق کی محبت جلد ختم ہو جاتی ہے۔
شہزادے نے دریافت کیا: کون سی چیز سب سے زیادہ خیانت کرنے والی ہے؟ بلوہر نے جواب دیا: جموٹے کی زبان سب سے زیادہ خائن ہے۔

شہزادے نے کہا: کون سی چیز زیادہ چھپی رہتی ہے؟ بلوہر نے کہا: دھوکہ دینے والے انسانوں کا شر؟
شہزادے نے دریافت کیا: کون سی چیز دنیا کے حالات سے زیادہ مشابہ ہے؟ حکیم نے کہا: کسی سونے والے کے جموٹے خواب۔

شہزادے نے پوچھا: کون لوگ رخصا کے اعتبار سے افضل ہیں؟ بلوہر نے کہا: وہ لوگ جو اللہ سے حسن ظن رکھتے ہوں اور زیادہ پرہیزگار ہوں اور اللہ کے ذکر سے غفلت نہ برتتے ہوں اور موت کو یاد رکھتے ہوں اور مدت حیات کے ختم ہونے کا یقین رکھتے ہوں۔

شہزادے نے دریافت کیا: دنیا کی کون سی چیز ایسی ہے جو آنکھ کی ٹھنڈک ہے؟ بلوہر نے جواب دیا: صاحب ادب بننا اور موافقت کرنے والی بیوی جو امور آخرت پر معین و مددگار ہو۔

شہزادے نے کہا: کون سی بیماری ہے جو دنیا کے ساتھ چھٹی ہوئی ہے؟ بلوہر نے کہا: کسی کا لڑکا بد تہذیب اور عورت بد قماش ہو کہ وہ دونوں سے چھٹکارا نہ پاسکے۔

شہزادے نے کہا: کون سی آسودگی سب سے بہتر ہے؟ بلوہر نے کہا: آدمی کا اپنے حصے پر راضی ہونا اور نیک لوگوں کے ساتھ محبت کرنا۔

پھر شہزادے نے حکیم سے کہا: آپ اپنے ذہن کو تھوڑا سکون دیں کیونکہ میں آپ سے اہم ترین اشیاء کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ان چیزوں کے متعلق بصیرت عطا کی جن سے میں جاہل تھا۔ اور مجھے رزق دین عطا کیا کہ جس سے میں مایوس تھا۔ حکیم نے کہا: جو بات تم پر مشکف ہوتی ہے دریافت کرو۔

شہزادے نے کہا: آپ کی رائے میں جس سچے کوچھین میں سلطنت دے دی گئی اور جس کا دین بتوں کی پرستش ہے اور جو دنیاوی لذتوں سے فائدہ حاصل کر رہا ہے اور اس سے نشوونما پا رہا ہے یہاں تک کہ وہ مکمل مرد اور پھر بوڑھا

ہوجاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی جہالت کی وجہ سے اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرتا اور اپنے نفس کو خواہشات نفسانی کے حوالے کرنے کی وجہ سے مقصود کے حاصل ہونے تک عاری رہتا ہے۔ اس وجہ سے کہ خواہشات اس کے لئے زینت بن گئی ہیں اور اس پر اثر رکھتی ہیں اور وہ ان پر جرات رکھتا ہے اور وہ انہی خواہشات میں رشد و ہدایت کو پاتا ہے اور طویل عرصے تک ان خواہشات کی بھت، ان کے دھوکے اور ان کے فخر میں ہٹتا رہتا ہے۔ وہ اپنی قوم اور صاحبان رائے کے لئے فخر و بھت کا سبب ہے اور اس کی بصیرت نے اس کو چھوڑ دیا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی آخرت کے امور سے بھی جاہل اور غافل رہا اور اس کو اس نے غصیف سمجھا اور اس کے قلب کے اندر تسامت پیدا ہو گئی۔ اور غیثت نیت اور رنج رانی پیدا ہو گئی۔ اور اس کی عداوت و دشمنی کی مخالفت اور پوشیدہ اشخاص جو اس کے علم سے لگنا چاہتے ہیں کے لئے شدت بکڑ گئی۔ کیا وہ ان نزاعات میں جن میں اس کی عمر طویل ہو جائے اس کی تمنا کر سکتا ہے کہ وہ اس سے نکل جائے۔ اور اس فطرت کی طرف کہ جو روشنی ہے اور اس بھت کی طرف کہ جو واضح ہے اس کا لگنا درست ہو سکتا ہے؟ اور دین کا سب سے بڑا حصہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے گزرے ہوئے گناہوں سے جس منفرت کی تمنا کرتا ہے اور جو کچھ اس دین میں اچھے ثواب کی تمنا کرتا ہے تو وہ اسے حاصل کر لے گا؟

حکیم نے کہا: تم نے اس بات کو جان لیا ہے اور اس مسئلے میں تم کیا چاہتے ہو؟

شہزادے نے کہا: عقل و فہم کے ذریعے جو فطرت آپ کو عطا کیا گیا ہے میں اس کا منکر نہیں ہوں اور نہ جس علم سے آپ کو مضموس کیا گیا ہے اس کا منکر ہوں۔

حکیم نے کہا: اس صفت کا حامل بادشاہ ہے اور وہ شخص ہے جس کی عنایت نے تمہیں دعوت دی، جس سے تم نے دریافت کیا۔ اور جس نے اس امر کا اہتمام کیا۔ اور یہ کہ گو اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا تھا مگر اس انسان پر اس کی خواہش کے مطابق شفقت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ تم نے اللہ کے ثواب کا ادائے حق کے بارے میں قصد کیا ہے جو اللہ نے تم پر واجب قرار دیا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ تم لطف و مہربانی میں عذر کی انتہا تک پہنچنا چاہتے ہو۔ تاکہ ایک بہت بڑے خطرے سے خود کو نکال سکو اور اس ہمیشہ کی مصیبت سے خود کو بچا سکو کیونکہ اللہ کے عذاب سے بچنا ممکن نہیں مگر یہ کہ اس کی مدد شامل حال ہو۔

شہزادے نے کہا کہ آپ کی جو مراد ہے اس سے ذرا بھی محروم نہ کریں بلکہ آپ اپنی رائے سے مطلع کیجئے اس خوف کے بارے میں جو بادشاہ کو اپنی موت کے متعق ہوتا ہے جس سے وہ حسرت و ندامت میں ہٹتا ہوجاتا ہے اور کوئی شے اس کی کفالت نہیں کرتی۔ آپ مجھے اس کے بارے میں یقین دلائیے۔ اور آپ میرے شدت غم کو مجھ سے دور فرمائیے کیونکہ اس کے بارے میں میرے پاس کوئی حیلہ نہیں ہے۔

حکیم نے کہا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ ہم مخلوق کو اس کے خالق اللہ عزوجل کی رحمت سے دور اور اس کی رحمت

سے مایوس نہیں کر سکتے جب تک اس میں روح باقی رہے خواہ وہ سرکش عیار و گمراہ ہو کیونکہ ہم نے اپنے پروردگار کی توصیف مہربانی، نرمی اور رحمت سے کی ہے اور اس پر ایمان کی دلالت کی ہے اور جس کے لئے استغفار و توبہ کا حکم دیا ہے اس میں ان شاء اللہ تمہاری حاجت و ضرورت کے مطابق تمہاری خواہش کا فصل ہے۔ اور لوگوں کا خیال ہے کہ کسی زمانہ میں ایک بادشاہ تھا جو علم میں شہرہ آفاق رکھتا تھا، مہربان محافظ تھا جو اپنی قوم و ملت میں عدل اور اپنی رعایا کے اصلاح حال میں کوشاں رہتا تھا۔ وہ اس طرح اچھی حالت میں عرصہ دراز تک زندہ رہنے کے بعد مر گیا تو اس کی قوم نے اس کا سوگ منایا۔ اس کی بیوی حاملہ تھی تو نجومیوں اور کاہنوں نے بتایا کہ اس سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو ان کے ملک کا منظم و مدبر ہوگا جو کوئی شخص اس کے زمانہ سلطنت میں ہوگا دیکھ لے گا۔ تو نجومیوں اور کاہنوں کے کہنے کے مطابق یہ معاملہ طے پا گیا اور اس حمل سے ایک لڑکا پیدا ہوا تو انہوں نے اس کی یوم پیدائش سے ایک سال تک گانے بجانے، کھیل تماشے اور شراب نوشی اور کھانے پینے کا تہنن منایا۔ اس کے بعد ان کے اہل علم، صاحب فہم و فرد اور عارف باللہ اشخاص نے عوام الناس سے کہا کہ یہ مولود اللہ کا عطیہ ہے اور تم نے اس کے غیر کا شکر یہ ادا کیا اور اگر یہ غیر اللہ کا عطیہ ہے تو تم نے اس کا حق ادا کر دیا کہ جس نے تم کو عطیہ دیا لیکن جس نے تم کو رزق بخشا تم نے اس کا شکر ادا کرنے کی کوشش کی؟ تو عوام الناس نے ان لوگوں سے کہا کہ اس مولود کو ہمیں اللہ نے بخشا ہے اور اس کے علاوہ کسی نے ہم پر احسان نہیں کیا ہے۔ علما نے کہا کہ اگر اس بچہ کو اللہ ہی نے بخشا ہے تو تم اس کے غیر کو جس نے تم کو عطا نہیں کیا تمہارا رضی کر لیا اور اس اللہ کو ناراض کر دیا جس نے اس کو تمہیں عطا کیا تھا تو رعایا نے ان علما سے کہا کہ اے حکیموں! ہمیں نصیحت کرو اور اسے عالمو! ہمیں آگاہ کر د تاکہ ہم تمہاری بات کی پیروی کریں اور تمہاری نصیحت کو مانیں اور تمہارے حکم کے مطابق چلیں۔ علما نے کہا کہ ہماری یہ رائے ہے کہ موسیقی، ہجو و لعب اور نشہ آور اشیاء شیطان کی پسندیدہ اشیاء ہیں پس اس کی پیروی سے انحراف کرو اور اللہ عزوجل کی خوشنودی کی خواہش اور اس کی نعمتوں کا شکر یہ شیطان کے شکر یہ کے بجائے کرو تاکہ جو کچھ تم سے ہوا ہے وہ اس سے تم کو محاف کر دے۔ رعایا نے کہا کہ آپ لوگوں نے جو فرمایا اور حکم دیا ہے ان تمام باتوں کا بار ہم نہیں اٹھا سکتے۔ علما نے کہا کہ اے جاہلو! تم اس کے مطیع کس طرح ہو گئے جس کا تم پر کوئی حق نہیں ہے اور تم اس کی نافرمانی کرتے ہو جس کا حق تم پر واجب ہے اور تم کس طرح نامناسب بات پر قوی و قادر ہو گئے اور اس چیز سے جو مناسب ہے ضعیف اور کمزور ہو گئے؟ عوام الناس کہنے لگے کہ اے حکما کے پیشواؤ! ہم میں شہوات نفسانی بڑھ گئی ہیں اور لذات دنیوی کی کثرت ہو گئی ہے تو ہم کو جو مٹا ہوت کے اعتبار سے عظیم معلوم ہے وہ ہیں، انہوں نے قوی کر دیا اور ہماری نعتیں اور ارادے ضعیف ہو گئے تو ہم ہماری بمرکم وزن اٹھانے سے عاجز ہو گئے پس آپ لوگ ہماری ان سے باز گشتگی پر راضی ہو جائیں اور اس تمام بار کو اٹھانے میں ہمیں کلفت میں نہ ڈالیں۔ ان حکما نے ان سے کہا کہ اے احمقوں کے گروہ! کیا تم جہل کے بیٹے اور گمراہی کے بھائی

نہیں ہو جبکہ مشقت تم کو ہلکی معلوم ہو رہی ہے اور سعادت بھاری لگ رہی ہے۔ تو عوام الناس نے ان سے کہا کہ اسے سرداران حکما و قائدان علماء! ہم آپ کی اس سختی و عتاب سے اللہ کی معفرت کے ساتھ پناہ چاہتے ہیں۔ اور ہم آپ کی طرف سے ہمیں عار کی طرف نسبت دینے پر عفو خداوندی کے مدد سے پردہ پوشی چاہتے ہیں لہذا ہم کو ملامت نہ کیجئے اور نہ ہماری کمزوری کو عار سے تعبیر کیجئے اور نہ ہم پر جہالت کا عیب لگائیے۔ کیونکہ اگر ہم اللہ کی اطاعت اسی کے عفو اور عمل و حسنات کی کمزوری کے ساتھ کریں گے اور ہم اس کی عبادت اس شخص کی طرح کریں گے جس نے ہماری خواہشات کو باطل ٹھہرایا تو ہم اپنی حاجت کو حاصل کر لیں گے اور اللہ ہماری غایت کو پالے گا۔ اور ہم پر رحم کرے گا جس طرح اس نے ہم کو خلق کیا۔ پس جبکہ انہوں نے یہ کہا تو ان کے علماء نے ان سے اقرار لیا اور ان کے قول سے راضی ہوئے اور انہوں نے پورے سال نماز، روزہ، عبادت اور صدقات ادا کئے۔ پس جب وہ لوگ یہ کر چکے تو کانہوں نے کہا کہ اس ذات نے کہ جس نے اس مولود کی پیدائش پر قوم پر احسان کیا تھا بتایا ہے کہ یہ بادشاہ فاجر ہوگا اور نیک بھی ہو سکتا اور سرکش بھی ہو سکتا ہے اور متواضع بھی۔ کبھی برائیوں کا مرتعب ہو سکتا ہے اور کبھی احسان کرنے والا بھی۔ نجومیوں نے بھی ایسا ہی بتایا۔ تو ان کانہوں اور نجومیوں سے کہا گیا کہ تم نے یہ باتیں کس طرح کہیں؟ کانہوں نے کہا کہ ہم نے یہ بات اس لئے کہی کہ (اس کی پیدائش پر) پہلے ہو و لعب، گانا بجانا اور باطل کام کئے گئے اور اس کے بعد اس کے بر خلاف کیا گیا۔ نجومیوں نے جواب دیا کہ ہم نے یہ بات زہرہ اور مشتری کے اعتدال سے پہلے کہی ہے کیونکہ یہ بچہ شرافت کے ساتھ پیدا ہوا ہے جسکی عظمت کی تعریف نہیں کی جاسکتی اور خوشی و شادمانی کی حالت میں پیدا ہوا ہے کہ جس کی مکمل توصیف نہیں کی جاسکتی اور ظلم کے ساتھ پیدا ہوا ہے جس کی برداشت کی کوئی طاقت و قدرت نہیں رکھتا پس وہ ظلم و جور و ستم کے امکانات جاری کرے گا اور (محقوق) غصب کرے گا اور اس کے محبوب ترین وہ لوگ ہوں گے جو اس کی موافقت کریں گے اور وہ لوگ ناپسندیدہ ہوں گے جو ان تمام امور میں اس کی مخالفت کریں گے اور وہ شباب، صحت، قدرت، ظفر اور فکر کی وجہ سے غافل و بے خبر رہے گا اور وہ اسی میں سرور و مسرت میں ہٹلا رہے گا۔ اور وہی دیکھے گا جو اس کو پسند ہے اور وہی سنے گا جس کی اس کو خواہش ہے۔

الغرض جب وہ بیستیس سال کا ہو گیا تو اس نے بادشاہ کی اولاد میں سے عورتوں، بچوں اور بگولیوں، پردہ دار (باعزت) عورتوں، بہترین گھوڑوں (سواروں)، رنگ برنگ کی عمدہ سواریوں اور اپنی کنیزیوں اور خدمت گاروں کو جمع کیا اور ان کو بہترین لباس پہننے کو کہا اور یہ کہ وہ اچھی طرح بناؤ سنگھار کریں اور اس نے حکم دیا کہ مطلع شمس (مشرق) کے بالمقابل جلسہ گاہ تعمیر کریں۔ جس کی زمین کی سطح سونے کی ہو جو مختلف جو اہرات سے جڑی ہوئی ہو۔ جس کی لمبائی ایک سو بیس گز اور چوڑائی ساٹھ گز ہو۔ جس کی چھت اور دیواریں سونے سے آراستہ ہوں اور جو قیمتی زیورات، طرح طرح کے جو اہرات اور منظم و مرتب عمدہ موٹیوں سے سجائیں جانے اور طرح طرح کے اموال و متاع کے لئے حکم دیا جو

خزانوں سے نکالے گئے اور راستہ کے دونوں جانب چن بیٹے گئے اور اس نے اپنے لشکر، اپنے اصحاب، مطیح افراد، کاتبوں (پرچہ نویوں)، حاجیوں، اپنے شہر کی عظیم ہستیوں اور علماء کو حکم دیا کہ وہ آئیں تو وہ سب کے سب مسلح سوار بہترین شکل و صورت میں اپنی صفوں میں حاضر ہو گئے پھر وہ اپنے مقامات اور اپنے اعلیٰ درجات کے مطابق گھوڑوں کے ساتھ کمرے ہو گئے، اس بادشاہ نے یہ خیال کیا تھا کہ وہ بہترین و اعلیٰ نظارہ دیکھے گا کہ جس سے اس کو مسرت حاصل ہوگی اور اس سے آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ پھر وہ چل کر نشست گاہ تک پہنچا اور تخت سلطنت پر جاوہ افروز ہوا تو سب نے اس کو سجدہ کیا۔ اس نے اپنے ایک غلام سے کہا کہ میں نے اپنی رعایا کا ایک اچھا منظر دیکھا اور اب میں اپنی شکل و صورت دیکھنا چاہتا ہوں چنانچہ اس نے آئینہ منگوا یا اور اپنے چہرہ کو دیکھا۔ وہ اس آئینہ میں نگاہوں کو الٹ پلٹ کر رہا تھا کہ اس کو اپنی ڈاڑھی کے سیاہ بالوں میں سفید اولے کی طرح ایک بال نظر آیا جس سے اس کو خوف و دہشت محسوس ہوئی اور اس کی حالت متغیر ہو گئی اور دل شکستگی و حزن کا اس کے چہرے سے اظہار ہونے لگا اور ساری مسرت اس سے رخصت ہو گئی۔

پھر اس نے اپنے دل میں کہا کہ یہ وقت میرے شباب میں موت کی خبر دے رہا ہے اور مجھ پر ظاہر کر رہا ہے کہ میرا ملک و اقتدار جانے والا ہے اور مجھ کو تخت سلطنت سے اتار کر ذلیل کیا جائے گا۔ پھر کہنے لگا کہ یہ وقت موت کا پیش خیمہ اور مصیبت کا قاصد ہے جس کو مجھ سے کوئی حاجب نہیں روک سکتا اور نہ کوئی محافظ اسکو منع کر سکتا ہے۔ یہ مجھ کو موت سے مطلع کر رہا ہے اور زوال سلطنت کی خبر دے رہا ہے۔ میری خوبصورتی اور رعنائی کو تبدیل کرنے اور میری خوشی اور مسرت کو شتم کرنے اور قوت کو گھٹانے میں کتنی جلدی کر رہا ہے۔ جس کو مجھ سے قلعوں اور پناہ گاہوں نے نہیں روکا اور جس کو مجھ سے لشکروں نے نہیں بچایا۔ یہ وقت شباب و قوت کا چھیننے والا ہے۔ عزت و ثروت کا مٹانے والا، لوگوں میں جدائی پیدا کرنے والا، دوستوں اور دشمنوں میں میراث تقسیم کرنے والا، ذرائع زندگی کو سبھا کرنے والا، لذتوں کو بد مزہ کرنے والا، عمارتوں کو ویران کرنے والا، مجمع کو متفرق کرنے والا، بلند کو پست کرنے والا اور قوی کو ذلیل کرنے والا ہے۔ اس نے مجھ پر بوجھ لاد دیتے ہیں اور اس نے مجھ کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔

پھر وہ خوف زدہ اپنی نشست گاہ سے اتر کر چلا اور لشکروں کو جمع کیا، اپنے با اعتماد لوگوں کو بلایا اور کہنے لگا: اے سرداران قوم جب سے میں بادشاہ ہوا اور تمہارے امور کا نگران ہوا میں نے تمہارے بارے میں کیا کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اے پسندیدہ بادشاہ ہمارے نزدیک آپ کی مصیبت عظیم ہے اور ہماری جانیں آپ کی اطاعت میں مصروف ہیں پس آپ اپنے اس امر کے متعلق بتائیے۔ بادشاہ نے کہا کہ ایک خطرناک دشمن رات کے وقت آیا تم نے اس کو مجھ سے نہیں روکا حالانکہ تم میری جماعت اور اعتبار کے لوگ ہو۔ ان لوگوں نے کہا: اے بادشاہ یہ دشمن کہاں ہے؟ کیا وہ دکھائی دیتا ہے یا نہیں دکھائی دیتا؟ بادشاہ نے کہا: وہ اثر کے ذریعہ دکھائی دیتا ہے اور اسے آنکھیں نہیں دیکھتی ہیں۔

ان صاحبان علم و غر نے کہا: اے بادشاہ آپ ہماری جماعت کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے پاس برکت و سکون ہے اور ہم میں صاحبان عقل و فہم ہیں آپ ہمیں اس کو دکھائیے ہم اس کو آپ سے (اس قوت کے ذریعے) روک دیں گے۔ بادشاہ نے کہا: میں تم پر بے خبری میں زیادہ مغرور ہو گیا اور میں نے غلط جگہ اور موقع پر اعتماد کیا جبکہ میں نے تم کو اپنے لئے ڈھال بنایا۔ میں نے تم کو مال و دولت عطا کیا۔ جہارے شرف کو بلند کیا اور تم کو لوگوں کے مقابلہ میں خواص بنایا تاکہ تم دشمنوں سے میری حفاظت کرو اور ان سے میری نگہداری کرو۔ پھر اس کے بعد میں نے شہروں کی تعمیر اور مضبوطی اور ہتھیاروں کی فراہمی سے جہاری تائید و مدد کی اور تم سے غم و اندوہ کو دور کیا اور تم کو شجاعت دکھانے اور حفاظت کے لئے فارغ رکھا اور میں جہاری ذمہ دارانہ نگہبانی پر قطعاً نگر مند نہ ہوا اور اپنی عمارت پر حوادث کے آنے سے ذرا بھی نہیں گھبرایا کیونکہ تم اس میں رہتے ہو اور اطاعت گزار ہو۔ میں چلا تو تم میرے ارد گرد تھے اور میں آیا تو تم میرے ساتھ تھے پس اگر یہ جہاری کمزوری کی وجہ سے ہوا تو میں اپنے امور میں تم پر بھروسہ کرنے سے نہیں ڈرتا اور اگر یہ جہاری غفلت کا نتیجہ ہے تو تم نصیحت کے اہل نہیں ہو اور نہ میری شفقت و مہربانی کے لائق ہو۔ ان لوگوں نے کہا: اے بادشاہ جس چیز کا دفاع ہم لشکر اور قوت سے کر سکتے ہیں تو وہ ان شاء اللہ ہماری زندگی میں آپ تک نہیں پہنچ سکے گی لیکن جو چیز دکھائی نہیں دیتی تو اس کا علم ہم کو نہیں ہے اور اس سے ہماری قوت و قدرت عاجز ہے۔

بادشاہ نے کہا: کیا تم نے عہد نہیں کیا تھا کہ تم مجھ کو میرے دشمن سے بچاؤ گے؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ بادشاہ نے کہا: کیا تم مجھ کو اس دشمن سے محفوظ رکھو گے جو مجھ کو نقصان پہنچائے یا اس دشمن سے جو نقصان و ضرر نہ پہنچائے انہوں نے جواب دیا: اس دشمن سے آپ کی حفاظت کریں گے جو آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ بادشاہ نے کہا: کیا تمام ضرر رساں لوگوں سے یا کسی ایک سے؟ انہوں نے کہا: ہر ضرر رساں سے۔ بادشاہ نے کہا: قاصد آزمائش میرے پاس آچکا ہے کہ جو مجھے میری سلطنت کے متعلق خبر دے رہا ہے کہ جو کچھ میں نے آباد کیا ہے اس کو وہ اجاڑ دینا چاہتا ہے اور جو کچھ میں نے تعمیر کیا ہے اس کو ڈھانے کا ارادہ کر رہا ہے۔ اور جو کچھ میں نے اکٹھا کیا ہے اس کو متفرق و منتشر کرنا چاہتا ہے اور جو کچھ میں نے اسلحہ کی ہے اس کو فاسد کر دینا چاہتا ہے۔ جو کچھ میں نے جمع کیا ہے اس کو فضول خرچ کرنا چاہتا ہے، جو میں نے کام کئے ہیں ان میں تبدیلی کرنا چاہتا ہے۔ جس کو میں نے مضبوط بنایا ہے دشمن اس کو کمزور کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اسی میں دشمنوں کی خوشی بھی ہے جن کی آنکھیں میری مصیبت کی وجہ سے ٹھنڈک محسوس کریں گی۔ اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ میری وجہ سے ان کے سینوں کو شفاء عطا کرے اور اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ جلد ہی میرے لشکر کو شکست دیدے گا، میری اہمیت کو وحشت میں تبدیل کر دے گا، میرے عروہ و وقار کو طعم کر دے گا اور میرے بچوں کو یتیم کر دے گا۔ میری جماعتوں کو منتشر کر دے گا۔ میری وجہ سے میرے بھائیوں، اہل و عیال اور اعزاء اقرباء کو دردناکی میں مبتلا کر دے گا۔ وہ میرے اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ میرے دشمنوں کا قیام میرے

محملات میں کرائے گا۔

ان لوگوں نے کہا: اے بادشاہ ہم آپ کی حفاظت لوگوں، درندوں، دہریے کیدوں اور زمین پر رہنے والے جانوروں سے کر سکتے ہیں۔ لیکن اس آزمائش سے بچانے اور روکنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا: مجھ کو اس سے بچانے کی کوئی ترکیب ہے؟ انہوں نے جواب دیا: نہیں۔ بادشاہ نے کہا: لیکن تم اس کے علاوہ ایک چیز کی طاقت رکھتے ہو۔ انہوں نے پوچھا: وہ شے کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا: وہ بیماریاں اور غم و اندوہ ہیں۔ ان لوگوں نے کہا: اے بادشاہ! ان اشیاء کو قوت لطیف عطا ہوئی ہے اور یہ جسم اور نفس پر حملہ آور ہوتی ہیں اور وہ آپ تک بغیر پہنچانے پہنچ جاتی ہیں اور آپ سے چھپ نہیں سکتی ہیں اگرچہ پوشیدہ ہوں۔ بادشاہ نے کہا: اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے۔ انہوں نے پوچھا: وہ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا: وہ کیا چیز ہے جو قضا سے سہقت لے گئی؟ انہوں نے کہا: اے بادشاہ! وہ کون شخص ہے جو قضا پر غائب آئے اور پھر مغلوب نہیں ہو، کون ہے وہ شخص جس نے اس کی مخالفت اور دشمنی کی اور وہ مغلوب نہیں ہوا؟ بادشاہ نے کہا: تمہارے پاس اس کا کیا حل ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ہم قضا کے دفاع کی قدرت نہیں رکھتے۔ اور توفیق و درستگی سے دور ہیں۔ پس آپ کیا چاہتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا: میں ایسے ساتھی چاہتا ہوں جو دوامی عہد کریں اور میرے وفادار رہیں اور ان کی برادریاں محبت میرے لئے برقرار رہے اور موت ان کو مجھ سے حجاب میں نہ رکھ سکے اور بلا و آزمائش ان کو میری ہم نشینی سے روک نہ سکے، ان کے لئے میری صحبت سے محرومی محال ہو اور وہ مجھ کو تنہا نہ چھوڑیں خواہ میں مر ہی جاؤں۔ اور اگر میں زندہ ہوں تو وہ مجھ کو کسی دوسرے کے سپرد نہ کریں۔ مجھ سے امر موت کا دفاع کریں۔ جس سے تم عاجز ہو۔ انہوں نے کہا: وہ کون لوگ ہیں جن کی تعریف و توصیف آپ نے کی ہے؟ بادشاہ نے کہا: وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تمہاری درستگی کو ناسد کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا: اے بادشاہ! کیا آپ ہم پر اور ان پر احسان نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے اخلاق مکمل ہیں اور آپ بہت مہربان ہیں؟ بادشاہ نے کہا: اب تمہاری ہم نشینی میرے لئے زہر قاتل ہے اور تمہاری اطاعت میں گراں گوشتی و ناچینائی اور تمہاری موافقت میں گونگا پن ہے۔ ان لوگوں نے کہا: اے بادشاہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ بادشاہ نے کہا: تمہاری ہم نشینی تو نگری اور مالدار کی وجہ سے ہے اور تمہاری موافقت جمع ہونے پر ہے اور تمہاری اطاعت و فرمانبرداری انتظار غفلت کی وجہ سے ہے۔ تم نے مجھ کو معاد سے روکا اور میرے لئے دنیا کو نشت بنایا اور اگر تم مجھ کو نصیحت کرتے اور مجھ کو موت کے متعلق بتاتے اور یاد دہانی کراتے اور اگر تم مجھ سے ہمدردانہ رویہ رکھتے تو تم مجھ سے اس آزمائش و امتحان کا تذکرہ کرتے اور میرے لئے وہ جمع کرتے جو باقی رہتا اور میرے لئے کثرت مال و دولت کی کوشش نہ کرتے جو فنا ہو جائیں گے تو یہ منفعت جس کا تم نے دعویٰ کیا ہے ضرر و نقصان ہے۔ اور یہ محبت عداوت ہے میں نے ان کو تم پر لوٹا دیا ہے، ان میں سے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔

ان لوگوں نے کہا: اے صاحب حکمت و پسندیدہ اخلاق بادشاہ! ہم نے آپ کی بات سمجھ لی اور دل سے اس کو قبول کر لیا اور ہم آپ کے خلاف کوئی دلیل نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ ہم نے مقام جت دیکھ لیا ہے۔ لہذا ہمارا اپنی جت سے سکوت اختیار کرنا ملک کی تباہی، ہماری دنیا کی ہلاکت اور ہمارے دشمن کی شہادت کا باعث ہوگا۔ ہم کو ایک امر عظیم پیش آگیا ہے جس نے ہمیں آپ کی رائے سے تبدیل کر دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا: بے خوف ہو کر کہو اور جو کچھ تم پر ظاہر ہو بغیر مرعوب ہوئے بیان کرو۔ کیونکہ میں اب تک ہٹ دھرمی اور غرور و تکبر سے مغلوب تھا اور آج میں ان دونوں پر غالب ہوں۔ آج تک میں ان دونوں (حمیت و غرور) کے زرا اثر تھا۔ لیکن آج میرا ان دونوں پر غلبہ ہے۔ اور میں آج تک تمہارا بادشاہ تھا اور میں نے تم کو مملوک (غلام) بنا رکھا تھا اور آج میں آزاد ہوں اور تم میری سلطنت کے آزاد کردہ لوگ ہو۔ ان لوگوں نے کہا: اے بادشاہ! آپ کس سبب سے مملوک (غلام) تھے جبکہ آپ ہمارے بادشاہ تھے؟ بادشاہ نے کہا: میں اپنی خواہشات کا غلام، جہل کا بندہ اور خواہشات نفسانی کا بھاری تھا۔ تو میں نے اس اطاعت کو خود سے قطع کر دیا۔ اور ان سب کو میں پشت ڈال دیا۔ ان لوگوں نے کہا: اے بادشاہ! آپ نے کس چیز کا تہیہ کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا: میں نے عجز اور آخرت کے لئے خلوت نشینی، اس غرور کے ترک، اس بار کو اپنی پشت سے اتارنے، موت کے لئے تیار ہونے اور بلا، کے دفاع کا تہیہ کیا ہے کیونکہ اس کے اٹھنے نے مجھ کو بتایا کہ اس کو حکم دیا گیا ہے کہ جب تک مجھے موت نہ آئے وہ میرے ساتھ رہے اور قیام کرے۔ ان لوگوں نے کہا: اے بادشاہ! وہ کون سا اٹھتی ہے جو آپ کے پاس آیا اور جس کو ہم نے نہیں دیکھا اور جو موت کا پیش خیمہ ہے جس کو ہم نہیں پہچانتے؟ بادشاہ نے جواب دیا: اس کا مقصد یہ سفیدی ہے جو سیاہی میں چمک رہی ہے اور جو ہر شے میں زوال کو جمع جمع کرتا رہی ہے تو ان لوگوں نے اس کو تسلیم کیا اور یقین کر لیا کہ موت کا پیش خیمہ وہ بلا ہے کہ جس کا راستہ یہ سفیدی ہے۔

ان لوگوں نے کہا: اے بادشاہ! کیا آپ سلطنت چھوڑ دیں گے؟ اور اپنی رعایا کو رلائیں گے اور آپ اپنی قوم کو بغیر والی و وارث چھوڑنے کے گناہ سے کیوں خوف نہیں کھاتے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ سب سے بڑا اجر لوگوں کی خیر خواہی اور بھلائی چاہنے میں ہے۔ اور یہ کہ بہترین اصلاح قوم و جماعت کی فرمانبرداری ہے۔ پھر آپ اس گناہ سے ذرا بھی خوف نہیں کرتے؟ اور خواص کی اصلاح کے اجر کی امید سے زیادہ عوام کی ہلاکت اور تباہی کے گناہ سے بچنے کی فکر کرنا چاہیے کیا آپ کو معلوم نہیں کہ افضل عبادت عمل ہے اور سب سے زیادہ محنت عمل حکمرانی اور امور مملکت کی انجام دہی ہے پس اے بادشاہ (آپ میں جتنی قدرت و طاقت ہو) اپنی رعایا پر توجہ مبذول کریں، اپنی تدبیر سے ان کی بہتری چاہیں کیونکہ آپ جتنا ان کی بہتری کے لئے کام کریں گے اتنا ہی اجر آپ کو ملے گا۔ اے بادشاہ! کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اپنی قوم کی درستی کے اختیار سے ہاتھ اٹھالیں گے (الگ ہو جائیں گے) تو یہ ان کی تباہی اور بربادی چاہنے کا مصداق ہوگا پس ان کے بارے میں آپ بارگناہ اس سے بڑھ کر اٹھائیں گے کہ جتنا اپنے خواص کے لئے اجر چاہتے ہیں۔

اے بادشاہ: کیا آپ کو معلوم نہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس نے نفس کو برباد کیا تو وہ اپنے نفس کے لئے سبب فساد ہوا اور جس نے اس کو درست حالت میں رکھا تو اس نے اپنے جسم کو درست حالت میں رکھا۔ اور اپنی رعایا کو چھوڑ دینے سے بڑھ کر کون سا فساد ہو سکتا ہے کہ جس کے آپ پیشوا اور رہنما ہیں اور اس قوم کے ساتھ ترک تعلق کر کے کہ جس کے ناظم آپ ہیں۔ اے بادشاہ آپ اس سے الگ رہیں گے اور لباس شاہی اتار دیں گے جو کہ دنیا و آخرت کے شرف کا وسیلہ ہے؟ بادشاہ نے کہا: جو کچھ تم نے بیان کیا میری سمجھ میں آگیا اور جو باتیں تم لوگوں نے کہی ہیں میری عقل میں آگئی ہیں اگر میں بادشاہت کو تم پر عدل و انصاف کرنے اور اللہ تعالیٰ سے اجر کے لئے چاہوں تو میں تنہا تمہارے بارے میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیا تم سب لوگ دنیا اور اس کی خواہشات و لذات کے مشتاق و شیدا آئی نہیں ہو؟ اور نہ مجھے اس کا یقین ہے کہ میں اس حال پر باقی رہوں گا جس کو میں چھوڑ دینا اور ترک کرنا چاہتا ہوں۔ تو اگر میں ایسا کروں گا تو میں غفلت کی حالت میں مراؤں گا جو مجھے سخت سلطنت سے اتار کر زمین بوس کر دے گی اور وہ مجھ کو دنیا، سونے سے بچنے ہوئے لباس اور نفیس جواہرات کے بجائے سنی کا لباس پہنا دے گی اور کٹھادہ جگہ کے بعد تنگ جگہ میں داخل کر دے گی اور کرامت و شرافت کے بعد لبادہ رسوائی پہنا دے گی تو میں تنہا ہو جاؤں گا اور اس تنہائی میں تم لوگوں میں سے کوئی میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ تم مجھ کو آبادی سے نکال کر ویرانے کے سپرد کر دو گے۔ اور میرے گوشت کو وردوں، پرندوں اور کیڑوں کوزوں کے لئے چھوڑ دو گے۔ اور مجھے جبرئیل اور اس سے بڑھ کر شیر کھالیں گے۔ میرا جسم کیڑوں سے پُر اور سزی ہوئی لاش کی طرح ہو جائے گا۔ ذلت میری ساتھی ہوگی اور عزت میرے لئے اجنبی ہوگی۔ تم لوگ مجھ سے زیادہ محبت کے اظہار میں دفتنانے میں جلدی کرو گے۔ اور مجھے اور میرے اعمال قدیمہ اور گزرے ہوئے گناہوں کے درمیان تنہا چھوڑ دو گے تو یہ حسرت مجھ کو دراشت میں ملے گی اور مجھ کو انجام میں ندامت ملے گی۔ اور تم لوگوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ مجھ کو نقصان پہنچانے والے دشمن سے بچاؤ گے۔ اس وقت تمہارے پاس اس کو روکنے کی طاقت نہیں ہے اور نہ تمہارے پاس قوت و قدرت ہے اور نہ کوئی راستہ ہے۔ اے لوگو! میں خود کو

قریب دے رہا ہوں یا تم فریب دے رہے ہو؟ اور تم نے پر فریب اور بیہودہ باتوں کا جال لگا رکھا ہے۔

تو ان لوگوں نے اپنے پسندیدہ بادشاہ سے کہا: ہم وہ نہیں ہیں جو تمہیں اور آپ بھی وہ نہیں ہیں جو تمہیں اور ہمیں بھی اس نے بدل دیا ہے جس نے آپ کو بدل دیا ہے اور اسی نے ہم کو تبدیل کر دیا ہے جس نے آپ کی حالت میں تغیر پیدا کیا ہے تو آپ ہماری توبہ کو رد نہ فرمائیں اور ہم کو مفید مشورہ و نصیحت فرمائیے۔ بادشاہ نے کہا: (فی الحال) میں تمہارے اس عمل و فعل کے ساتھ قیام کرتا ہوں لیکن جب تم اس کے برخلاف کرو گے تو تم سے جدا ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ بادشاہ اپنے ملک پر سلطنت کرتا رہا اور اس کا تمام لشکر اس کی سیرت پر عمل کرتا رہا۔ اور وہ عبادت و خدمت میں مصروف رہے۔ ان کا ملک سرسبز و شاداب ہو گیا، ان کے دشمن مغلوب ہو گئے اور ان کی سلطنت میں اضافہ ہوا۔

اور اسی طریقہ و سیرت پر تیس سال گزر گئے تاہم وہ بادشاہ مرگیا اور مجموعی طور پر وہ پونہ سھ سال زندہ رہا۔
یوڈاسف نے کہا: میں اس قصہ کو سن کر بہت خوش ہوا لہذا اس جیسا کچھ اور بیان کیجئے جو میری خوشی اور شکر
رب میں زیادتی کا باعث ہو۔

حکیم نے کہا: عوام کا خیال ہے کہ نیک بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اور اس کے لشکری خوف خدا رکھتے تھے
اور اس کی عبادت کرتے تھے اور اس کے باپ کی سلطنت پر حملے ہوتے رہتے تھے اور ان کے درمیان تفرقہ تھا لیکن شہزادہ
ان کے شہروں سے دشمن کو کم کرتا تھا اور ان لوگوں کو ہر میزگاری، خوف خدا، اللہ سے امداد چاہنے اور اس کی نگہبانی و
پناہ کے لئے اکساتا تھا۔ جب وہ بادشاہ ہوا تو اس نے اپنے دشمن کو مغلوب کیا، رعایا کو یکجا کیا اور شہروں میں درستی
پیدا کی اور اپنے ملک کا انتظام کیا۔ پھر جب اس نے خود پر فضل الہی دیکھا تو مال و دولت نے اس کو سرکش اور متکبر بنا
دیا اور وہ بہک گیا اور یہاں تک کہ اس نے عبادت الہی کو ترک کر دیا اور اس کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اور جو اللہ کی
عبادت کرتے تھے ان کے قتل میں سرگرمی دکھائی۔ اس کی حکومت کافی عرصہ تک قائم رہی اور اس کی مدت کافی طویل
ہو گئی اور لوگ اس کی بادشاہت سے پہلے جس حق پر تھے اسے بھول گئے، نشہ میں سرشار ہو گئے، اس کے احکامات کی
اطاعت میں لگ گئے، گمراہی کی طرف دوڑ پڑے اور اسی بیچ پر برقرار رہے پھر اسی ماحول میں ان کے بچوں نے پرورش پائی
ان میں کوئی شخص اللہ کی بندگی نہیں کرتا تھا اور اس کا نام تک نہیں لیتا تھا۔ اور وہ سوائے اس بادشاہ کے اللہ کو نہیں
مانتے تھے۔ حالانکہ شہزادہ نے اپنے باپ کی زندگی میں اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ کبھی بادشاہ ہو تو اطاعت الہی کے
سلسلہ میں ایسے امور انجام دے گا جو اس سے قبل بادشاہوں نے انجام نہیں دیتے تھے اور نہ وہ اس کی قدرت و استعداد
رکھتے تھے۔ مگر جب وہ بادشاہ بنا تو اس نے اپنی پہلی رائے اور نیت کو بھلا دیا اور بدست شہابی کی طرح نشہ میں مخمور
ہو گیا۔ نہ اس کا نشہ اترا اور نہ ہوش میں آیا۔ بادشاہ کے احسان مندوں میں ایک مرد صالح بھی تھا جو اس کے مصاحبوں
میں زیادہ قدر و منزلت رکھتا تھا تو اس کو بادشاہ کی دین میں گمراہی اور اللہ سے عہد کی فراموشی پر دکھ اور غم ہوا اور جب
بھی وہ چاہتا کہ اس کو نصیحت کرے تو وہ اس کے حد سے گزرنے اور سرکشی کا ذکر کرتا اور اس بادشاہ کی حدود مملکت
میں کوئی شخص اس کے علاوہ ایسا باقی نہیں تھا جو اس کا مقام نہیں پہنچاتا ہو اور اس کے نام سے نہ پکارتا ہو۔

پھر وہ ایک دن بادشاہ کے پاس ایک کھوپڑی کو جو کپڑے میں لپیٹی ہوئی تھی لے کر آیا اور بادشاہ کی دائیں جانب
بیٹھ کر اس کھوپڑی کو کپڑے سے نکالا اور بادشاہ کے سامنے رکھ دیا پھر اس کو اپنے پیروں سے روندنا اور قرش پر رگڑتا رہا
یہاں تک کہ بادشاہ کی جانے فحشت اس کھوپڑی کے سببوں سے اٹ گئی۔ بادشاہ اس کے اس فعل سے بہت غضبناک
ہوا۔ اس بادشاہ کے مصاحبوں اور ہم نشینوں کی نگاہیں اس پر جم گئیں اور پاسبان لوگ اس کے قتل کے لئے شاہی حکم
کے انتظار میں تلواریں سونت کر مستعد ہو گئے۔ بادشاہ اس وقت اپنے غصہ کو روک رہا تھا اور اس زمانے کے بادشاہ

لوگوں پر اپنی قدرت اور ان کی سرکشی کے باوجود انتہائی مہربانی اور محبت اور اپنی رعایا کی خیر خواہی کے لئے اپنی سرزمین کو آباد رکھنے کے لئے اپنے غصہ کو ضبط کرتے تھے تاکہ (یہ روئے) ان کے فائدے کے حصول اور خراج کے وصول کرنے میں مددگار ثابت ہو جتنا چاہے بادشاہ اس حالت پر خاموش رہا جہاں تک کہ اس شخص نے اس کھوپڑی کو کپڑے میں پھینکا اور اس کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسرے اور تیسرے دن بھی اس نے یہی عمل کیا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ بادشاہ اس کھوپڑی کے متعلق کچھ دریافت ہی نہیں کر رہا ہے اور اس کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا نہیں چاہتا تو ایک دن اس کھوپڑی کے ساتھ ایک ترازو اور تھوڑی سے مٹی لیکر آیا اور ترازو کے ایک پڑے میں درہم رکھا اور دوسرے پڑے میں اس کے وزن کے برابر مٹی رکھی پھر اس مٹی کو اس کھوپڑی کی آنکھ میں ڈال دیا اور تھوڑی سے مٹی لے کر اس کھوپڑی کے منہ میں ڈالی۔ پس جب بادشاہ نے اس کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تو اس سے صبر نہ ہو سکا اور اس نے اس کی حرکات کی تہہ تک پہنچنا چاہا تب اس سے کہا: میں سمجھ رہا ہوں کہ تم نے یہ جرات اس لئے کی ہے کہ میں نے تمہیں یہ مقام عطا کیا ہے اور میری رہنمائی کرنا چاہتے ہو۔ حالانکہ تمہارے قدر و منزلت میرے نزدیک کافی زیادہ ہے۔ اور شاید جو تم نے عمل کیا ہے اس کا مقصد یہی تھا۔ اس آدمی نے بادشاہ کو سجدہ کیا اور اس کے قدموں کو بوسہ دیا اور کہنے لگا: اے بادشاہ! آپ اپنی عقل کے ساتھ متوجہ ہوئے کیونکہ کلام کی مثال اس تیر کی طرح ہے کہ جب اسے نرم زمین میں پھینکا جائے تو اس میں گڑ جاتا ہے۔ اور جب اسے سخت چیز پر مارا جاتا ہے تو وہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ اور گلے کی مثال اس بارش کی طرح ہے کہ جب وہ کسی اچھی زمین پر برستی ہے تو اس سے نباتات اگتی ہیں اور جب بخر زمین پر برستی ہے تو کچھ نہیں اگتا۔ اور یقیناً لوگوں کی خواہشیں جدا جدا ہیں اور عقل اور خواہش دونوں قلب پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اگر خواہش عقل پر غالب آجائے تو آدمی غصہ اور بیوقوفی کے کام کرتا ہے اور اگر خواہش مغلوب ہو جائے تو پھر آدمی کے کام میں کوئی لغزش نہیں پائی جاتی۔ میں سمجھتی ہوں ہی سے علم کو دوست رکھتا تھا اور اسی میں رغبت رکھتا تھا۔ اور میں اپنے تمام کاموں میں علم ہی کو موثر گردانتا تھا۔ پس میں نے دامن علم کو نہیں چھوڑا جتنا چاہے اس کے ذریعے بہترین مقام پر فائز ہو گیا اسی دوران ایک دن میں قبروں کے درمیان گھوم رہا تھا تو میں نے اس کھوپڑی کو بادشاہوں کی قبور سے نکلا ہوا دیکھا۔ وہ اپنے جسم سے جدا تھی تو بادشاہوں کے دہدہ کے باوصف اس کھوپڑی کا اپنے جسم سے جدا ہو کر اس طرح مجھے ملتا میرے لئے غم و غصہ کا باعث ہوا۔ پس میں نے اسے اٹھایا اور اپنے گھر لے گیا اس کھوپڑی کو دینا کا لباس پہنایا، گلاب اور خوشبوؤں کے پانی سے دھویا اور فرش پر رکھ دیا۔ اور دل میں کہا: اگر یہ بادشاہوں کی کھوپڑیوں میں سے ہے تو میرے اوپر اس کی عزت کرنا ضروری ہے اور اسے حسن و جمال سے آراستہ کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ غریبوں کی کھوپڑیوں میں سے ہے تو شرافت اور بزرگی کا یہ عمل اس کے لئے زیادتی کا سبب نہیں بنے گا۔ پس میں کافی دنوں تک اس کھوپڑی کے ساتھ رہی کرتا رہا۔ لیکن میں اس کی زندگی کے متعلق کچھ نہ جان سکا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے اپنے غلام کو بلایا جو

میرا انتہائی مددگار ہے پھر میں نے اس کھوڑی کی توہین کی۔ تو اس کی حالت توہین اور آرام دونوں صورتوں میں ایک جیسی پائی۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں حکما کے پاس پہنچا اور ان سے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ انہیں بھی اس کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ بادشاہ انتہائی عالم اور حکیم شخص ہے چنانچہ میں آپ کے پاس ڈرتا ہوا حاضر ہوا لیکن میرے لئے یہ ممکن نہ تھا کہ میں آپ سے کچھ دریافت کروں جہاں تک کہ آپ خود ہی مجھ پر اس کو ظاہر نہ کریں اور میں یہ بھی چاہتا تھا کہ اے بادشاہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کھوڑی بادشاہ کی ہے یا کسی غریب کی۔ کیونکہ جب میں نے اس کے امور کے متعلق غور و فکر کیا تو اس کی آنکھوں میں دیکھا کہ جہاں کچھ نہ تھا۔ اگر میں اس بات پر قادر ہوتا کہ آسمانوں کے پیچھے کیا ہے تو اس بات سے بھی مطلع ہو جاتا کہ آسمان کے اوپر کیا ہے۔ تو میں سوچتا رہا کہ وہ کونسی چیز ہے جو ان (گڑبوں) کو (آنکھوں سے) بھرتی ہے اور انہیں وہاں روکتی ہے۔ بالآخر میں نے ایک درہم وزن کی سنی لی (کہ آنکھ بھی تقریباً اتنے وزن کی ہوتی ہے) اور اسے گڑھے میں ڈال دیا۔ تب میں نے اس کے اندر دیکھا تو پایا کہ اس میں کوئی چیز نہیں ہے تو میں نے تھوڑی مٹی اور بھری لیکن وہاں نہ ٹہری تو اسے بادشاہ اگر آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایک غریب آدمی کی کھوڑی ہے تو میری دلیل آپ کے لئے یہ ہے کہ میں نے اس کو بادشاہوں کی قبروں کے درمیان سے پایا تھا۔ (میری درخواست ہے) آپ بادشاہوں اور غریبوں کی کھوڑیوں کو یکجا کریں۔ پس اگر یہ آپ (بادشاہوں) کی کھوڑیوں میں سے ہے کہ جنہاں فضیلت حاصل ہے تو جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی ہے اور اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بادشاہوں کی کھوڑیوں میں سے نہیں ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ اس بادشاہ کی کھوڑی ہے کہ جو ملک کا حسن و جمال تھا اور بس کی عزت تھا جیسا کہ آج کل آپ ہیں۔ پس اند آپ کو بچائے اس بات سے کہ آپ کی حالت بھی اس کھوڑی کی طرح ہو جائے کہ جو پیروں میں روندی جاتی ہے اور سنی میں مل جاتی ہے اور جسے کبڑے کھوڑے کھاتے ہیں اور کثرت کے بعد قلت محسوس کریں اور عزت کے بعد ذلیل ہو جائیں اور ایسے گڑھے میں ڈال دینے جائیں جس کی لمبائی چار گز کے قریب ہو۔ اور آپ کے ملک کا کوئی اور وارث ہو جائے۔ آپ کا تذکرہ منقطع ہو جائے۔ اور آپ کے کاموں میں فساد پیدا ہو جائے اور جنہیں آپ نے بزرگی دی ہے وہ ذلیل کر دینے جائیں اور جن کو آپ نے ذلیل سمجھا ان کا اکرام کیا جائے۔ اور آپ کے دشمن خوش ہوں اور آپ کے مددگاروں کو ناپود کر دیا جائے اور آپ کے درمیان مٹی حاصل ہو جائے۔ پس اگر ہم آپ کو پکاریں گے تو آپ نہیں سنیں گے اور اگر ہم آپ کا اکرام کریں گے تو آپ قبول نہیں کریں گے اور اگر آپ کی توہین کریں گے تو آپ غضبناک نہیں ہوں گے۔ پس آپ کی اولاد یتیم ہو جائے گی اور آپ کی بیویاں بیوہ ہو جائیں گی اور آپ کے خاندان والے قریب ہے کہ آپ کی بیویوں (کی زوجیت) کو تبدیل کر دیں۔

پس جب بادشاہ نے سنا تو اس کا دل غمگین ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور اس کی زبان سے لفظ دیل (ہانے والے) نھنا شروع ہوا۔ جب اس آدمی نے یہ دیکھا تو اس نے محسوس کر لیا کہ اس کی بات بادشاہ پر

اثر انداز ہوئی ہے اور اس کی بات نے بادشاہ میں کیفیت درو پیدا کر دی ہے تو اس کی جرات میں اضافہ ہوا اور جو اس نے کہا تھا اس کی تکرار کی اور اس نے بادشاہ سے کہا: اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کو (یہاں موجود) میرے گرد عظیم (اور طاقتور) لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے بادشاہ نے کہا: میری عمر کی قسم کہ میں تمہاری گفتگو کو سمجھ گیا ہوں اور مجھے صحیح صورتحال نظر آگئی ہے۔

جب لوگوں نے یہ خبر سنی تو اہل فضل اور ان جیسے لوگ متوجہ ہوئے اور اس کے لئے دعائے خیر کی۔ اور وہ اس امر پر باقی رہا یہاں تک کہ اس نے دنیا سے مفارقت اختیار کی۔

شہزادے سے کہا: آپ اس جیسی چیزیں کچھ اور اضافہ فرمائیں۔

حکیم نے کہا: لوگ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور چاہتا تھا کہ اس کے ایک بیٹا ہو اور اس نے اپنے علاج کے لئے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا جو اس کے اس عمل کو کامیاب کر سکتا۔ جب کافی مدت گزر گئی تو اس کی بیویوں میں سے ایک کو حمل قائم ہوا اور اس سے ایک بچہ ہوا۔ جب وہ پرورش پا کر جوان ہو گیا تو اس نے ایک دن کہا: تمہاری بازگشت (قیامت) تمہیں برائیوں سے روکتی ہے پھر دوسری بات یہ کہی کہ تم بوڑھے ہو جاؤ گے پھر تمہاری بات کہی کہ اس کے بعد تم مر جاؤ گے پھر اس کی حالت اس طرح ہو گئی جس طرح بچے حرکات کرتے ہیں۔ اس کی پیدائش کے بعد بادشاہ نے علماء اور نجومیوں کو بلایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ تم میرے بیٹے کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے اس کے بیٹے کے بارے میں غور و خوض کیا تو اس کے بارے میں عاجز ہو گئے اور کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا کہ ان لوگوں کو ذرا بھی علم نہیں ہے تو اس لڑکے کو دائیوں کے سپرد کر دیا۔ کہ اسے دودھ پلائیں مگر ایک نجومی نے کہا کہ عنقریب یہ امام ہوگا اور اس کے اوپر ایسے پاسبان مقرر کرنے چاہئیں جو اس سے کبھی جدا نہ ہوں یہاں تک کہ جب وہ جوان ہو گیا تو ایک دن اپنی دائیوں اور پاسبانوں سے چھپ کر باہر نکل گیا اور ایک بازار میں پہنچا جہاں سے ایک جنازہ گزر رہا تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا: یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ایک آدمی مر گیا ہے۔ اس نے دریافت کیا: اس کو کس چیز نے مار دیا ہے؟ لوگوں نے کہا: بڑھا پے نے اور زمانے نے اس کو فنا کر دیا پس اس کی موت قریب ہوئی اور وہ مر گیا۔

اس نے دریافت کیا: کیا وہ سندرست اور زندہ تھا اور چلتا پھرتا اور کھانا پیتا تھا؟

لوگوں نے کہا: جی ہاں!

پھر وہ آگے بڑھا اور اس نے ایک بہت بوڑھے شخص کو دیکھا تو وہ اہتائی حیرت زدہ ہوا پھر اس جوان نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ ایک بوڑھا شخص ہے کہ جس کی جوانی رخصت ہو گئی ہے اور بڑھا پا گیا ہے۔ اس جوان نے دریافت کیا: کیا وہ بچے سے جوان ہوا تھا؟

لوگوں نے کہا: جی ہاں!

پھر وہ آگے بڑھا تو اس نے ایک مریض شخص کو دیکھا جو اپنی پشت کے بل لیٹا ہوا تھا۔ وہ اسے کھڑا دیکھتا رہا اور تعجب کرتا رہا۔ میں لوگوں سے پوچھا: یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا: یہ ایک بیمار آدمی ہے اس نے دریافت کیا: کیا یہ صحت مند تھا پھر مریض ہوا؟ لوگوں نے اثبات میں جواب دیا۔

تو یہ جوان کہنے لگا: خدا کی قسم اگر تم سچے ہو تو یقیناً لوگ مجھوں اور دیوانے ہیں۔

پس اس وقت ایک غلام نے اس کو بازار میں جایا پتخانچہ سے لیکر واپس ہوا اور گھر میں پہنچا دیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے چھت کی ایک کڑی دیکھی تو پوچھا: یہ کس طرح کی ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یہ کڑی پہلے درخت تھی پھر لکڑی بن گئی پھر اس کو کاٹا گیا جب یہ گھر تعمیر کیا گیا تو اس کڑی کو یہاں رکھ دیا گیا۔

اس دوران بادشاہ نے اس پر مقرر کردہ لوگوں کو بھیجا تاکہ وہ دیکھیں کہ وہ کیا کچھ گفتگو کرتا ہے انہوں نے بتایا: وہ جو کلام کرتا ہے ہمارے خیال میں وہ دوسرا ہے۔ جب بادشاہ نے غلام سے یہ بات سنی تو اس نے غلام کو بلایا اور ان سے اس بارے میں دریافت کیا لیکن ان میں سے کسی کو اس کے متعلق کچھ علم نہ تھا۔ سوائے اس پہلے آدمی کے اور بادشاہ نے اس کی بات کا انکار کیا تھا پھر بعض علما نے بادشاہ سے کہا: اگر آپ اس کی شادی کر دیں تو جو بات آپ دیکھ رہے ہیں اس سے ختم ہو جائے گی۔ اور وہ (اس صورت حال کو) قبول کر لے گا، عہتمند ہو جائے گا اور اس میں بصیرت پیدا ہو جائے گی۔ تو بادشاہ نے اپنی مملکت میں ایسی عورت کی تلاش کے لئے لوگوں کو بھیجا۔ پس ایک ایسی عورت ملی جو بہت حسین تھی۔ پتخانچہ بادشاہ نے اس کی شادی اپنے لڑکے سے کر دی۔ جب شادی کا ولیمہ ہوا تو کھیل کود کرنے والوں نے ہولعب شروع کیا اور ستار نواؤں نے ستار نوازی شروع کی۔ پس جب اس لڑکے نے ان کی ملی جلی آوازیں سنیں تو دریافت کیا: یہ کیا ہے؟ اسے جواب دیا گیا: یہ لوگ کھیل کود کرنے والے اور گانے بجانے والے ہیں جو آپ کی شادی پر جمع ہو گئے ہیں۔ تو وہ لڑکا خاموش ہو گیا۔ پس جب لوگ شادی کے ہنگامے سے فارغ ہوئے اور شام ہوئی تو بادشاہ نے اپنی بہو کو بلا کر کہا: میرے اس لڑکے کے علاوہ کوئی بیٹا نہیں جب تم اس کے پاس جاؤ تو اس سے لطف و مہربانی کے ساتھ پیش آنا اور اس سے قربت حاصل کرنا اور اس سے محبت کا اظہار کرنا۔ پس وہ عورت جب اس کے پاس آئی اور اس کے قریب ہونا چاہا تو اس لڑکے نے کہا: تھوڑی سی مہلت دو۔ کیونکہ رات لمبی ہے۔ اللہ تمہارے بارے میں مجھے برکت دے۔ اتنی در صبر کرو کہ ہم کچھ کھا پی لیں۔

پس کھانا آیا تو انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ جب وہ فارغ ہوئے تو اس نے اس عورت سے شراب لی اور وہ عورت خود بھی شراب پی کر سو گئی۔

پس وہ لڑکا کنبہانوں اور پوکیاڑوں سے بچ کر چپکے سے گھر سے نکل گیا۔ لیکن شہر پہنچ کر متردد ہوا آخر اہل شہر

میں اسے اپنے جیسے قد و قامت کا ایک جوان نظر آیا۔ وہ اس کے پیچھے گیا اور اس سے اپنے لباس کو تبدیل کر لیا۔ اس طرح اس کی ہیئت بدل گئی۔ پھر دونوں شہر سے نکلے اور پوری رات چلتے رہتے لیکن صبح کے قریب ڈھونڈے جانے کے خوف سے ایک جگہ چھپ گئے۔

ادھر صبح اس کی بیوی سے جو اونگھ رہی تھی لوگوں نے دریافت کیا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے اس نے کہا کہ وہ ابھی تو میرے ساتھ تھا۔

اب ان کا معمول یہ ہوا کہ رات کو سفر کرتے اور دن کو کہیں چھپے رہتے یہاں تک کہ وہ اپنے باپ کی سلطنت سے نکل کر ایک دوسرے بادشاہ کی سلطنت میں پہنچ گئے۔ یہ دونوں جس مملکت میں پہنچے تھے وہاں کے بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جس کے لئے طے کیا گیا تھا کہ وہ اس سے شادی کرے گی جسے وہ پسند کرے گی۔ چنانچہ اس کے لئے شاہراہ عام پر ایک بالائخانہ تعمیر کرایا گیا تھا جہاں بیٹھ کر وہ ہر آنے جانے والے کو دیکھتی رہتی تھی۔ ایک دن اس کی نظر بازار میں گھومنے والے جوان پر پڑی جس کا ساتھی بوسیدہ اور کہنہ لباس میں تھا تو شہزادی نے بادشاہ کے پاس اطلاع کرائی کہ مجھے ایک جوان پسند آگیا ہے اگر آپ میری شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس سے کر دیں۔ یہ بات ملکہ تک پہنچائی گئی تو وہ خوش ہو کر اپنی بیٹی کی پاس پہنچی تاکہ اس لڑکے کو دیکھے۔ چنانچہ شہزادی نے اس لڑکے کو دکھایا۔ ملکہ خوش ہو کر بالائخانہ سے اتری اور بادشاہ تک پہنچی اور اسے بتایا: آپ کی بیٹی ایک شخص کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ پس بادشاہ نے بھی اسے دیکھنے کی خواہش کی۔ چنانچہ اسے بھی وہ شخص دکھایا گیا۔ بادشاہ نیچے اترا اور اسے حکم دیا کہ وہ دوسرا لباس پہنے اور اس سے دریافت کیا کہ وہ کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس نے جواب دیا: مجھ سے آپ کا یہ کیا سوال ہے کہ میں مسکینوں میں سے ایک مسکین ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا: تم پردیسی ہو جہاں رنگ و روپ اس شہر والوں جیسا نہیں ہے۔ جوان نے جواب دیا: میں پردیسی نہیں ہوں۔ بادشاہ نے اس سے اس بات کا ثبوت مانگا تو اس نے اس سے انکار کر دیا۔ اس پر بادشاہ نے جاسوسوں کو اس کام پر مامور کیا کہ وہ اس کے علم میں آئے بغیر یہ دیکھیں کہ وہ کہاں رہتا ہے پھر واپس اپنے اہل خانہ کے پاس آیا اور کہا: مجھے لگتا ہے کہ یہ شخص کسی بادشاہ کا بیٹا ہے اور تم لوگ اسے جس طرف مائل کرنا چاہتے ہو اسے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔

تاہم بادشاہ نے ایک شخص کو بھیج کر اسے بلایا۔ تو اس جوان نے کہا: میری کوئی حیثیت نہیں اور (اس کے باوجود) بادشاہ مجھے بلا رہا ہے حالانکہ مجھے اس سے کوئی حاجت نہیں جبکہ وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ میں کون ہوں۔ بہر حال وہ ناگواری خاطر کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اسے کرسی پر بٹھایا۔ اپنی بیوی اور بیٹی کو بھی بلایا جو بادشاہ کے پیچھے بس پردہ بیٹھ گئیں۔ بادشاہ نے اس جوان سے کہا: میں نے تمہیں ایک اچھے کام کے لئے بلایا ہے میری ایک بیٹی ہے تو تم پر دیکھ گئی ہے چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی اس سے کر دوں۔ اگر تم مسکین و محتاج

ہو تو ہم تمہیں غنی نہ تو نگر بنا دیں گے اور جہادی قدر و منزلت اور شرف کو بڑھا دیں گے۔ اس جوان نے کہا: آپ مجھے جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں البتہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے لئے ایک مثال پیش کر دوں۔ بادشاہ نے کہا: بیان کرو۔

جوان نے کہا: لوگ کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ کا ایک بیٹا تھا جس کے دوستوں نے اسے دعوت طعام دی تو اس نے ان کے ساتھ جا کر خوب کھایا پیا اور وہ سب بدمست ہو کر سو گئے۔ شہزادہ رات کے درمیانی حصہ میں بیدار ہوا اور اس کو گھر والے یاد آئے تو اپنے گھر کی طرف چلا۔ اس کے دوستوں میں سے کوئی بھی جاگ نہیں رہا تھا۔ مدہوشی میں راستہ طے کرنے کے درمیان اس کو ایک قبر نظر آئی تو اس کو گمان ہوا کہ وہ اس کے گھر میں داخل ہونے کی جگہ ہے تو وہ اس قبر کے اندر داخل ہو گیا اس کو مردے کی بو سن گئی دی تو حالت نشہ کی وجہ سے اس نے خیال کیا کہ وہ خوشبو میں ہیں جب اس نے ہڈیوں کو دیکھا تو یہ سمجھا کہ اس کا راستہ بستر ہے۔ جب اس نے ایک جسم کو دیکھا جو ابھی تازہ تازہ مرا تھا اور اس نے اس کی بو محسوس کی تو سمجھا کہ اس کی بیوی ہے تو اس نے اس کے گھے میں بائیں ڈال دیں اور اس کا بوسہ لیا اور ساری رات اس سے کھیلتا رہا۔ جب (نشہ دور ہونے سے) اس کی حالت درست ہوئی اور اس نے اس منظر کو دیکھا کہ وہ ایک مردہ جسم کے اوپر ہے اور اس سے بدبو آرہی ہے اور اسکے کپڑے اور کھال گندے ہو گئے ہیں تو قبر اور مردہ کی یہ حالت دیکھ کر اور اپنی ہیئت کڈائی چھپانے کے لئے اس نے شہر کے دروازہ کی طرف رخ کیا جو کھلا ہوا تھا چنانچہ اس سے گزر کر اپنے کتبہ والوں کے پاس پہنچ گیا اور اس نے خیال کیا کہ یہ اس پر انعام کیا گیا ہے کہ اس حالت میں کسی شخص سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ تب اس نے ان کپڑوں کو اتار کر غسل کیا، دوسرا لباس پہنا اور خوشبو لگائی۔

اے بادشاہ! آپ کو اللہ عمر عطا فرمائے کیا آپ کی رائے میں وہ جس حالت میں تھا اسکی طرف رجوع کر سکتا ہے؟ بادشاہ نے کہا: نہیں۔ وہ جوان کہنے لگا: میں وہی شخص ہوں۔ پھر بادشاہ اپنی بیوی اور بیٹی کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا: میں نے تم کو بتایا تھا کہ اس کو اس بارے میں کوئی رغبت نہیں ہے جس کی تم دعوت دے رہی ہو۔ شہزادی کی ماں نے کہا: آپ نے میری بیٹی کی تعریف و توصیف میں کمی کی ہے اس لئے میں اس کے ساتھ علیحدہ گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے اس جوان سے کہا: میری بیوی باہر آکر تم سے گفتگو کرنا چاہتی ہے حالانکہ اس سے پہلے اس نے کسی غیر مرد کے لئے ایسا نہیں کیا۔ اس جوان نے کہا: اگر وہ یہ چاہتی ہے تو باہر نکلے۔ پس وہ باہر آکر بیٹھی اور جوان سے کہنے لگی کہ اس مسئلہ کی طرف آؤ جو اللہ نے تم کو خیر و رزق میں سے دیا ہے پھر میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گی۔ اگر تم اس کو دیکھ لو کہ اللہ نے اس کو کیا جمال و شکل عطا کی ہے تو تم رشک کر دو گے۔ جوان نے بادشاہ کی طرف دیکھ کر کہا: کیا میں آپ کو ایک بات نہ سناؤں۔ بادشاہ نے کہا: ہاں سناؤ۔

اس جوان نے کہا: چند چوروں نے یہ سٹے کیا کہ وہ شاہی خزانہ میں داخل ہو کر چوری کریں گے تو انہوں نے خزانہ کی دیوار میں نقب لگائی اور اندر داخل ہو کر ایسا مال دستار دیکھا جو اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس اشیا میں ان کی نظر ایک سونے کے منکے پر پڑی جس پر سونے سے مہر لگائی گئی تھی تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ اس سونے سے مہر شدہ منکے سے بہتر کوئی شے نہیں ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بہتر ہے جو ہم نے دیکھا ہے تو اس منکے کو اٹھا کر وہ چل دیئے یہاں تک کہ وہ ایک جنگل میں داخل ہوئے اور انہیں ایک دوسرے پر اعتماد نہ تھا فوراً انہوں نے اس منکے کو کھولا تو اس کے اندر سانپ تھے جنہوں نے اوپر اٹھ کر ان سب کو مار ڈالا۔

اے بادشاہ! اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے کہ آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ اس کو اس امر کا علم ہوا ہو جیسا ان چوروں کے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ وہ ایسے منکے میں اپنا ہاتھ ڈال دے جس میں سانپ ہوں؟ بادشاہ نے کہا۔ نہیں اس جوان نے کہا کہ میں وہی شخص ہوں۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہا: آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں بذات خود نکل کر اس سے گفتگو کروں۔ اگر وہ جوان مجھ کو اور میرے حسن اور شکل و صورت کو دیکھ لے گا اور جو اللہ نے مجھ کو جمال سے نوازا ہے تو وہ قبول کرنے سے انکار نہیں کر سکے گا۔ بادشاہ نے جوان سے کہا: میری بیٹی چاہتی ہے کہ تمہارے پاس نکل کر آئے حالانکہ وہ کبھی کسی کے سامنے نکل کر نہیں آئی ہے۔ اس لڑکے نے کہا: اگر وہ یہ چاہتی ہے تو سامنے آئے۔ پس وہ نکل کر سامنے آئی اور وہ چہرہ مہرہ، قد و قامت اور آنکھ، ناک اور جسمانی اعتبار سے بہت حسین تھی اس نے اس جوان کو سلام کرنے کے بعد کہا: کیا تم نے کبھی مجھ جیسا دیکھا ہے یا ایسا کامل خوبصورت اور بے عیب حسین تمہاری نظر سے گزرا ہے؟ مجھے تم سے عشق ہے اور تم سے محبت کرتی ہوں۔ تو جوان نے بادشاہ کی طرف دیکھ کر کہا: کیا میں آپ کو ایک مشہور قصہ نہ سناؤں؟ بادشاہ نے کہا: ہاں ضرور سناؤ۔

نوجوان نے کہا: لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے دو بیٹے تھے ان میں سے ایک بیٹا دوسرے ملک چلا گیا جہاں اس کو ایک گھر میں محبوس کر دیا گیا اور وہاں کے بادشاہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ جو بھی ادھر سے گزرے وہ اس کو ہتھ مارے اس طرح کافی عرصہ گزر گیا۔ اس کے بھائی نے اپنے والد سے اجازت طلب کی کہ وہ اپنے بھائی تک پہنچ کر اس کو چھڑانے کی جدوجہد کرے۔ بادشاہ نے کہا: سفر کی تیاری کرو اور اپنے ساتھ جو مال و متاع اور ساز و سامان باربرداری لینا چاہتے ہو لے لو۔ چنانچہ وہ زاد راہ اور ساز و سامان باربرداری لے کر چل پڑا اس کے ساتھ گانے بجانے والیاں اور اجرت پر رونے پینے والی عورتیں بھی تھیں۔ جب وہ اس بادشاہ کے شہر (دارالسلطنہ) کے قریب پہنچا تو بادشاہ کو اس کی آمد کی اطلاع دی گئی۔ اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے استقبال کے لئے جائیں اور اس کے لئے حکم دیا کہ وہ شہر کے باہر قیام کرے تو وہ لڑکا وہیں قیام پذیر ہو گیا جب وہ اطمینان سے بیٹھا تو اپنے مال و متاع کو کھولا اور اپنے جوانوں کو حکم دیا کہ اس مال و متاع کے بیچنے میں ان لوگوں کے ساتھ سہل انگاری سے کام لیں اور نرمی کا رویہ

انتیہار کریں۔ پس انہوں نے ایسا ہی کیا جب اس شہزادہ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ فرید و فروخت میں مشغول ہو گئے ہیں تو وہ خاموشی سے نکل کر شہر میں داخل ہو گیا۔ اس کو قید خانہ کا علم تھا کہ جس میں اس کے بھائی کو قید کیا گیا تھا۔ اس نے قید خانہ میں داخل ہو کر اس پر ایک کنکری پھینکی تاکہ تپ چل سکے کہ اس کا بھائی زندہ ہے۔ جب اس قیدی بھائی کو کنکری لگی تو اس نے چیخ ماری اور کہنے لگا کہ تم نے مجھ کو مار ڈالا۔ تو اس وقت شاہی محافظ خوف زدہ ہو گئے اور اس کے پاس جا کر دریافت کیا کہنے لگے کہ تم نے چیخ کیوں ماری اور تمہارا کیا حال ہے اور تم کو کیا ہوا ہے اور ہم نے تم کو بوتا ہوا کبھی نہیں دیکھا حالانکہ ہم تم پر سختی کرتے تھے اور جو کوئی یہاں سے گزرتا تھا وہ تم کو مارتا بھی تھا اور ہتھ بھی پھینکتا تھا۔ اس آدمی نے ایک کنکری ماری تو تم اس سے چیخ پڑے؟ اس قیدی نے کہا کہ لوگ میرے بارے میں علم نہیں رکھتے تھے اور اس شخص نے جاسنے کے باوجود مجھ کو کنکری ماری ہے۔

اس قیدی کا بھائی اپنے ٹھکانہ اور مال و متاع پر واپس آیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ کل میرے پاس آنا میں تم کو ملبوسات و ہتھیار اور ساز و سامان دکھاؤں گا جو تم نے کبھی نہ دیکھا ہوگا تو اس دن لوگ واپس چلے گئے جب دوسرا دن ہوا اور وہ سب کے سب پھر جمع ہوئے تو اس نے ملبوسات کو کھول کر دکھانے کا حکم دیا اور گانے بجانے والی اور اجرت پر آہ و بکا کرنے والی عورتوں اور ہر قسم کے لوگوں کو جن سے لوگ بود و لعب میں مشغول ہو جائیں حکم دیا تو انہوں نے ان لوگوں کی شان میں بولنا شروع کیا اور لوگ مشغول و مصروف ہو گئے تب وہ قید خانہ میں آیا اور اپنے بھائی کی بیڑیاں کاٹ دیں اور اس سے کہنے لگا کہ میں تمہارا علاج کراؤں گا اس کے بعد جھین جھپٹ کر اس کو شہر سے نکال کر لے گیا اس کے زخموں پر مرہم لگایا۔ جب اس کو آرام آگیا تو اس کو راستہ کا پتہ بتایا اور کہا: اب جاؤ تم کو سمندر میں ایک کشتی نظر آنے لگی پس وہ چھپتا چھپاتا چلتا رہا کہ اچانک ایک گہرے گڑھے میں گر پڑا جس میں ایک اڑدہا موجود تھا اور گڑھے پر ایک شاہ درخت تھا جب اس کی نظر درخت پر پڑی تو اس نے اس کے اوپر بارہ خوفناک شکنیں دیکھیں اور اس کے نچلے حصہ میں بارہ تلواریں تھیں جو نیام سے باہر نکلی ہوئی تھیں۔ وہ برابر تحمل کے ساتھ جدوجہد کرتا رہا اس اثنا میں اس کے ہاتھ میں اس درخت کی ایک شاخ آگئی جس سے لٹک کر اس نے نجات پائی پھر چلتے چلتے سمندر تک پہنچا جہاں ساحل سمندر پر کشتی موجود تھی جس پر سوار ہو کر وہ اپنے ملک اور پھر اپنے گھر والوں تک پہنچ گیا۔ اے بادشاہ! اللہ آپ کی عمر دراز کرے کیا آپ نے کسی شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اتنی مصیبتوں کو دیکھا ہو اور جھیلنا ہو وہ پھر ان کی طرف پلٹ جائے؟ بادشاہ نے کہا نہیں۔ اس جوان نے کہا: میں ہی وہ شخص ہوں۔ اس پر بادشاہ، اس کی بیوی اور بیٹی مایوس ہو گئے مگر اس شہزادے کے ساتھ جو جوان آیا تھا اس نے شہزادے کے کان میں کہا: اس شہزادی کے لئے میری بات کریں اور اس کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ تو شہزادے نے بادشاہ سے عرض کیا: یہ میرا ساتھی کہہ رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بادشاہ شہزادی کا نکاح اس سے کر دے۔ بادشاہ نے کہا: میں ایسا نہیں کروں گا۔ شہزادہ نے کہا کہ کیا میں آپ کو ایک مشہور

واقعہ نہ سناؤں ؟

بادشاہ نے کہا: ہاں ضرور سناؤ۔ شہزادہ نے کہا کہ ایک شخص کچھ لوگوں کے ساتھ کشتی میں سفر کر رہا تھا۔ چند شب و روز وہ سفر کرتے رہے پھر ان کی کشتی سمندر میں ایک جزیرہ کے قریب ٹوٹ گئی وہ سب کے سب اس شخص کے علاوہ غرق ہو گئے اور اس کو سمندر نے اس جزیرہ میں پھینک دیا۔ یہ جزیرہ غزل بیابانی کا مسکن تھا یہ بھوت جزیرہ سے سمندر کی طرف دیکھتے رہتے تھے یہاں وہ شخص ایک بھوتی پر عاشق ہو گیا اور اس سے نکاح کر لیا جب صبح ہوئی تو اس بھوتی نے اس کو قتل کر کے اپنے ساتھیوں میں اس کے اعضاء تقسیم کر دیئے۔ اور یہی اتفاق ایک دوسرے آدمی کو پیش آیا کہ اس کو بھوتوں کے بادشاہ کی بیٹی لے گئی اور اس شخص نے اس بھوتی کے ساتھ رات گزار لی اور اس دوسرے شخص کو پہلے والے شخص کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا معلوم تھا تو وہ خوف کے مارے رات بھر نہیں سویا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ بھوتی سو گئی تو وہ شخص چپکے سے نکل کر ساحل پر پہنچا۔ اچانک اس کو ایک کشتی نظر آئی تو اس نے کشتی والوں کو پکارنا شروع کیا اور فریاد کی تو انہوں نے اس کو کشتی پر سوار کر لیا اور بالآخر وہ لپٹے گھر والوں میں پہنچ گیا۔ جب بھوت صبح کو اٹھے تو وہ اس بھوتی کے پاس آئے جس نے اس شخص کے ساتھ پوری رات گزار لی تھی۔ اس سے کہنے لگے: وہ آدمی کہاں ہے جس نے تیرے ساتھ رات گزار لی ہے؟ وہ کہنے لگی: وہ میرے پاس سے فرار ہو گیا۔ تو انہوں نے اس کو جھٹلایا اور کہنے لگے: تو نے اس کو تنہا کھلایا اور خود کو ہم پر ترجیح دی ہے اور اگر تو اس کو لے کر نہیں آتی تو ہم تجھ کو قتل کر دیں گے۔ پتا چلے وہ پانی میں سفر کر کے اس کے گھر تک پہنچ گئی اور گھر میں داخل ہو کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اور اس سے کہنے لگی کہ تم کو اس سفر میں کن حالات سے سائبند پڑا۔ اس شخص نے کہا: میں ایک مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نجات دلانی اور پورا واقعہ بیان کیا۔ اس بھوتی نے پوچھا: تجھ کو چھینکارا مل گیا؟ اس شخص نے کہا: ہاں۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں وہی بھوتی ہوں اور تم کو لینے کے لئے آئی ہوں۔ اس شخص نے کہا: میں تجھ کو قسم دیتا ہوں کہ جو تو مجھ کو ہلاک کرے۔ میں تجھے ایک آدمی کا پتہ بتاتا ہوں (جس سے تیرا مطلب پورا ہو جائے گا)۔ اس بھوتی نے کہا کہ میں تم پر رحم کھاتی ہوں پھر وہ دونوں چل کر بادشاہ تک پہنچے۔ بھوتی نے بادشاہ سے کہا: اے بادشاہ تم پر اللہ نیکی کرے۔ ہماری بات سنو۔ میں نے اس آدمی سے شادی کی اور یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے مگر یہ مجھ سے کراہت کرتا ہے اور میری صحبت اس کو ناگوار گزرتی ہے تو ہمارے بارے میں غور فرمائیے۔ جب بادشاہ نے اس کو دیکھا تو اس کا حسن و جمال دیکھ کر مبہوت ہو گیا پس بادشاہ نے تظنیہ میں اس آدمی کے کان میں یہ بات کہی کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کو چھوڑو اور میں اس سے شادی کر لوں گا۔ اس آدمی نے کہا: بادشاہ جس بات کو اچھا سمجھتا ہے تو اللہ اس کو بہتر کرے۔ پھر بادشاہ نے اس بھوتی سے شادی کر لی اور اس کے ساتھ تمام رات گزار لی اور سحر کے زور پر اس بھوتی نے بادشاہ کو ذبح کر دیا، اس کے اعضاء کے ٹکڑے کئے اور ان کو اٹھا کر اپنے ساتھیوں کی طرف چلی گئی۔

اے بادشاہ! کیا آپ نے کسی شخص کو دیکھا ہے جو ان تمام حالات کا علم رکھتا ہو پھر وہ جزیرہ کی طرف چلا جائے؟ بادشاہ نے کہا: نہیں۔ یہ حکایت سن کر شہزادی کے طلبگار نے شہزادے سے کہا: میں تم سے جدا نہیں ہوں گا۔ اور جو میں نے ارادہ کیا تھا اس کی مجھ کو ضرورت نہیں۔ پھر وہ دونوں بادشاہ کے پاس سے چلے گئے۔ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور زمین کی سیاحت کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ذریعہ اکثر لوگوں کو راہ راست دکھائی۔ شہزادہ کی شان میں اضافہ ہوا اور چاروں طرف اس کا تذکرہ ہونے لگا۔ پھر اس کو اپنے والد کی یاد آئی اور دل میں کہنے لگا کہ اگر میں ان کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں تو مجھے چاہیے کہ جس حالت میں وہ ہیں میں ان کو نجات دلاؤں تب اس نے اپنا قاصد بھیجا اس نے جا کر بادشاہ سے کہا کہ آپ کے بیٹے نے آپ کو سلام کہا ہے اور اس نے اس کی بابت تمام قصہ بیان کیا پھر اس کے والد اور گھر والے اس شہزادہ کے پاس آئے اور اس نے انہیں اس حالت سے نجات دلائی جس میں وہ ہمتا تھے۔

اس کے بعد بلوہر اپنی قیام گاہ پر واپس گیا اور وہ یوزاسف کے پاس چند دنوں تک بار بار آتا رہا جہاں تک کہ اس نے جان لیا کہ اس نے اس کے لئے دروازہ کھول دیا ہے اور راہ ثواب کی طرف اس کی رہنمائی کر دی ہے۔ اس کے بعد بلوہر ان شہروں کو چھوڑ کر دوسرے شہروں کی طرف چلا گیا۔ جس کی بناء پر یوزاسف کچھ عرصہ حزین و غمگین رہا تاہنگہ وہ عابد و زاہد لوگوں تک پہنچا تاکہ ان تک حق کی آواز پہنچانے اور اس کی طرف بلائے۔ خداوند عالم نے اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جو تنہائی میں اس پر ظاہر ہوا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا پھر اس فرشتہ نے یوزاسف سے کہا: ہمارے لئے خیر اور سلامتی ہے تم جاہل درندوں اور ظالموں کے درمیان ایک انسان ہو۔ میں حق کی طرف سے تمہارے پاس سلام لے کر آیا ہوں اور مخلوق کے معبود نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ میں تم کو بشارت دوں اور تمہارے دنیاوی و اخروی امور کو جو تمہاری نظر سے غائب ہیں یاد دلاؤں لہذا تم میری بشارت اور مشورہ کو قبول کرو اور میرے قول سے غفلت نہ برتو۔ تم دنیا سے بچو چھوڑو اور دنیاوی خواہشات کو ترک کر دو اور اس ناپائیدار ملک و سلطنت سے بے رغبتی اختیار کرو۔ یہ فانی سلطنت و غلبہ جس کو دوام نہیں اور جس کا انجام ندامت اور حسرت ہے چھوڑ دو اور اس سلطنت کو طلب کرو جو زائل نہیں ہوگی اور اس خوشی کو طلب کرو جو ختم نہیں ہوگی اور اس راحت کو طلب کرو جس میں تغیر نہیں ہوگا تم کو راست گفتار اور عادل ہونا چاہیے کیونکہ تم لوگوں کے پیشوا رہنا ہو کہ جنہیں تم جنت کی طرف بلائے ہو۔

جب فرشتے سے یوزاسف نے یہ سب کچھ سنا تو وہ بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گیا۔ اور کہنے لگا: میں احکام الہی کا اطاعت گزار ہوں اور اس کا حکم اس کا احسان ہے پس تم مجھ کو اپنے امر کے بارے میں حکم کرو اس لئے کہ میں تمہارا اور اس ذات کا شکر گزار ہوں جس نے تم کو میرے پاس بھیجا کیونکہ اس نے مجھ پر رحم فرمایا اور وہ مجھ پر مہربان ہے اور اس نے مجھ کو دشمنوں میں نہیں چھوڑا۔ میں اس ذات کی طرف کوشش کروں گا جس کی طرف سے تم یہ لے کر آئے ہو فرشتہ نے کہا: میں چند دنوں کے بعد واپس آؤں گا پھر تم کو جہاں سے نکال کر لے جاؤں گا تو تم حیار رہنا اور اس سے

خفقت نہ برتا۔ پس یوزاسف نے نکلنے کا پکا ارادہ کر لیا اور اس نے اس بارے میں پوری ہمت سے کام لیا اور اس کی اطلاع کسی کو نہیں دی یہاں تک کہ جب اس کے نکلنے کا وقت آگیا تو فرشتہ نصف رات میں آیا جب کہ لوگ سو رہے تھے۔ اور یوزاسف سے کہا: اٹھو اور چل پڑو اور تاخیر نہ کرو، چنانچہ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اور لوگوں میں سے کسی کو بھی اس راز کا پتہ نہ چلا سوائے اس کے وزیر کے کہ جب وہ سوار ہونا چاہتا تھا تو اس کے پاس وہ جوان رہنا آیا کہ جس کو اس نے شہروں کا مالک بنایا ہوا تھا۔ وہ آداب شاہی بجالایا اور دریافت کیا: اے شہزادے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اے مصلح اور حکیم کامل ہم اس وقت اچھائی دشواری میں مبتلا ہیں۔ کیا اس دشواری کی وجہ سے آپ ہم سے علیحدہ ہو رہے ہیں اور اپنے ملک اور اپنے شہروں کے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ اس لئے کہ جب سے ہم پیدا ہوئے عیش و عزت میں بڑھے اور ہم پر کوئی دشواری اور ناپسندیدہ چیز نازل نہیں ہوئی۔ کچھ ریز یوزاسف خاموش رہا پھر کہا: تم اپنے شہروں میں اپنے اہل مملکت کے گھروں میں قیام کرو کیونکہ مجھے جہاں بھیجا گیا ہے وہاں جانے والا ہوں اور اسی امر پر عمل پیرا ہوں۔ پس اگر تم میری مدد کر دو گے تو میرے عمل میں بھی حصہ دار بن جاؤ گے۔ پھر وہ سوار ہو کر قضاے الہی کے مطابق چلا۔

لیکن چلتے چلتے اسے گھوڑے سے اترا پڑا کیونکہ اس کا وزیر اس کے گھوڑے کی نگام پکڑے ہوئے تھا اور خوب آہ و بکا کر رہا تھا اور یوزاسف سے کہہ رہا تھا: میں کس طرح آپ کے والدین کا سامنا کروں گا اور میں کس طرح آپ کے بارے میں ان کو جوابدہ ہوں گا۔ اور وہ دونوں کس عذاب سے مجھے قتل کریں گے۔ اور آپ کس طرح اس سختی اور تکلیف کو برداشت کر سکتے ہیں جس کی آپ کو عادت نہیں ہے۔ اور کس طرح آپ وحشت میں مبتلا نہیں ہوں گے حالانکہ آپ ایک دن بھی کبھی تنہا نہیں رہے کیا آپ کا جسم بھوک، پیاس اور زمین اور مٹی کے ماحول کی جمبیلی کو برداشت کر سکتا ہے؟ پس شہزادے نے اس کو خاموش کیا اور اس سے اظہار ہمدردی کیا اور اسے اپنا گھوڑا اور علاقہ بھی عطا کیا۔ پس اس نے یوزاسف کے قدموں کو بوسہ دیا اور کہا: اے میرے سردار مجھے آپ اپنے پیچھے نہ چھوڑیں میں آپ کے ساتھ چلوں گا جہاں بھی آپ جائیں گے اس لئے کہ آپ کے بعد میرے لئے کوئی انعام و اکرام نہیں ہے اور اگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا اور اپنے ساتھ نہیں لے گئے تو میں صحرا میں نکل جاؤں گا اور کسی انسان کے گھر میں کبھی داخل نہیں ہوں گا۔ یوزاسف نے پھر اسے تسلی دی اور اظہار ہمدردی کیا اور کہا: اے وزیر تم اپنے دل میں سوائے اچھائی کے کوئی خیال نہ کرو۔ کیونکہ میں تمہیں بادشاہ کے پاس بھیج رہا ہوں اور تمہارے بارے میں اسے وصیت کر رہا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ کرم کے ساتھ پیش آئے اور تم سے حسن سلوک کرے۔

پھر اس نے شاہی لباس اتارا اور وزیر کو دیا کہ میرے لباس کو تم پہن لو اور اسے وہ یا قوت بھی دیا جسے وہ (تاج میں) سر پر رکھتا تھا۔ اور اس سے کہا: تم اپنے ہمراہ اسے اور میرے گھوڑے کو لے جاؤ۔ اور جب بادشاہ کے پاس پہنچے تو

اس کی تعظیم کے بعد یہ یاقوت اسے دے دینا اور میرا سلام عرض کرنا۔ اور کہنا کہ جب میں نے ہمیشہ رہنے والی اور فنا ہونے والی چیزوں میں غر کر کیا تو میں ہمیشہ رہنے والی چیزوں کی طرف راغب ہو گیا اور فانی چیزوں سے بے رغبتی اختیار کی اور جب مجھ پر اپنی اصلیت اور حسب کا اظہار ہوا تو میں نے ان کے درمیان اور دشمنوں اور عزیزوں کے درمیان جدائی اختیار کی پس میں نے دشمنوں اور عزیزوں کو چھوڑ دیا اور اپنی حقیقت اور حسب سے رشتہ منقطع کر لیا۔

جس دن میرے والد یاقوت کو دیکھیں گے تو ان کا دل خوش ہوگا اور جب میرا لباس تمہیں پہنے ہوئے دیکھیں گے تو مجھے یاد کریں گے اور میری اس محبت کا تذکرہ کریں گے جو مجھے تم سے ہے اس کے بعد میں تمہارے ہی ذریعے اپنے والد کو اس بات سے منع کرتا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی ناپسندیدہ عمل کریں۔ پس اس کا دزر واپس لوٹ گیا اور یوزاسف آگے بڑھ گیا۔ وہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک وسیع جگہ پہنچا اس نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا کہ ایک بہت بڑا درخت پانی کے چشمہ پر ہے۔ اور وہ بہت خوبصورت درخت تھا۔ اس کی متعدد شاخیں تھیں اور اس کا پھل اچھا تھا۔ اس پر اتنی تعداد میں پرندے تھے کہ جن کو گنا نہیں جاسکتا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر اسے خوشی اور مسرت محسوس ہوئی چنانچہ آگے بڑھ کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ اور وہ اپنے دل میں اس کی تاویل و تفسیر کر رہا تھا۔ اس نے اس درخت کو اس بشارت اور خوش خبری سے تشبیہ دی کہ جس کی طرف اسے بلایا گیا تھا۔ اور پانی کے چشمے کو حکمت اور علم سے تشبیہ دی اور پرندوں کی تشبیہ ان لوگوں سے دی کہ جو اس پر جھگڑنا کریں گے اور اس سے دین کو قبول کریں گے۔

ابھی وہ کھڑا ہی تھا کہ چار فرشتے (نظر) آئے جو اس کے سامنے چل رہے تھے۔ وہ بھی ان کے پیچھے چلا یہاں تک کہ وہ فضا نے آسمانی میں اسے اٹھا کر لے گئے اور اسے علم و حکمت میں سے وہ کچھ عطا کیا جو پہلے، درمیانی اور آخری چیزوں کے ذریعے اسے معلوم ہوا تھا (یعنی بشارت، علم و حکمت اور دین کی طرف راغب لوگ) اور وہ علم بھی دیا گیا جو آخر میں ہونے والا ہے۔ پھر اس کو زمین پر اتارا اور چاروں فرشتے اس کے ہم نشین بن کر رہے وہ ایک مدت تک ان شہروں میں قیام پذیر رہا۔ پھر وہ سرزمین سولایط پر پہنچا تو اس کے والد کو اس کے آنے کی اطلاع ملی پس وہ اور تمام معزز اراکین سلطنت آئے اور اس کا کافی احترام کیا۔ اس کے شہر والے بھی اپنے قربت داروں اور جاہ و حشم کے ساتھ اکٹھا ہو گئے اسے سلام کیا اور اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ اور یوزاسف نے ان کے لئے فرش بچھایا ان سے بہت سی باتیں کیں اور ان سے کہا کہ تم کان لگا کر میری باتیں سنو اور اپنے دلوں کو حکمت الہی کو غور سے سننے کے لئے قائم کر لو کہ جو نفسوں کا نور ہے اور اس علم پر اعتماد کرو جو راہ راست کا رہنما ہے۔ اور اپنی عقلوں کو بیدار کر لو اور حق و باطل اور گمراہی اور ہدایت کے درمیان جو فصل ہے اس کو سمجھو۔ اور یہ بات بھی جان لو کہ یہ وہ دین حق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل علیہم السلام اور پہلی صدیوں والوں پر نازل کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس صدی میں ہم کو پھر اس خصوصیت سے نوازا ہے۔ اور ہم پر اس نے احسان کیا اور اسی میں جہنم کی آگ ہے۔ نجات ہے مگر یہ کہ انسان آسمانوں پر نہیں پہنچ سکتا اور کوئی

شخص وہاں داخل نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ وہ ایمان میں کامل ہو اور عمل خیر کرے۔ پس اس سلسلے میں کوشش کرو تاکہ راحت دائمی اور وہ زندگی تمہیں مل جائے کہ جو تم سے کبھی جدا نہ ہو سکے۔ اور جو شخص تم میں سے دین پر ایمان لائے تو اس کا ایمان دنیاوی زندگی کے لالچ اور زمین کے مالک ہونے کی امید اور دنیا کے عطیات کی طلب پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ تمہارا دین پر ایمان آسمانی سلطنت کی طمع و نجات کی امید اور گمراہی سے نجات کی طلب اور آخرت میں راحت و خوشی کے حصول پر ہونا چاہیے۔ اس لئے کہ زمینی سلطنت اور اس کی بادشاہت داخل ہونے والی ہے۔ اس کی لذتیں منقطع ہونے والی ہیں۔ پس جو اس کے دھوکے میں آیا وہ ہلاک ہو گیا اور رسوا ہوا۔ اگر تم دینداروں کے موقف سے واقف ہو جاؤ جن کا دین حق پر مبنی ہے تو تم سمجھ لو کہ موت تمہارے جسموں کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور وہ جسموں کے ساتھ تمہاری روحوں کو بھی کچلتی رہتی ہے۔ اور یہ بھی جان لو کہ جس طرح پرندے (اپنی) زندگی اور دشمنوں سے نجات پر قادر نہیں ہیں مگر اپنی قوت بصارت اور بازوؤں اور پیروں کی مدد سے انہیں قدرت حاصل ہے اسی طرح انسان حیات اور نجات پر قادر نہیں ہے مگر اپنے عمل، ایمان اور عمل صالح اور بہترین کامل افعال کے ذریعے سے قدرت رکھ سکتا ہے تو اے بادشاہ آپ اور آپ کے ارکان سلطنت جو کچھ اس بارے میں سن رہے ہیں وہ اس پر غور کریں اور سمجھیں اور عبرت حاصل کریں اور اس سمندر کو عبور کریں کہ جس میں ہمیشہ سے کشتی موجود ہے اور ان بیابانوں کو طے کریں کہ جن میں ہمیشہ اپنی باربرداری کا سامان اور زادراہ مہیا رہتا ہے اور تم اپنے رستے پر چلتے رہو جب تک کہ چراغ تمہارے پاس رہے اور زاہدوں کے ساتھ نیکی کے خزانوں میں اضافہ کرو اور خیر اور عمل صالح میں ان کے شریک بن جاؤ۔ اور ان کی اچھی طرح اتباع کرو۔ اور ان کے مددگار بن جاؤ اور تم اپنے اعمال کے ساتھ اس طرح چلو کہ وہ تمہارے ساتھ نوری سلطنت میں داخل ہو جائیں۔ اور نور کو قبول کرو اور اپنے فرائض کو یاد رکھو اور خبردار دنیا کی آرزوؤں، شراب نوشی اور عورتوں کی خواہش پر اعتماد نہ کرنا۔ اور ہر برائی سے جو روح اور جسم کی ہلاکت کا سبب ہو بچنا۔ اور حقیقت، غضب، عداوت اور چغل خوری سے پرہیز کرنا۔ اور جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو کہ وہ تمہیں دی جائے تو وہ کسی دوسرے کو نہ دینا۔ تم اپنے قلوب کو پاک و صاف رکھنا، نیتوں کو صاف رکھنا تاکہ جب تمہیں موت آئے تو تم صحیح رستے پر ہو۔

پھر وہ سرزمین سولابط سے چل کر بہت سے مختلف شہروں اور بستیوں میں تبلیغ دین کرتا ہوا سرزمین قضمیر میں پہنچا اور چل پھر کر اس نے وہاں کے مردہ دل باشندوں کو ازسرنو حیات بخشی اور اس دوران میں اس کا انتقال ہو گیا اور جسمانی بہتت کو چھوڑ کر نور کی طرف پرواز کر گیا۔ اس نے اپنی موت سے پہلے اپنے شاگرد "ایابد" نامی کو بلایا جو اس کی خدمت کرتا تھا اور نگہبانی کے فرائض انجام دیتا تھا اور تمام امور میں مرد کامل تھا۔ اس نے اس سے وصیت کی کہ میرا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے تم سب اپنے فرائض، بجا آوری کی پاسداری کرو، حق سے نہ پھرنا اور زہد و عبادت کو اختیار کئے رہنا۔ پھر اس نے ایابد کو حکم دیا کہ وہ اس کے لئے ایک جگہ بنائے پھر اس نے اپنے دونوں پاؤں

پھیلائے اور اپنا سر مغرب کی سمت میں کیا اور اس کا چہرہ مشرق کی طرف تھا پھر اس کا انتقال ہو گیا۔

اس کتاب کے مصنف فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اور اسی جیسی معمرین کے بارے میں جو روایات وغیرہ ہیں وہ غیبت اور وقوع غیبت کے بارے میں قابل اعتماد نہیں ہیں کیونکہ غیبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام کی احادیث سے ثابت و صحیح ہے جس طرح اسلام اور اس کے قوانین و احکام ان کی احادیث سے ثابت ہیں۔ لیکن میرے خیال میں بہت سے انبیاء و رسل صلوات اللہ علیہم ان کے بعد بہت سے ہادیان برحق علیہم السلام اور بہت سے نیک بادشاہوں کو اللہ کی طرف سے غیبت حاصل ہوئی اور ہمارے مخالفین بھی اس کے منکر نہیں اور سب روایتیں صحیح ہیں اس کے سوا جو صحیح روایات کثیرہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام سے بارہویں امام حضرت قائم علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی غیبت کے سلسلے میں ہیں یہاں تک کہ زمانہ طویل ہو جائے گا اور دل سخت ہو جائیں گے اور لوگ ان کے ظہور سے مایوس ہو جائیں گے پھر اللہ ان کا دیدار کرانے کا اور زمین ان کے نور سے روشن ہو جائے گی، ان کے عدل و انصاف سے ظلم و جور ختم ہو جائے گا تو کوئی اس کی تکذیب نہیں کرتا باوجودیکہ اس کی نفاذ کا اقرار کرتے ہیں مگر یہ کہ وہ نور الہی کے نکھانے کا قصد و ارادہ رکھتے ہیں اور اس کے دین کو باطل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کو پسند نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو کامل کرے اور اپنے کلمہ کو بلند کرے اور حق کی حقیقت ظاہر کرے اور باطل کو باطل ثابت کرے اگرچہ مخالفین اور تکذیب کرنے والوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اللہ کا صالحین سے بذریعہ لسان سید الانبیاء صلوات اللہ علیہ وآلہم بہی وعدہ ہے۔

اس حدیث اور اس کتاب میں اس جیسی حدیث کے تذکرے سے کوئی دوسرے معنی مراد نہیں ہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ تمام موافقین و مخالفین ان جیسی احادیث کی طرف مائل و راضی ہیں پھر جب وہ اس کتاب کی وجہ سے اس سفر میں کامیاب ہو جائیں تو پورے مسئلہ سے اچھی طرح واقف ہونے کی تمنا کریں پھر وہ منکر و ناظر اور شک و اقرار کرنے والے سے واقف ہو جائیں۔ اقرار کرنے والا اس کے ذریعے اپنی بصیرت میں اضافہ کرے اور جو منکر ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر حجت قائم ہو۔ اور جو شک میں مبتلا ہیں کہ اقرار کریں یا انکار کریں تو ان کو امر غائب اور غیبت پر بحث اور تفتیش و جستجو کی طرف دعوت دے تو اس کے لئے ہدایت کی امید جاسکتی ہے کیونکہ صحیح امور میں بحث و تفتیش سے اضافہ نہیں ہوتا مگر تاکید و ثبوت سے، اس سونے کی طرح کہ جس کو آگ میں تپایا جاتا ہے تو اس کی صفائی اور خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسم اعظم کو قرآن کی سورتوں کی ابجد میں پوشیدہ رکھا ہے کہ جس کے ذریعہ سے جب دعا کی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے اور جب اس کے ذریعہ سوال کیا جاتا ہے تو عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ عزوجل نے الم، المر، الر، المص، کھیعص، حمعسق، طسم، طلس اور یس اور اس جیسے دوسرے حروف کو دوسبوں کی وجہ سے ارشاد فرمایا ایک سہب یہ تھا کہ کفار اور مشرکین کی آنکھوں پر ذکر خدا اور رسول سے پردہ پڑا ہوا تھا قول الہی

"قد انزل اللہ الیکم ذکراً رسولا" (الطلاق - آیت ۱۰-۱۱) "ہمارے پاس اللہ نے ذکر رسول کو نازل فرمایا ہے۔" اور کفار و مشرکین قرآن کے سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے تو اللہ عزوجل نے بعض سورتوں کی ابتداء میں الگ الگ حروف میں اسم اعظم کو نازل فرمایا جو ان کے کلام و لغت کے حروف تھے اور وہ ان حروف مقطوعہ کے ذکر کے عادی نہیں تھے۔ جب انہوں نے ان کلمات کو سنا تو حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ ہم اس کے مابعد کو تعجب کے اعتبار سے سنیں گے پھر انہوں نے اس کے بعد کی آیتوں کو غور سے سنا تو بس منکرین پر ہمت قائم ہو گئی اور اقرار کرنے والوں کی بصیرت میں اضافہ ہوا کچھ لوگ شک و شبہ میں مبتلا رہے جن میں صرف اتنی ہی ہمت و جرات تھی کہ وہ امر مشکوک میں بحث کریں اور بحث و تمہیں کے بعد حق تک پہنچ جائیں۔

اور دوسرا سبب ان سورتوں کی ابتداء میں حروف مقطعات کے ساتھ نازل کرنے کا تھا کہ ان کی معرفت سے اہل عصمت و طہارت کو مخصوص کر دیا جائے جسکے ذریعہ سے وہ ولیس قائم کریں اور ان کے ذریعہ وہ معجزات ظاہر فرمائیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ان حروف کی معرفت تمام لوگوں کے لئے عام کر دیتا تو یہ حکمت کے خلاف اور تدبیر کے فساد کا باعث ہوتا اور کوئی غیر معصوم میں سے امین نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ نبی مرسل یا آزمائے ہوئے مومن کے برخلاف ان حروف کے ذریعہ دعا کرے پھر یہ بات بھی روا نہیں ہو سکتی کہ خدا کے وعدہ قبولیت کے باوجود اور اس کے وعدہ خلافی نہ کرنے کی صفت سے موصوف ہونے کی بنا پر وہ دعا کو قبول نہ کرتا۔ اسی بنا پر اسکے لئے مناسب ہوا کہ وہ بعض حروف مقطعات کی معرفت اس شخص کو عطا کر دے جو اس کی مخلوق کے لئے عبرت بن جائے کہ وہ اپنی حد سے آگے بڑھ جائے جیسے بلعم بن باعور۔ جبکہ اس نے چاہا کہ وہ موسیٰ کلیم اللہ کے خلاف دعا کرے تو وہ اسم اعظم کو بھول گیا اور اس سے راہ فرار اختیار کی۔ کلام مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے "واقتل علیہم نبا الذی اتینا لایاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطن فکان من الغاوین (سورۃ الاعراف آیت ۱۷۵)" اور اے رسول تم ان لوگوں کو اس شخص کی خبر سناؤ جس کو ہم نے آیات عطا کی تھیں پھر وہ ان آیتوں کو چھوڑ بھاگا تو شیطان نے اس کا پیچھا کیا تب وہ گمراہوں میں ہو گیا۔" اور اللہ عزوجل نے یہ کام اس لئے کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ فضل کے لئے وہی مخصوص ہے کہ جس کو علم ہو کہ وہ فضل کا مستحق ہے اور اس کو اس نے عام نہیں کیا کہ عوام الناس سے بھی وہی دعویٰ پذیر ہوتا جو بلعم بن باعور سے واقع ہوا۔ اور جب یہ مناسب ہے کہ اللہ عزوجل اپنے اسم اعظم کو حروف مقطعات کی شکل میں اپنی اس کتاب میں جو اسکی حجت اور اس کا کلام ہے، پوشیدہ کر دے تو یہ بھی مناسب ہے کہ وہ اپنی حجت کو مومن بندوں اور ان کے غیروں سے پوشیدہ رکھے کیونکہ اللہ عزوجل جانتا ہے کہ کب اس کو ظاہر کرے کہ جب تک لوگوں کی اکثریت حدود الہی کی خلاف ورزی نہ کرنے لگے جس کی وجہ سے وہ قتل کے سزاوار ہوں گے۔ مگر ان کا قتل جائز نہیں ہوگا کہ ان کے صلبوں میں مومنین ہوں گے۔ اور اگر وہ حجت خدا ان کو قتل نہ کرے تو یہ بھی مناسب و جائز نہ ہوگا کیونکہ وہ قتل کے مستحق ہو چکے ہیں۔

اس جیسی صورت حال میں غیبت کی حکمت ضروری ہے جب وہ متفرق و پراگندہ ہو جائیں گے اور ان کے اصحاب میں کوئی مومن باقی نہیں رہے گا تو اللہ اپنی بخت کو ظاہر کرے گا کہ وہ اس کے دشمنوں کو دوزخ کر دیں گے اور ان کو ہلاک کر دیں گے۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ کوئی شوہر دار عورت زنا کر لے اور وہ حاملہ ہو تو اس کو سنگسار نہیں کیا جاتا ہے جب تک کہ وہ بچہ کو نہ چھنے اور اس کو مدت خاص تک دودھ نہ پلانے مگر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی مرد مسلمان اس کی کفالت و دران رضاعت کر لے اور یہی طریقہ اس شخص کے لئے ہے جس کے صلب میں مومن ہے کہ جب وہ واجب القتل ہو تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس مومن بچہ کو اس سے الگ نہ کر دیا جائے اور اس کا علم سوائے علام الغیوب کی طرف سے مقرر بخت کے کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتا اور سوائے اس کے کوئی شخص حدود قائم نہیں کر سکتا اور یہی وہ سبب تھا جس کی بنا پر امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے مخالفین سے جہاد کو بعد وفات رسولؐ پچیس سال تک چھوڑے رکھا۔

ہم سے جعفر بن محمد بن مسرور رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حسین بن محمد بن عامر نے بیان کیا، انہوں نے اپنے چچا عبداللہ بن عامر سے انہوں نے محمد بن ابو عمر سے انہوں نے اس شخص سے جس نے اس کا ذکر ابو عبداللہ علیہ السلام سے کیا کہ میں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے عرض کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام کو کیا ہوا تھا کہ جو انہوں نے اپنے مخالفین سے دور اول میں مقاتلہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن کی اس آیت کی وجہ سے "لو تزیلوا لعدنبا الذین کفروا منهم عذابا الیما" (سورہ فتح آیت ۲۵) "اگر ایماندار لوگ ان کافروں سے الگ ہو جاتے تو ہم ان کافروں کو دردناک عذاب دیتے۔" اس شخص نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ تزییل سے کیا مراد ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اس سے مراد وہ مومن امانتیں ہیں جو کافروں کے اصحاب میں ہیں۔

اسی طرح قائم علیہ السلام کا اس وقت تک ظہور نہیں ہوگا جب تک اللہ عزوجل کی امانتیں پیدا نہ ہو جائیں اور جب وہ امانتیں پیدا ہو جائیں گی تو وہ دشمنان خدا پر ظاہر ہو جائیں گے پھر ان کو قتل کریں گے۔

ہم سے مظفر بن جعفر بن مظفر علوی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے جعفر بن محمد بن مسعود نے انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے علی بن محمد سے، انہوں نے احمد بن محمد سے، انہوں نے حسن بن محبوب سے، انہوں نے ابراہیم کوفی سے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے عرض کیا یا ان سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کیا حضرت علی علیہ السلام دین خدا میں بختہ و قوی نہ تھے یا آپ نے فرمایا: ہاں وہ قوی تھے۔ اس نے کہا: پھر قوم ان پر کس طرح غالب آگئی اور انہوں نے اس کا دفاع نہیں کیا اور نہ ان کو روکا۔ تو آپ نے فرمایا: کتاب خدا میں ایک آیت ہے جس نے ان کو اس بات سے روکا۔ اس شخص نے کہا: وہ کونسی آیت ہے؟ آپ نے فرمایا: لو تزیلوا لعدنبا الذین کفروا منهم عذابا الیما" کیونکہ اللہ عزوجل کی مومن امانتیں کافروں اور منافقوں کی

صلبوں میں موجود تھیں تو علی علیہ السلام کے لئے یہ ممکن نہیں تھا کہ ان کے آباء کو قتل کرویں تاوقتیکہ امانتیں پیدا ہو جائیں اور جب امانتیں نکل آئیں تو علی علیہ السلام ان پر حملہ آور ہوئے اور ان سے مقابلہ کیا اسی طرح ہمارے اہلبیت کے قائم علیہم السلام کا اس وقت تک ظہور نہ ہوگا جب تک کہ اللہ کی امانتیں پیدا نہ ہو جائیں پھر وہ اپنے مخالفین پر غلبہ حاصل کر کے ان کو قتل کریں گے۔

ہم سے مظفر بن جعفر بن مظفر سمرقندی علوی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے جعفر بن محمد بن مسعود نے انہوں نے اپنے والد سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے جبریل ابن احمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے محمد بن عیسیٰ بن عمید نے بیان کیا، انہوں نے یونس بن عبدالرحمن سے، انہوں نے منصور بن حازم سے، انہوں نے ابو عبد اللہ علیہ السلام سے اللہ کے اس ارشاد ”لوتزیلوا العذبتنا الذین کفروا منہم عذاباً الیماً“ کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: اگر اللہ تعالیٰ مومنین کے اصحاب میں سے کافروں کو نکال دے اور کافروں کے اصحاب میں سے مومنوں کو نکال دے گا تو وہ کافروں پر عذاب کرے گا۔

اور عمر رسیدہ لوگوں کی روایت کو ہم سے ابو الحسن علی بن عبد اللہ بن احمد فقیہ اسواری نے اطلاق میں بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے مکی بن احمد برزخی نے بیان کیا، انہوں نے کہا: میں نے اسحاق بن ابراہیم طرطوسی کو کہتے ہوئے سنا: میں ستائیس سال کی عمر میں یحییٰ بن منصور کے گھر پہنچا تو میں نے قنوج کے ہندوستانی بادشاہ سربانک کو دیکھا تو ہم نے اس سے دریافت کیا کہ جہادی عمر کتنی ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ اس کی عمر نو سو پچیس سال ہے اور وہ مسلمان ہے، اس نے بیان کیا: جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب میں سے دس افراد کو جس میں حذیفہ بن یمان، عمرو بن العاص، اسامہ بن زید، ابو موسیٰ اشعری، صہیب رومی اور سفینہ وغیرہ تھے میرے پاس بھیجا۔ انہوں نے مجھے دعوت اسلام دی تو میں اس دعوت کو قبول کر کے اسلام لے آیا اور مکتوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے بوسہ دیا تو میں نے اس سے کہا: تم کزوری کے باوجود نماز کس طرح پڑھتے ہو؟ اس نے مجھے جواب دیا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ”الذین یذکرون اللہ قیاماً و قعوداً و علیٰ جنوبہم“ (آل عمران آیت ۱۹۱)۔ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کھڑے ہو کر اور بیٹھے کر اور کرٹ لیکر کرتے ہیں۔ میں نے اس بادشاہ سے دریافت کیا: جہادی غذا کیا ہے؟ جواب دیا: میں ماہ اللحم اور پیاز یا ہسن غذا میں استعمال کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا: کیا تم کو اجابت ہوتی ہے؟ اس نے جواب میں کہا: ہفتہ میں ایک مرتبہ تموڑی سی اجابت ہوتی ہے۔ میں نے اسکے دانتوں کے متعلق دریافت کیا تو اس نے کہا: بیس مرتبہ ان کو تبدیل کر چکا ہوں۔ میں نے اس کے اصطبل میں ہاتھی سے بڑا ایک جانور دیکھا جس کو زند قیل کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا: اس سے تم کیا کام لیتے ہو؟ اس نے کہا: یہ ملازمین کے کیڑے لاد کر دھوئی تک لے جاتا ہے۔ اس کی سلطنت کی لمبائی اور چوڑائی کا فاصلہ چار سال کے برابر تھا۔ اور اس کا دارالسلطنت ہر طرف سے پچاس فرسخ تھا۔ اور ہر دروازہ پر ایک لاکھ بیس

ہزار کا لشکر متعین تھا کہ اگر کسی دروازہ پر کوئی حادثہ پیش آجائے تو یہ لوگ جنگ کریں اور کسی دوسرے کی امداد کے محتاج نہ ہوں۔ وہ بادشاہ خود دار السلطنت کے وسط میں رہتا تھا۔ میں نے اس کو کہتے ہوئے سنا کہ میں ایک مغربی ملک میں پہنچا اور ایک ریگستان دیکھا جس میں روئیدگی نہیں تھی۔ چلتے چلتے میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں پہنچ گیا کہ جھکے گھروں کی چھتیں ایک دوسرے کے برابر تھیں اور غلہ وغیرہ کے خرمن و کھلیان شہر کے باہر تھے۔ کچھ اناج کھانے پینے کے لئے لے آتے تھے اور باقی کو وہیں چھوڑ دیتے تھے۔ ان کی قبریں گھروں کے اندر تھیں اور ان کے باغات شہر سے دو فرسخ کے فاصلہ پر تھے۔ ان میں نہ کوئی یوزھا تھا نہ بڑھیا تھی اور نہ میں نے ان میں کوئی بیماری دیکھی اور نہ کوئی جاں بلب بیمار دیکھا، وہاں بازار بھی تھے جب کوئی شخص کسی شے کو خریدنا چاہتا تو وہ بازار جا کر خود ہی اس شے کا وزن کرتا اور جو چاہتا تھا لے لیتا تھا حالانکہ مالک دوکان موجود نہ ہوتا تھا اور جب وہ نماز پڑھنا چاہتے تو آکر نماز پڑھتے اور واپس چلے جاتے۔ ان کے درمیان کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا اور سوائے ذکر الہی و نماز اور تذکرہ موت کے بات چیت نہ کرتے۔

اس کتاب کے مولف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مخالفین اگر سرمانک بادشاہ ہندوستان کی حالت کو جائز سمجھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ تحت خدا کی عمر میں کسی قسم کا حیلہ بہانہ نہ کریں اور سوائے خدا کے کسی میں قدرت و قوت نہیں ہے۔

باب (۵۵) ظہور امام[ؑ] کے انتظار کا ثواب

۱۔ بیان کیا مجھ سے مظفر بن جعفر بن مظفر علوی سمرقندی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے جعفر بن محمد بن مسعود نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے جعفر بن محمد نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے عمر کی ابن علی بو لگی نے ان سے حسن بن علی بن فہمال نے ان سے ثعلب بن سمیون نے ان سے موسیٰ نمیری نے ان سے علاء بن سیابہ نے انہوں نے کہا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص امام قائم کا انتظار کرتے ہوئے مرے گا اس کا مرتبہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص امام قائم کے ساتھ خیمہ میں مقیم ہو۔

۲۔ انہی اسناد کے ساتھ ثعلب سے روایت ہے کہ ان سے عمر بن ابان نے بیان کیا ان سے عبدالحمید واسطی نے انہوں نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا: مولا خدا آپ کا بھلا کرے ہم لوگوں نے تو صاحب امر کے انتظار میں بازار جانا چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا: اے عبدالحمید کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لئے ضبط نفس سے کام لے گا تو خدا اس کے لئے راستہ نہ کھولے گا؟ نہیں۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اس کے لئے ضرور راستہ پیدا کرے گا۔ اللہ رحم کرے اس شخص پر جو ہمارے خاطر ضبط نفس سے کام لے۔ اللہ رحم کرے اس شخص پر جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ میں نے عرض کیا: مولا اگر میں امام قائم کا زمانہ پانے سے پہلے مر گیا تو آپ نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی یہ

خواہش رکھے کہ اگر میں امام قائم کا زمانہ پاؤں گا تو ان کی نصرت کروں گا تو وہ اس شخص کے مانند ہے۔ جو ان کی معیت میں تلوار چلانے نہیں بلکہ ان کے ہمراہ شہادت بھی پاتے۔

۳۔ انہی اسناد کے ساتھ محمد بن مسعود سے روایت ہے۔ ان سے جعفر بن معروف نے بیان کیا ان سے محمد بن حسین نے ان سے جعفر بن بشیر نے ان سے موسیٰ بن بکر واسطی نے ان سے ابوالحسن نے ان سے ان کے آباء کرام نے بیان کیا کہ حضور اکرم نے فرمایا: میری امت کا بہترین عمل اللہ عزوجل کی جانب سے فرج و (کشفائش) کا انتظار ہے۔

۴۔ انہی اسناد سے محمد بن عبدالمہدی نے بیان کیا ان سے محمد بن فضیل نے بیان کیا کہ میں نے امام رضا سے ظہور قائم کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا: اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فانتظروا آنی معکم من المنتظرین (سورۃ اعراف آیت ۱۷) "سو منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔"

۵۔ انہی اسناد کے ساتھ بیان کیا محمد بن مسعود نے ان سے ابو صالح خلف بن حماد کشی نے ان سے سہل بن زیاد نے ان سے محمد بن حسین نے ان سے احمد بن محمد بن ابی نصر نے بیان کیا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر اور انتظار امام قائم کیا خوب بات ہے کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا۔ وارتقبوا آنی معکم رقیب (سورۃ ہود آیت ۹۳) "انتظار کرتے رہو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔" نیز فرمایا فانتظروا آنی معکم من المنتظرین (سورۃ اعراف آیت ۱۷) "سو انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔" پس صبر سے کام لو کیونکہ یابوسی کے بعد کشادگی آتی ہے۔ اور تم سے پہلے کے لوگ تم سے زیادہ صابر تھے۔

۶۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن حسن بن احمد بن دنیذ نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن حسن صفار نے ان سے احمد بن محمد بن عیسیٰ نے ان سے قاسم بن یحییٰ نے ان سے ان کے جد حسن بن راشد نے ان سے ابی بصیر اور محمد بن مسلم نے ان سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان سے ان کے آباء کرام نے ان سے حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ ہمارے صاحب امر کا انتظار کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی شخص اللہ کی راہ میں جہاد کر کے اپنے خون میں لوٹ رہا۔

۷۔ بیان کیا مجھ سے مظفر بن جعفر بن مظفر حلوی سمرقندی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے حیدر بن محمد اور جعفر بن محمد بن مسعود نے ان دونوں نے کہا کہ بیان کیا ہم سے محمد بن مسعود نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے قاسم بن ہشام لہ لوی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے حسن بن محبوب نے ان سے ہشام بن سالم نے ان سے عمار ساباطی نے ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آقا باطل حکومتوں کے دور میں امام قائم کے دامن سے متمسک رہتے ہوئے چسپ چسپ کر عبادت کرنا افضل ہے یا ظہور امام کے بعد آپ کے عہد حکومت میں اعلانیہ عبادت کرنا؟ آپ نے فرمایا: اے عمار (باطل حکومتوں میں) پوشیدہ خیرات خدا کی قسم غلامیہ خیرات سے افضل اور

امام قائمؑ کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: نہ انہیں دیکھا جائے گا اور نہ ان کا نام لیا جائے گا۔

۳۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد اور محمد بن حسن نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ نے ان سے محمد بن عیسیٰ بن حمید نے ان سے اسماعیل بن ابان نے ان سے عمرو بن شمر نے ان سے جابر بن یزید جعفی نے ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا وہ فرما رہے تھے کہ حضرت عمر نے امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب سے حضرت مہدی کے متعلق دریافت کیا اور کہا اے ابن ابی طالب مجھے یہ بتائیں کہ مہدی کا نام کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا: میرے حبیب و خلیل (رسول اللہ) نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ میں اس کا نام کسی کو نہیں بتاؤں یہاں تک کہ وہ ظہور کرے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے رسول کے علم میں دیں۔

۴۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے سعد بن عبداللہ نے ان سے محمد بن احمد علوی نے ان سے ابو ہاشم جعفی نے انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرا جانفشین میرا بیٹا حسن ہوگا۔ تم کیا سلوک کرو گے اس کے فرزند کے ساتھ؟ میں نے عرض کیا خدا مجھے آپ پر فدا کرے آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ آپ نے جواب دیا: نہ تم اسے دیکھ سکو گے اور نہ ہی اس کا نام لینا جائز ہوگا۔ میں نے عرض کیا: پھر ہم ان کا ذکر کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا: حجت آل محمد صلوات اللہ علیہ وسلم کہا کرو۔

باب (۵۷) علامات ظہور امام قائمؑ

۱۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے عبداللہ بن جعفر حمیری نے ان سے ابراہیم بن مہزیار نے ان سے ان کے بھائی علی نے ان سے حسین بن سعید نے ان سے صفوان بن یحییٰ نے ان سے محمد بن حکیم نے ان سے سمون البان نے ان سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ظہور امام قائمؑ سے پہلے پانچ علامتیں ظاہر ہوں گی۔ یامانی اور سفیانی کا خروج، ندائے آسمانی، زمین بیدا، کا دھنس جانا، نفس زکیہ کا قتل۔

۲۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن حسن بن احمد بن ولید نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن حسن صفار نے ان سے عباس بن معروف نے ان سے علی بن مہزیار نے ان سے عبداللہ بن محمد حمال نے ان سے ثعلب بن سمون نے ان سے شعیب حداد نے ان سے صالح نے جو بنی عذراء کا غلام تھا بیان کیا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ ظہور قائمؑ اور قتل نفس زکیہ کے درمیان پندرہ راتیں ہوں گی۔

۳۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے عبداللہ بن جعفر حمیری نے ان سے احمد بن ہلال نے ان سے حسن بن محبوب نے ان سے ابو ایوب فرزاز اور غلام بن رزین نے ان سے محمد بن مسلم نے انہوں

نے کہا: میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ ظہور امام قائم سے پہلے اللہ مومنین کے لئے نشانیاں مقرر کرے گا۔ میں نے عرض کیا: میں آپ پر قربان جاؤں وہ نشانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: یہ وہ نشانیاں ہیں جو قرآن میں آئی ہیں **و لنبلونکم** اور تمہیں آزمائیں گے۔ یعنی مومنین کو قائم علیہ السلام کے خروج سے قبل **بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والا نفس والثمرات و بشر الصابرين** (سورۃ بقرہ آیت ۱۵۵)۔ تمھوڑے سے ڈر سے اور بھوک سے اور نقصان سے ماں کے اور جانوں کے اور میووں کے اور خوشخبری دے ان صبر کرنے والوں کو۔ پھر فرمایا: مومنین کو بنو فلاں کے آخری حکمران کے خوف سے آزمایا جائے گا **الجوع** سے مراد یہ کہ مہنگائی کے باعث جانے سے بھوک و افلاس کے ذریعہ **نقص من الاموال** سے مراد ہے کساد بازاری اور برکت کے اٹھ جانے سے **ونقص من النفس** سے مراد زراعت میں کمی سے اور **نقص من الثمرات** سے مراد زراعت میں پیداوار کی قلت **و بشر الصابرين** یعنی صبر کرنے والوں کو تعجیل ظہور امام کی خوشخبری دو۔

پھر آپ نے مجھ سے فرمایا: اے محمد یہ ہی تاویں ہے اس آیت کی جس کا اوپر ذکر کیا گیا۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے **وما یعلم تاویلہ الا اللہ والرسخون فی العلم** (سورۃ آل عمران آیت - ۷) اور ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا سوائے ان کے اور مضبوط علم والوں کے۔

۴۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن حسن بن احمد بن ولید نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے حسین بن حسن بن ابان نے ان سے حسین بن سعید نے ان سے نصر بن سویہ نے ان سے یحییٰ حلبي نے ان سے حارث بن مغیرہ بصری نے ان سے سکون البان نے انہوں نے کہا میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ ان کے خیمہ میں تھا۔ آپ نے خیمہ کا پردہ اٹھایا اور فرمایا: ہمارا امر اس سورج سے زیادہ واضح ہے پھر فرمایا: (ظہور کے وقت) آسمان سے ایک سداوی نباد دے گا کہ فلاں بن فلاں امام ہے۔ اور اہلبیت عنہم اللہ زمین پر سداوی لگائے گا جیسے اس نے لیت العقوبہ میں حضور اکرم کو سداوی تھی۔

۵۔ ابی اسحاق کے ساتھ حسین بن سعید نے روایت کی ہے ان سے صفوان بن یحییٰ نے ان سے عیسیٰ بن اصیبن نے ان سے معلیٰ بن فضال نے ان سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سفیانی کا خروج تھی ہے اور یہ رجب میں ہوگا۔

۶۔ ابی اسحاق کے ساتھ روایت کی حسین بن سعید نے ان سے حماد بن عیسیٰ نے ان سے ابراہیم بن عمر نے ان سے ابی ایوب نے ان سے حارث بن مغیرہ نے ان سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: سداوی آسمانی ماہ رمضان میں شب جمعہ ۲۳ ویں تاریخ کو بلند ہوگی۔

۷۔ انہی استاد کے ساتھ روایت کی حسین بن سعید نے ان سے محمد بن ابی عمیر نے ان سے عمر بن حنظلہ نے انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ ظہور امام سے پہلے پانچ علامات سچی ہیں۔ یمنی اور سفیانی کا خروج، صدّاکا بلند ہونا، نفسِ ذکیہ کا قتل اور بیہوا کی زمین کا وحسن چانا۔

۸۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے سعد بن عبداللہ نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن حسین بن ابی خثیب نے ان سے جعفر بن بشیر نے ان سے ہشام بن سالم نے ان سے زرارہ نے ان سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک منادی امام قائم کا نام نے کر ندا دے گا۔ میں نے عرض کیا کیا یہ ندا، خواص کے لئے ہوگی یا عوام کے لئے؟ آپ نے فرمایا عوام کے لئے اور ہر قوم اس آواز کو اپنی اپنی زبانوں میں سنے گی۔ میں نے عرض کیا کیا وہ لوگ جو حضرت قائم کے مخالف ہوں گے ان کے لئے بھی نام لیکر سدا دی جائے گی؟ فرمایا نہیں ان کے لئے ابلیس آخر شب میں اسدا دے گا۔ اور لوگوں کے دل میں شک ڈالے گا۔

۹۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن علی ماجلی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے میرے چچا محمد بن ابی قاسم نے ان سے محمد بن علی کوفی نے ان سے محمد بن ابی عمیر نے ان سے عمر بن اذنیہ نے انہوں نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: میرے والد نے بیان کیا کہ حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ (ظہور امام قائم سے پہلے) جگر خواہ کا بیٹا وادی یاس سے خروج کرے گا۔ وہ درمیانِ قد کا ہوگا۔ اس کے چہرے سے وحشت چمکتی ہوگی جسم مونا ہوگا۔ اس کے چہرے پر چمچک کے نشانات ہونگے۔ ایک آنکھ کا ہوگا۔ اس کا نام عثمان اور اس کے باپ کا نام عبسہ ہوگا۔ ابو سفیان کی نسل سے ہوگا۔ شہروں کو تباہ و برباد کرتا ہو! کوفہ میں قیام کرے گا اور وہاں اس کے لئے منبر بنایا جائے گا۔

۱۰۔ بیان کیا مجھ سے احمد بن زیاد بن جعفر ہمدانی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے علی بن ابراہیم بن ہاشم نے ان سے ان کے والد ابراہیم بن ہاشم نے ان سے محمد بن ابی عمیر نے ان سے حماد بن عثمان نے ان سے عمر بن یزید نے انہوں نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر ہم نے سفیانی کو دیکھا تو گویا انسانوں میں سب سے نہایت شخص کو دیکھا جو زرد، سرخ و نیش گون ہوگا اور کہے گا اے رب مجھے بدلہ لینا ہے (مومنوں سے) چاہے اس کے بعد دوزخ میں ہی کیوں نہ ڈالا جاؤں۔ اس کی شبائت کی انتہا یہ ہے کہ وہ اپنی ام ولد (ماں) کو زندہ دفن کر دے گا تاکہ وہ اس کے نسب کو نہ بتائے۔

۱۱۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد اور محمد بن حسن نے ان دونوں نے کہا کہ بیان کیا ہم سے محمد بن ابو القاسم ماجلی نے ان سے محمد بن علی کوفی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے حسین بن سفیان نے ان سے قتیبہ بن محمد نے ان سے عبداللہ بن ابی منصور بخلی نے انہوں نے کہا: میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سفیانی کے

نام کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا: تمہیں اس کے نام سے کیا کام ہے۔ (پس اسنا سمجھ لو) جب وہ شام کے پانچ علاقے دمشق، حمص، فلسطین، اردن اور قسریں کو فتح کرے تو اس وقت ظہور (امام قائم) کی توقع کرنا۔ میں نے عرض کیا: کیا وہ نو ماہ حکومت کرے گا؟ آپ نے فرمایا: نہیں بلکہ آٹھ ماہ اور اس سے ایک دن بھی زیادہ نہیں۔

۱۲۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن ابراہیم بن اسحاق طالقانی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے احمد بن علی انصاری نے ان سے ابو صفت ہروی نے کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کے قائم جب خروج کریں گے تو ان کی کیا پہچان ہوگی؟ آپ نے فرمایا ان کی عمر تو معمر بزرگ کی ہوگی مگر جوان نظر آئیں گے جو دیکھے گا وہ کہے گا کہ چالیس یا اس سے کم کے ہیں۔ ان پر گردشِ شام و بحر اثر نہیں کرتی یہاں تک کہ اہل آجائے۔

۱۳۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن علی ماجیوی نے ان سے ان کے چچا محمد بن ابی القاسم نے ان سے محمد بن علی کوفی نے ان سے ان کے والد نے ان سے ابی المغزہ نے ان سے معقل بن خصیص نے ان سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرئیل کی آواز آسمان سے آئے گی اور ابلیس کی آواز زمین سے پس تم پہلی آواز کا اتباع کرنا اور دوسری آواز پر کان نہ دھرنا کیونکہ وہ فتنہ پھیلانے کے لئے ہوگی۔

۱۴۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن موسیٰ بن متوکل نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے عبداللہ بن جعفر حمیری نے ان سے احمد بن محمد بن عیسیٰ نے ان سے حسن بن محبوب نے ان سے ابو حمزہ ثمالی نے ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا: مولا کیا سفینیانی کا خروج امر لازمی ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں اور عباسیوں کا اختلاف بھی حتمی ہے۔ نفس زکیہ کا قتل بھی لازمی ہے۔ اور امام قائم کا خروج بھی لازمی ہے۔ میں نے عرض کیا: اس وقت کس قسم کی ندا آئے گی؟ فرمایا ایک منادی دن کے شروع میں آسمان سے ندا دے گا: "جانو کہ حق علی اور ان کے شیعوں کے ساتھ ہے۔" پھر دن کے آخر میں ابلیس لعنتہ اللہ ندا دے گا: "جانو کہ حق سفینیانی اور اس کے شیعوں کے ساتھ ہے۔" اس آواز سے باطل پرست (حق کے بارے میں) شک کا شکار ہو جائیں گے۔

۱۵۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن حسن نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے حسین بن حسن بن ابان نے ان سے حسین بن سعید نے ان سے صفوان بن یحییٰ نے ان سے عیسیٰ بن امین نے ان سے معقل بن فضیل نے ان سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سفینیانی کا معاملہ ضرور پیش آئے گا اور وہ رجب کے ماہ میں خروج کرے گا۔

۱۶۔ انہی اسناد سے حسین بن سعید سے روایت ہے ان سے حماد بن عیسیٰ نے بیان کیا ان سے ابراہیم بن عمر نے ان سے ابو ایوب نے ان سے حارث بن مغیرہ نے ان سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدائے نبوی ماہ رمضان کی ۲۳ ویں تاریخ شب جمعہ کو بلند ہوگی۔

۱۷۔ بیان کیا مجھ سے علی بن احمد بن موسیٰ نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن ابی عبداللہ کوفی نے

انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن اسماعیل برکی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے اسماعیل بن مالک نے ان سے محمد بن سنان نے ان سے ابی جارد زیاد بن منذر نے ان سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ان سے ان کے والد نے ان سے ان کے جد نے کہا کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میری اولاد میں سے آخر زمانہ میں ایک مرد ظاہر ہوگا۔ اس کی رنگت سفید ہوگی، موٹھیں سرخ ہوں گی، اس کا شکم چوڑا، رانیں بڑی، پہلو چوڑے ہوں گے، راستے سے منحرف لوگوں کے سروں پر عظمت پانے والا ہوگا، اس کی پشت پر دو تل ہوں گے، ایک اس کی جلد کی رنگت کا اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے تل کے مشابہ، اس کے دو نام ہوں گے ایک خفی اور دوسرا اعنایہ۔ خفی نام احمد اور اعنایہ محمد ہوگا۔ اس کے علم کے نور سے مشرق و مغرب منور ہوں گے۔ وہ اپنے ہاتھ کو لوگوں کے سروں پر رکھے گا تو مومن کا دل لوہے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا اور ایک مومن کو اللہ تعالیٰ چالیس مردوں کی طاقت و قوت عطا فرمائے گا۔ اور جو مومن مر گئے ہیں ان کی قبروں میں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو (ظہور امام سے) افرست بخشنے گا۔ اور وہ اپنی قبروں میں ہی امام قائم کی زیارت کریں گے اور باہم ایک دوسرے کو قیام امام قائم کی مبارک یاد دیں گے۔

۱۸۔ انہی استاد کے ساتھ محمد بن سنان نے روایت کی ان سے عمرو بن شمر نے ان سے جابر نے ان سے حضرت امام محمد باقر نے فرمایا کہ ان کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کا علم ہمارے مہدی کے دل میں اس طرح آگا ہے جس طرح بہترین نباتات اگتے ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی زندہ رہے اور انہیں دیکھے تو اس طرح سلام کرے: **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ بَيْتِ الرَّحْمَةِ وَالنَّبُوَّةِ وَمَعْدَنِ الْعِلْمِ وَمَوْضِعِ الرِّسَالَةِ**۔ ایک اور روایت کے تحت امام قائم کو اس طرح سلام کرنے کا حکم ہے **السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَقِيَّةَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ**۔

۱۹۔ بیان کیا مجھ سے حسین بن احمد بن ادریس نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے ان سے احمد بن محمد بن عیسیٰ نے ان سے حسین بن سعید نے ان سے علی بن ابی حمزہ نے ان سے ابی بصیر نے بیان کیا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ امام قائم عاشورہ کے دن، جس دن امام حسین قتل ہوئے غرور کریں گے۔

۲۰۔ انہی استاد سے روایت ہے حسین بن سعید سے انہوں نے روایت کی ابن ابی عمیر سے انہوں نے ابو ایوب سے انہوں نے ابو بصیر سے انہوں نے کہا کہ کوفہ کے ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ امام قائم کینے اصحاب کے ساتھ غرور کریں گے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ابن بدر کی تعداد کے برابر تین سو تیرہ افراد ہوں گے آپ نے فرمایا امام قائم اس وقت غرور کریں گے جب ان کو صاحبان قوت کی موزوں تعداد حاصل ہو جائے گی اور یہ موزوں تعداد دس ہزار سے کم نہیں ہو سکتی۔

۲۱۔ بیان کیا مجھ سے احمد بن محمد بن یحییٰ عمار نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے ان سے محمد بن حسین بن ابی شطاب نے ان سے محمد بن سنان نے ان سے ابو خالد قنطاط نے ان سے ضریر نے ان سے ابو خالد کالی نے ان سے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امام کے پاس پہلے پہنچنے والے اہل بدر کی تعداد کے برابر تین سو تیرہ ہوں گے۔ وہ جہاں سے بھی چلیں گے صبح مکہ میں ہوں گے اور یہی تاویل ہے اس آیت کی ایں ما نکونوا یات بکم اللہ جمیعاً (سورۃ بقرہ آیت ۱۴۸) جہاں کہیں تم ہو گے تم کو اللہ ایک جگہ کر دے گا۔ اور اس سے مراد صحاب قائم ہیں۔

۲۲۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن حسن نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن یحییٰ عمار نے ان سے محمد بن حسین بن ابی شطاب نے ان سے صفوان بن یحییٰ نے ان سے مندل نے ان سے بکار بن ابی بکر نے ان سے عبداللہ بن ثبائن نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی محفل میں غروج امام قائم کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ میں نے آپ سے مرض کیا مولانا قائم کے غروج کا کیسے عام ہوگا۔ آپ نے فرمایا: تم میں سے ہر ایک جب صبح اٹھے گا تو اس کے سرہانے ایک پرچی رکھی ہوئی ہوگی جس پر تحریر ہوگا۔ طاعة معروفة۔

اور روایت میں ہے کہ امام مہدی کے پرچم پر = تحریر ہوگا "البيعة لله عز وجل"۔

۲۳۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے علی بن ابراہیم نے ان سے ان کے والد نے ان سے محمد بن ابی عمیر نے ان سے عمرو بن ابی مقدم نے ان سے ان کے والد نے ان سے عبید بن کرب نے انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم اہل بیت کے لئے ایک خاتم ہے جو اس سے اگے نکل گیا وہ دین سے خارج ہو گیا جو بچے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا اور جو اس خاتم کے ساتھ رہا (یعنی اصحاب کی) وہ کامیاب رہا۔

۲۴۔ بیان کیا مجھ سے علی بن احمد بن عبداللہ بن احمد بن ابی عبداللہ برقی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے ان سے ان کے جد احمد بن ابی عبداللہ برقی نے ان سے ان کے والد محمد بن خالد نے ان سے ابراہیم بن عقبہ نے ان سے ذکر کیا ہے ان سے ان کے والد نے ان سے عمرو بن ابی مقدم نے ان سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اہل عباس کا ایک بے وقوف خفیہ طور پر ہلاک کیا جائے گا۔ اس کی موت کا سبب یہ ہوگا کہ وہ ایک بیچرے سے نکاح کرے گا۔ وہ بیچرہ اس کو موقع بنتے ہی ذبح کر کے فرار ہو جائے گا۔ اس کی موت چالیس دن تک پوشیدہ رہے گی پھر جب ارکان حکومت کے ہم میں آئے گی تو وہ اس بیچرے کی تلاش میں نکلیں گے۔ مگر واپس پلٹ کر نہ آسکیں گے یہاں تک کہ ان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔

۲۵۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن حسن نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے حسین بن حسن بن ابان نے ان سے

حسین بن سعید نے ان سے نظر بن سوید نے ان سے یحییٰ علی نے ان سے حکم حقا نے ان سے محمد بن ہمام نے ان سے درو نے ان سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ (ظہور امام قائم سے پہلے) دو علامتیں ظاہر ہوں گی۔ پانچ دن تک چاند گہن اور پندرہ دن تک سورج گہن رہے گا اور ایسا حضرت آدم کے زمین پر آنے سے لے کر اس واقعہ کے پہلے تک کبھی نہیں ہوا۔ اس وقت نجومیوں کا علم ساقط ہو جائے گا۔

۲۶۔ انہی اسناد کے ساتھ حسین بن سعید سے روایت ہے کہ ان سے نظر بن سوید نے ان سے یحییٰ علی نے ان سے معمر بن یحییٰ نے ان سے ابو خالد کاعلی نے ان سے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ بنو عباس فرات کے کنارے ایک شہر آباد کریں گے۔ اس شہر کی تکمیل کے بعد ایک سال تک ان کی حکومت رہے گی۔

۲۷۔ انہی اسناد کے ساتھ حسین بن سعید سے مروی ہے ان سے صفوان بن یحییٰ نے بیان کیا ان سے عبدالرحمن بن حجاج نے ان سے سلیمان بن خالد نے بیان کیا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ امام قائم کے ظہور سے پہلے دو طرح کی موتیں ظاہر ہوں گی۔ سرخ موت اور سفید موت۔ یہاں تک کہ ہر سات میں سے پانچ افراد ان اموات کا شکار ہوں گے۔ سرخ موت سے مراد تلوار اور سفید موت سے مراد طاعون ہے۔

۲۸۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن موسیٰ بن متوکل نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے علی بن حسین سعد آبادی نے ان سے احمد بن محمد بن خالد نے ان سے ان کے والد نے ان سے محمد بن ابی عمیر نے ان سے ابی ایوب نے ان سے ابی بصیر نے ان سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امام قائم کے ظہور سے قبیلہ رمضان کی پانچویں تاریخ کو سورج گرہن ہوگا۔

۲۹۔ انہی اسناد کے ساتھ ابو ایوب سے روایت ہے کہ مجھ سے ابو بصیر اور محمد بن مسلم نے بیان کیا کہ ہم دونوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ امر (ظہور امام قائم) اس وقت تک واقع نہیں ہوگا جب تک کہ تہائی انسان ختم نہ ہو جائیں۔ پس آپ سے عرض کیا گیا کہ مولا جب تہائی انسان ختم ہو جائیں گے تو پھر باقی کیا بچے گا؟ فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تہائی بھی باقی بچیں۔

اس کتاب کے مصنف ابو جعفر محمد بن علی بن بابویہ نے فرمایا کہ میں نے علامات ظہور حضرت قائم اور آپ کی سیرت اور دو کچھ آپ کے دور میں وقوع پذیر ہوگا ان سب کو کتاب "اسرار المکتوم الی الوقت المعلوم" میں تحریر کیا ہے (ولاقوة الا باللہ العلی العظیم)۔

باب (۵۸)

نوادیر

۱- بیان کیا مجھ سے احمد بن ہارون قاضی، جعفر بن محمد بن مسروق اور علی بن حسین بن شاذویہ مودب نے ان سب نے کہا کہ بیان کیا ہم سے محمد بن عبداللہ بن جعفر بن جامع حمیری نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے ان سے محمد بن حسین بن ابی خطاب وفاق نے ان سے محمد بن سنان نے ان سے مفضل بن عمر نے انہوں نے کہا میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت

ان الانسان لفی خسره (سورۃ عصر آیت: ۲۰) "قسم ہے عصر کی انسان خسارہ میں ہے" کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا العصر سے مراد قائم کے خروج کا زمانہ ہے۔ "ان الانسان لفی خسره" سے مراد ہمارے دشمن "الا الذین امنوا" سے مراد ہماری نشانیاں "و عملوا الصلحت سے مراد بھائیوں کے درمیان مواسات "وتواصوا بالحق" سے مراد امامت "وتواصوا بالصبر" سے مراد زمانہ فترت ہے۔

اس کتاب کے مؤلف فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اس حدیث میں لفظ فترت کے ذریعہ ہمارے خلاف دلیل قائم کرتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ امامت ان زمانے میں منقطع ہوگئی جیسے کہ نبوت اور رسالت ایک جہی سے دوسرے نبی کے آنے تک منقطع ہوگئی تھی۔

پس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عرض کروں گا کہ یہ قول ان کثیر روایات کے خلاف ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ زمین قیامت تک تحت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی۔ اور نہ ہی آدم سے لے کر اس وقت تک خالی رہی ہے۔ یہ وہ معروف روایات و احادیث ہیں جن کا اس کتاب میں تذکرہ ہوا اور جو شیعہ اور دوسرے فرقوں کے مختلف طبقات میں مشہور ہیں اور کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔ کوئی جھٹلانے والا اسے جھٹلا سکتا ہے اور نہ تاویل کرنے والا اس کی کوئی اور تاویل کر سکتا ہے اور سب کا آج تک اجماع ہے کہ زمین کسی زندہ امام سے خالی نہیں رہ سکتی چاہے وہ ظاہر ہو یا غائب پس امامت نہ تو منقطع ہوئی اور نہ اس کا منقطع ہونا جائز ہے۔ یہ اسی طرح متصل ہے جیسے رات اور دن ایک دوسرے سے متصل ہیں۔

۲- بیان کیا مجھ سے میرے والد نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے سعد بن عبداللہ نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن عیسیٰ بن یحییٰ نے ان سے علی بن حکم اور علی بن حسن نے ان سے نافع وراق نے ان سے ہارون بن خارجه نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے ہارون بن سعد عجمی نے کہ اسماعیل کا انتقال ہو گیا جن کے بارے میں تم لوگوں کی رائے تھی کہ یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد امام ہوں گے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام بوڑھے ہو گئے ہیں اور آج کل میں ان کا انتقال بھی ہو جائے گا۔ پھر تم لوگ بغیر امام کے رہ جاؤ گے۔ میں اس کی بات کا کوئی

جواب نہ دے سکا۔ پس میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس کی کبھی ہونی بات عرض کی۔ آپ نے فرمایا اس شخص پر حیف ہے۔ خدا کی قسم امامت اگر منقطع ہو گئی تو رات اور دن منقطع ہو جائیں گے۔ اب جب وہ شخص چہیں ملے تو اس سے کہنا کہ یہ موسیٰ ابن جعفر میرے بعد امام ہوگا۔ اس کے بعد اس کا فرزند اس کا جانشین ہوگا۔ ان شاء اللہ۔

اس روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا کہ امر امامت منقطع نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ رات اور دن منقطع ہو جائیں۔ پس رسولان خلیمہ السلام کے درمیان زمانہ فترت تو جائز ہے۔ کیونکہ رسول کی ذمہ داریوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم کے لئے شریعت لاتے ہیں، سابقہ شریعت کی تجدید کرتے ہیں اور بعض احکام کے ذریعے بعض کو منسوخ کرتے ہیں۔ لیکن انبیاء اور ائمہ کے لئے زمانہ فترت جائز نہیں کیونکہ نہ تو وہ شریعت لے کر آتے ہیں نہ منسوخ کرنے یا تجدید کرنے کی ذمہ داری ان کی ہوتی ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے درمیانی زمانے میں، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے درمیانی زمانے میں، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیانی زمانے میں، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد کے درمیانی زمانے میں بے شمار انبیاء اور اوصیاء مبعوث ہوئے اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اللہ کے احکام لوگوں کو یاد دلائیں اور وہ سب کچھ جو ان تک رسولوں سے دیتیں، کتا ہیں اور علوم پہنچے ہیں ان کی حفاظت کریں اور ان میں سے تمام رسولوں نے اپنی امتوں کو ان امور کی تبلیغ کی جو اللہ عزوجل سے ان تک پہنچے اور ان انبیاء کے اوصیاء نے ان علوم اور وصایا کی حفاظت کی جب اللہ تعالیٰ نے رسالت کو محمد پر شتم کیا تو ضروری تھا کہ کوئی ہادی اور وصی ہو جو دین حق کی حفاظت اور تبلیغ کرے کیونکہ زمین بغیر حجت خدا کے نہیں رہ سکتی۔ پس اسی سبب سے اللہ نے ان کے بعد سلسلہ امامت کو جاری فرمایا۔ جو بالترتیب منظم اور متصل ہے کیونکہ یہ جائز نہیں کہ آثار انبیاء و صلوات اور اعلام محمد ان کی سنت، ان کی شریعت، ان کے فرائض، ان کی سنتیں اور ان کے احکام مٹ جائیں یا منسوخ ہو جائیں جب کہ حضور اکرم کے بعد کسی رسول یا نبی کو نہیں آنا ہے۔

اور امام، رسول یا نبی کی طرح نہیں ہوتا اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور ملت کے سوا کسی اور شریعت اور ملت کا داعی ہوتا ہے۔ اسی لئے دو اماموں کے درمیان فترت کے زمانے کا واقع ہونا جائز نہیں۔ فترت صرف رسولوں کے درمیان جائز ہوتی ہے اماموں کے درمیان نہیں۔ پس اس لئے واجب ہوا کہ ایک ایسا امام ضروری ہے کہ جسے دلیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہو۔

اسی طرح لازم ہے کہ دو رسولوں کے درمیان اگر زمانہ فترت ہے تو اس زمانے میں امام اور وصی کا خلق پر حجت ہونا لازم ہے تاکہ لوگوں کو اس رسول کی تعلیم کی طرف بلائیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئی ہے اور اس کے بندوں کو غفلت سے جگائیں۔ اور وہ چیزیں بیان کریں۔ پس وہ نہیں جانتے تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ عزوجل نے انہیں بیکار نہیں

چھوڑا اور ان کے ذکر کو سطح زمین سے نہیں مٹایا اور ان کو ان کے دین کے بارے میں کسی شبہ میں نہیں چھوڑا اور جن فرائض کی ادائیگی کے لئے ان کو مقرر کیا گیا ہے تو اس میں ان کو مقام حیرت میں نہیں چھوڑا۔ نبوت اور رسالت سنت الہی ہے اور امامت فرض۔ پس سنت تو بعض حالات میں مستقطع اور ترک ہو سکتی ہے مگر فرض صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کبھی مستقطع نہیں ہوگا۔ پس امامت ہی وہ فرض عظیم ہے جس کے ذریعہ سنت و فرائض قائم ہوتے ہیں، دین کامل اور نعمت تمام ہوتی ہے۔ کیونکہ حضور اکرم کے بعد نبوت کا سلسلہ مستقطع ہو گیا اسی لئے ائمہ طاہرین ہی وہ ہستیاں ہیں جو بندگان خدا کو صحت دینی کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اور ان کے لئے نجات کا راستہ لازم کرتے ہیں اور انہیں ہلاکت کے حوارد سے بچاتے ہیں۔ اور ان کے لئے اللہ عزوجل کے فرائض بیان کرتے ہیں جو ان کے افہام سے ناپید ہو گئے ہیں۔ اور انہیں کتاب خدا کے ذریعے ہدایت یافتہ ہونے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ انہی کے باعث دین محفوظ اور شک سے بالاتر رہتا ہے۔ اور اللہ عزوجل کے جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی میں باطل داخل نہیں ہوتا اور اللہ کے احکام جاری رہیں گے کہ جن میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی اور نہ تغیر ہوتا ہے۔

رسالت و نبوت سنت ہے اور امامت فرض اور اللہ تعالیٰ کے فرائض حضور اکرم کے ذریعہ ہمارے لئے جاری ہوئے جو ہمارے لئے لازم ہیں اور قیامت تک نہ مستقطع ہونگے نہ تبدیل۔ ہاں ہم اس روایت کا بھی انکار نہیں کرتے جس میں کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد کے درمیان جو زمانہ فترت تھا اس میں کوئی نبی یا وصی نہیں تھا۔ ہم اس سے انکار نہیں کرتے اور کہتے ہیں: یہ روایت صحیح ہے مگر ہمارے مخالفین انبیاء و ائمہ و رسولان علیہم السلام کے انقطاع کے بارے میں جو تاویل کرتے ہیں اسے نہیں مانتے۔

فترت کے معنی ہیں ایسا زمانہ جس میں کوئی رسول یا نبی یا وصی ظاہر و مشہور نہ ہو جس طرح اس سے قبل تھا۔ اور اسی پر نازل شدہ کتاب کی دلیل ہے کہ اللہ عزوجل نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسولوں کی فترت کے وقت پر مبعوث کیا کہ انبیاء و اوصیاء کی فترت کے وقت۔ حضور اکرم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کئی انبیاء اور ائمہ آئے جو لوگوں کے خوف سے پوشیدہ رہے۔ انہی میں خالد بن سنان عسی بنی بھی تھے جن کا انکار کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے بارے میں روایات خاص و عام میں مشہور ہیں۔ اور ان کی صاحبزادی (۱) نے حضور کا زمانہ پایا اور آپ سے ملاقات کرنے آئیں تو آپ نے فرمایا: یہ اس نبی کی بیٹی ہے جس کو اس کی قوم نے کروز کر دیا اور وہ خالد بن سنان تھے۔ ان کے اور حضور اکرم کی بعثت کے درمیان پچاس سال کا فاصلہ تھا۔ ان کا پورا نام خالد بن سنان بن بعیث بن مریط بن مخزوم بن مالک بن غالب بن قطیعہ بن عیس تھا یہ بات مجھ سے اہل علم و فقتہ کی ایک جماعت نے بیان کی۔

(۱) معارف میں ابن قتیبہ نے تحریر کیا۔ اس کی بیٹی رسول اللہ کے پاس آئی تو میں نے آنجناب کو قتل ہوا اللہ احد کی قرأت کرتے ہوئے سنا اس پر اس (خاتون) نے کہا: میرے والد بھی نبی کہا کرتے تھے۔

۳۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن حسن بن احمد بن ولید نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے سعد بن عبد اللہ نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن ولید خزاز اور سند بن محمد بزاز نے ان دونوں سے محمد بن ابی عمیر نے ان سے ابان بن عثمان اجمری نے ان سے بشیر بن ابی ان سے حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہما السلام نے فرمایا کہ خالد بن سنان عسی کی بیٹی حضور اکرم کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا ہرجا اے میرے بھائی کی بیٹی۔ آپ نے اس کو پاس بلایا اس کے لئے ردا بٹھائی اور اس کو اپنے پاس بٹھایا پھر فرمایا یہ اس بیٹی کی بیٹی ہے جس کو اس کی قوم نے کمزور کر دیا اور وہ خالد بن سنان عسی تھے۔

اس کا نام بحیثیت خالد بن سنان تھا۔

اور بعد اس کے کہ اگر کتاب منزل نہ ہوتی اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بزبان نبی مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خبر دی کہ جس پر امت کا اہراج ہے جو آنجناب سے نقل کیا گیا ہے نیز یہ روایت کتاب خدا کے موافق ہے کہ آنجناب کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اللہ کی حکمت میں یہ واجب و لازم تھا کہ بندگان خدا کو ڈرانے والے رسول کے بغیر رکھنا جائز نہیں جب تک تکلیف شرعی ان پر باقی ہے۔ چنانچہ رسول ان پر متواتر آتے رہے جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے ثم ارسلنا رسلنا تنزلاً کل ما جاء امة رسولها كذبوا فاتبعنا بعضهم بعضاً (سورة مومنون آیت ۲۴)۔ پھر ہم نے اپنے رسول نکاتا بھیجے۔ جب کسی امت کا رسول اس کے پاس آیا انہوں نے اسے جھٹلایا پھر ہم نے بھی ایک کو دوسرے کے قدم قدم کر دیا۔

نیز ارشاد ہے: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل (سورة نساء آیت ۱۶۵) تاکہ لوگوں کو اللہ پر الزام کا موقع رسول کے بعد باقی نہ رہے۔ کیونکہ لوگوں کی جت اسی وقت ساقط ہوتی ہے جب اللہ رسول بھیجے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے: لولا ارسلنا رسلنا لفسدت الدنيا (سورة فاطر آیت ۲۲)۔ تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری نشانیوں کی پیروی کرتے۔

پس لوگوں کی جت کو ساقط کرنے کے لئے اللہ نے رسول بھیجے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات و بالذی قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين (سورة آل عمران آیت ۱۸۳)۔ تم کہہ دو کہ مجھ سے پہلے بہت سے رسول تمہارے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے تھے اور جو کچھ تم کہتے ہو یہ بھی لانے تھے پھر اگر تم سچے ہو تم ان کو قتل کیوں کیا تھا۔

پس بندوں پر تکلیف شرعی اس وقت لازمی آتی ہے۔ جب ان کے پاس کوئی ڈرانے والا رسول آئے جو انہیں امور دین و دنیا کی مصیحتیں سکھائے، ان کے ظالموں کے مقابلے میں مظلوموں سے انصاف کرے۔ اور قوی سے کمزور کا حق

دائیں دلائے پس اللہ کی بخت اسی طرف قائم ہو سکتی ہے۔

اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ حضرت محمدؐ پر سلسلہ رسالت و نبوت ختم ہو گیا اور ہم نے اس بات کو مان لیا اور یقین کر لیا کہ آپؐ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ پس اب کسی ایسے سلسلہ کی ضرورت ہے جو سلسلہ رسالت و نبوت کی جگہ قائم ہو اور جس کے ذریعہ اللہ کی بخت قائم ہو، جس کے ذریعے سے ہمارے امراض دور ہو سکیں۔ اور اللہ نے اپنے نبی سے قرآن میں فرمایا: **انما انت منذر ولكل قوم ہاد** (سورۃ رعد آیت ۶) "تیرا کام تو ڈرانا ہے اور ہر قوم کے لئے ایک ہادی ہے"۔ پس اس سلسلہ ہدایت کی ضرورت اس وقت تک رہے گی جب تک یہ دنیا باقی ہے اور تکلیف شرعی و اوامر و نواہی باقی ہیں۔ اور لازمی ہے کہ یہ ہادی ہماری طرح نہ ہو جس کو خود سیدھا ہونے کی، ادب سیکھنے کی اور حق کی طرف ہدایت پانے کی ضرورت ہو اور وہ علم شریعت اور مصارف دین میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ بلکہ وہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہو اور اللہ کی جانب سے الہام کے ذریعے ہدایت یافتہ ہو جیسے کہ اُمّ موسیٰ کی طرف الہام کیا گیا تھا جس میں ان کی اور موسیٰ کی فرعون اور اس کی قوم کی جانب سے نجات تھی۔

پس امام کا سارا علم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی لئے وہ کتاب خدا کا عالم ہوتا ہے اور اس کی تزیین و تفسیر و تاویل و معانی و ناخ و منسوخ، محکم و متشابہ، حلال و حرام، اوامر و نواہی، وعدہ و وعید، امثال و قصص کو جانتا ہے اور یہ علم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لئے وہ اپنی رائے یا قیاس سے کام نہیں لیتا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **ولورودوا الی الرسول والی اولی الامر منہم لعلہ الذین یستنبطونہ** (سورۃ نساء آیت ۵۸) "اور اگر وہ اسے رسول تک اور ان میں جو (اللہ کے) امر والے ہیں ان تک پہنچاتے۔ تو بات کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں۔"

اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مسلمانوں کے تمام فرقوں نے رسول اکرمؐ کی اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ انی تارک فیکم ما ان تمسکتہم بہ لن تضلوا ۱ کتاب اللہ عزوجل و عترتی اہل بیٹی و انہما لن یفترا قاحتی یرداعلی الحوض" میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ اگر ان سے مستحک رہے تو گمراہ نہ ہو گے۔ ایک اللہ کی کتاب دوسری میری عترت اہل بیت یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر نہیں گے۔

نیز آپؐ نے فرمایا: **الانمة من اہل بیٹی لا تعلموہم فانہم اعلم منکم** "میرے ائمہ اہل بیت کو نہ پڑھاؤ وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ پس رسول اللہ نے فرمایا: ہم نے ان کو علم دیا ہے اور یہ بھی فرمایا: وہ اپنا قائم مقام ہماری ہدایت اور علم کتاب کی معرفت کے لئے ہم میں چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن امت بہت جلد ان دونوں سے مفارقت اختیار کرے گی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ جن کو محفوظ رکھے اور ان کو وہ ضروری سمجھیں اور ان کے اتباع سے گمراہی

اور ہلاکت سے بچ سکیں اور یہی صحیح ضمانت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے دی جائے گی جب کہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہ ہو۔ اور اس چیز کا اجماع نہ کیا جائے جس کی طرف وحی کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ان دونوں سے تمسک رکھے گا وہ ہرگز گمراہ نہیں ہوگا اور یہ کہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ حوض کوثر پر وارد ہوں۔

آپ کا ارشاد ہے کہ آپ کی امت فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اس میں ایک فرقہ نجاتی ہوگا باقی سب ناری۔ پس آپ کے دونوں اقوال کو سامنے رکھیں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو فرقہ کتاب و عترت سے تمسک رکھے گا وہ ہلاکت سے دور رہے گا۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں سے تمسک رکھنے والا گمراہ نہ ہوگا۔

اور آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میری امت میں وہ شخص دین سے اس طرح نکل جائے گا جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے جس نے کتاب و عترت میں فاصلہ ڈال دیا۔ اس بات نے ہمیں آگاہ کیا کہ جو چیز ہمارے لئے چھوڑی گئی ہے یہ ہمارے عذر اور حجت کے لئے یقینی چیز ہے اور اللہ عزوجل ہماری طرف رسولوں کے بھیجنے سے بے نیاز ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت میں قرآن، تزیل، سورۃ و آیات، قرات، معانی و تفسیر اور تاویل کے بارے میں کثرت سے اختلاف ہیں اور ہر کوئی اپنی بات ثابت کرنے کے لئے آیات قرآنی کا سہارا لیتا ہے۔ پس ہم نے جان لیا کہ جو شخص قرآن کا علم رکھتا ہے جس کا وہ محتاج ہے تو وہ وہی شخص ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس کتاب سے قریب کیا ہے جو قیامت تک اس سے جدا نہیں ہوگی۔

اس کے باوجود یہ ضروری ہے کہ اس کتاب کے ہم نشین ہادی کے ساتھ دلیل ہو اور ایسی رہنمائی ہو جو دلیلوں سے باری ہوئی مخلوق اور اس کی طرف احتیاج رکھنے والوں کے لئے ان دونوں کو ظاہر کرتی ہو اور ان دونوں کے ذریعے اس کے اندر صفات پیدا ہونی چاہئیں اور علم ہونا چاہیے اور اس ہادی کی ثابت قدمی لوگوں کی صفات سے الگ ہو۔ اور وہ ان کی ہر چیز سے بے نیاز ہو۔ تو اس طرح ان کی معرفت، مخلوق کے اہم معجزانہ دلالت اور حجت لازمہ کے ساتھ ثابت ہوگی کہ دلیل سے ہارے ہوئے لوگ اس کی امامت کے اقرار کی طرف زیادہ بے چین ہوں گے تاکہ اس ذریعے سے سچا مومن، جھوٹے کافر کے مقابلے میں ظاہر ہو جائے کہ جو انتہائی عناد رکھنے والا اور لوگوں کو دھوکے میں رکھنے والا، اپنے جھوٹے اقوال اور غلط خیالات اور مختلف کتب و اخبار کی تاویلات کرنے والا ہے اس لئے کہ عناد رکھنے والا برہان کو قبول نہیں کرتا۔

اب اہل الحاد و عناد یہ دلیل دیتے ہیں کہ کیونکہ کتاب خدا میں ہر شے کا بیان موجود ہے اس لئے اس کے ہوتے ہوئے ہم دوسرے ہدایت کے محتاج نہیں رہتے۔ جسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **صَافِرُ طَنَافُصِ الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ** (سورۃ انعام آیت ۳۸) "ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں رکھی۔"

ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ بے شک کتاب خدا میں ہر شے کا بیان ہے جس میں واضح نصوص ہیں مگر ہم

دیکھتے ہیں کہ بعض مقامات میں اختلاف بھی نظر آتا ہے حالانکہ قولِ خدا میں اختلاف جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ ارشادِ رب العزت ہے: **وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا** (سورۃ نساء آیت ۸۲) "اور اگر یہ ہوتا کسی اور کا سوائے اللہ کے تو ضرور پاتے اس میں بہت اختلاف"۔ پس مکلفین کے لئے لازم ہے کہ کوئی ایسا فرد ہو جو قرآن کے بیان کو دلیل و حجت سے واضح کرے۔ جیسے کہ ہم سابقہ امتوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے نبی کی وفات کے بعد کتابِ خدا میں اختلاف کا شکار ہو گئیں اور اہل توریت مخص توریت کے باعث اہل زبور، زبور کے باعث۔ اہل انجیل، انجیل کے باعث کسی ہادی سے مستغنی نہیں ہوئے حالانکہ ان کتابوں کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ ان میں ہدایت اور نور ہے جس کے ذریعہ انبیاء، حکم دیتے تھے۔ پس وہ امتیں اس حکم کو ان کتابوں سے حاصل کرنے میں ایک ہادی کی محتاج رہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں موجود علم کو لوگوں کو بیان نہیں کیا بلکہ اس مقصد کے لئے ان کی طرف رسول بھیجے اور ہر رسول کے لئے ایک وصی قرار دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اگلے نبی کی آمد تک وہ اس وصی کی اطاعت کریں تاکہ ان پر حجت قائم رہے اور وہ اوصیاء کتابِ خدا سے فیصلے کرتے تھے جیسے کہ ارشادِ خداوندی ہے: **يُحْكَمُ بِنُهَا النَّبِيِّونَ الَّذِيْنَ اسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبَّانِيُوْنَ وَالْاَحْبَابِ بِمَا اسْتَحْفَظُوْا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شٰهِدًا** (سورۃ مائدہ آیت ۴۴) "وہ نبی جو مطیعِ خدا تھے۔ یہودیوں کے فیصلے اسی کے مطابق کرتے رہنا ہی طرحِ اللہ والے لوگ اور علماء جن کو اللہ کی کتاب کی حفاظت سپرد کی گئی تھی اور وہ اس کے گواہ تھے۔"

پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبیؐ کے بعد رسالت کا سلسلہ بند کر دیا اور ان کے اہل بیت اور عترت میں سے ہمارے لئے ہادی مقرر کئے جو حق کی طرف ہماری رہنمائی کریں۔ ہم سے اندھے پن کو ہٹائیں اور امت کو اختلاف و تفرقہ سے دور رکھیں۔ وہ خطا و گناہ سے معصوم اور کتابِ خدا سے مشغول ہیں اور ہمیں حکم دیا کہ ہم کتاب و عترت سے تمسک رہیں اور ہمیں اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے معلوم ہوا کہ ہم گمراہ نہیں ہوں گے اگر ان دونوں سے ہم نے تمسک رکھا۔ اگر سلسلہ امامت جاری نہیں کیا جاتا تو بعثتِ رسول کی حکمت باطل قرار پاتی اور ہم سے تکلیف ساقط ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کا بیان اپنے نبیؐ سے اس طرح کیا: **انما انت منذر و لكل قوم هاد** (سورۃ زمر آیت ۷) "تیرا کام تو ڈرانا ہے اور ہر قوم کے لئے ہادی ہے۔" پس اس طرح ہم پر اللہ کی حجت بانہ ہے۔

رسولوں انبیاء اور اوصیاء صلوات اللہ علیہم سے زمین کبھی بھی خالی نہیں رہی نسبتہ دشمنوں کے خوف کے پیش نظر بعض نے اپنی دعوت کو ظاہر نہیں کیا اور اپنی تبلیغ کو صرف مومنوں تک محدود رکھا، یہاں تک کہ حضرت محمدؐ مبعوث

ہوئے۔ حضرت عیینہ کے آخری وصی کا نام آبی تھا بعض کہتے ہیں یا بل تھا۔

۳۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے سعد بن عبداللہ نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے احمد بن محمد بن عیینہ، محمد بن حسین بن ابی خطاب، یعقوب بن یزید کاتب اور احمد بن حسن بن علی بن فضال نے ان سے عبداللہ بن بکیر نے ان سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیینہ کے آخری وصی کا نام آبی تھا۔

۵۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن حسن بن احمد بن ولید نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن حسن صفار اور سعد بن عبداللہ نے ان دونوں سے یعقوب بن یزید کاتب نے ان سے محمد بن ابی عمیر نے ان سے ہمارے اصحاب کی ایک جماعت نے بیان کیا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیینہ کے آخری وصی کا نام یا بل تھا۔

۶۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد اور محمد بن حسن نے ان دونوں کا بیان ہے کہ کہا ہم سے سعد بن عبداللہ نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے ہمیشہ بن ابی مسروق ہندی اور محمد بن عبداللہ نے ان سے اسماعیل بن سہل نے ان سے محمد بن ابی عمیر نے ان سے درست بن ابی منصور واسطی وغیرہ نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب سلمان فارسی کئی علماء کے پاس تلاش حق کے لئے گئے آخر میں آپ آبی کے پاس گئے اور اس وقت تک اس کے پاس رہے جب تک اللہ نے چاہا۔ یہاں تک کہ حضور اکرم کا ظہور ہوا تو آبی نے کہا: اے سلمان وہ شخص جس کی تم کو تلاش ہے وہ مکہ میں ظاہر ہو گیا ہے۔ پس حضرت سلمان مکہ تشریف لے آئے۔

۷۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد اور محمد بن حسن نے ان دونوں نے کہا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے کوفہ کے رہنے والے اصحاب کی ایک جماعت نے ان سے محمد بن اسماعیل بن بزیر نے ان سے امیہ بن علی قیس نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے درست بن ابی منصور واسطی نے انہوں نے کہا کہ ابوالمحسن اول یعنی حضرت امام موسیٰ کاظم سے دریافت کیا گیا کہ کیا رسول اللہ پر آبی حجت تھے۔ تو آپ نے فرمایا: نہیں بلکہ حضور تک آبی کے ذریعہ وصیت انبیاء پہنچی اور آپ نے اسے قبول فرمایا۔ میں نے عرض کیا: کیا حضور آبی پر حجت تھے۔ فرمایا: اگر حضور حجت ہوتے تو ان تک آبی وصیت نہیں پہنچاتے۔ میں نے عرض کیا: پھر آبی کا کیا حال تھا۔ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے حضور کی رسالت اور جو آپ پر نازل ہوا اس کا اقرار کیا۔ آپ تک وصیت انبیاء پہنچائی اور اسی دن فوت ہو گئے۔

پس فترت کا مطلب ہے بھٹی، پوشیدہ اور ظہور و اعلانِ دعوت کی ممانعت ناکہ اس کا مطلب سرے سے کسی شخص یا کسی ذات کا غائب ہو جانا۔ جیسے خدا ملائکہ کے تذکرے میں ارشاد فرماتا ہے: **يَسْبَحُونَ الْبَيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتَنُونَ** (سورۃ انبیاء، آیت ۲۰) "یاد کرتے ہیں ات اور ان نہیں جھکتے۔" پس اگر اس آیت میں فتور کا مطلب

کسی ذات کا غائب ہو جانا لیا جائے تو یہ آیت محال قرار پاتی ہے کیونکہ اگر ملائکہ سوتے ہیں تو سونے والا (ذہنی اعتبار سے) غائب ہو جاتا ہے اور سونے والا تسبیح نہیں کرتا کیونکہ جب سو جاتا ہے تو تسبیح سے رک جاتا ہے۔ اور یقیناً ہمزول موت ہوتی ہے جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے: **اللہ ینوفی الانفس حین موتھا والتی لم تمت فی منا** (معا (سورۃ زمر آیت ۴۲) "اللہ کھینچ لیتا ہے جانیں جب وقت ہو ان کے مرنے کا اور جو نہیں مریں ان کو کھینچ لیتا ہے ان کی زندگی میں۔"

نیز ارشاد خداوندی ہے **وہو الذی یتوفکم باللیل و یعلم ماجر حتم بالنہار** (سورۃ انعام آیت ۶۰) اور وہی ہے کہ قبضہ میں لیتا ہے تم کو رات میں اور جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر چکے ہو دن میں "تا تم فاجر ہمزول میت ہے اور وہ ذات جیسے نہ یقیناً آتی ہے، نہ اونگھ، نہ سوتا ہے، نہ فاجر ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ اور یہ روایت اس پر دلیل ہے:

۸۔ بیان کیا جھ سے میرے والد نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے سعد بن عبداللہ نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے احمد بن محمد بن عیسیٰ نے ان سے عباس بن موسیٰ وراق نے ان سے یونس بن عبدالرحمن نے ان سے داد بن فرقد عطار نے انہوں نے کہا کہ ہمارے اصحاب میں سے ایک نے خبر دی ہے کہ مجھے بتائیں کہ کیا ملائکہ سوتے ہیں ان میں نے کہا نہیں معلوم۔ تو اس نے کہا اللہ عزوجل کا ارشاد ہے **یسبحون الیل والنہار لایفترون** (سورۃ الانبیاء آیت ۲۰) "رات دن اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور کابلی نہیں کرتے۔" پھر کہا: کیا میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشادات میں سے کچھ اس سوال کے متعلق تمہیں بطور ہدیہ پیش کروں؟ میں نے جواب دیا: کیوں نہیں۔ بتاؤ پس اس نے کہا: (امام سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا) جو بھی زندہ ہے وہ سوتا ہے سوائے خدائے واحد و عزوجل کے اور ملائکہ ہوتے ہیں۔

میں نے عرض کیا: اللہ عزوجل کا فرمان ہے **یسبحون الیل والنہار لایفترون** فرمایا: ان کا سانس لینا تسبیح ہے۔

پس فقرت کا مطلب ہے کہ اظہار امر وہی سے باز رہنا۔

اور لغت بھی ایسے ہی معنی پر دلالت کرتی ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے **فتر فلان عن طلب فلان** اور **فتر عن مطالبته** اور **فتر عن حاجتہ** یہاں مطلب ہے مطالبہ اور حاجت سے باز رہنا نہ کہ مرے سے کسی شخص کا ہی غائب ہو جانا۔

بعض لوگ دیس کے حور پر قرآن کی دو آیات پیش کرتے ہیں۔ ایک تو سورہ مجدہ کی آیت ۳ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **لتنذر قوماً ما آتھم من نذیر من قبلک** تاکہ تم ڈراؤ ان لوگوں کو جن کے پاس کوئی

ڈرانے والا تم سے پہلے نہیں آیا۔ اور دوسری سورۃ سبأ کی آیت ۴۴ ہے۔ وما اتینہم من کتب یدر سو نہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر۔ اور ہم نے ان کو کتابیں تو دی نہیں تھیں جنہیں وہ پہنچتے اور نہ ہم نے تم سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا بھیجا تھا۔ ان دو آیات کو ہمارے مخالف اس بات کی دلیل قرار دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضور اکرمؐ کے درمیان نہ تو کوئی نبی آیا اور نہ کوئی رسول اور نہ کوئی حجتِ خدا۔ دراصل وہ ان آیات کی تاویں ہی غلط کر رہے ہیں۔ یہاں تذکرہ نذیر کا ہے۔ اور نذیر صرف رسول ہوتے ہیں۔ نہ تو انبیاء اور نہ ہی اوصیاء کے لئے نذیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے حضور اکرمؐ سے اللہ نے ارشاد فرمایا: انما انت منذر و لكل قوم ہاد (سورۃ رعد آیت ۷)۔ تیرا کام تو ڈرانا ہے۔ اور ہر قوم کے لئے ہادی ہوا کرتا ہے۔ پس نذیر رسول ہی ہوتے ہیں اور انبیاء و اوصیاء ہادی کہلاتے ہیں اور اللہ عزوجل کا قول: "و لكل قوم ہاد" خود اس بات کی دلیل ہے کہ زمین حجتِ خدا سے کسی زمانے میں خالی نہیں رہی۔ تمام قوموں اور تمام زمانوں میں بندوں کے لئے اللہ عزوجل کی جانب سے انبیاء اور اوصیاء میں حجت کا ہونا لازم ہے۔

پس اللہ عزوجل کی جانب سے لازم کر دیا گیا ہے کہ جب تک تکلیف شرعی باقی ہے، انبیاء اور اوصیاء کے ذریعے غیر منقطع ہدایت جاری رہے اس لئے کہ وہ ڈرانے کے کام کی ادائیگی کرتے ہیں۔ ہاں جائز ہے کہ ڈرانے کا سلسلہ منقطع ہو جائے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد منقطع ہوا اور آپؐ کے بعد کوئی نذیر نہیں آیا۔

۹۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد اور محمد بن حسنؑ نے ان دونوں نے کہا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ نے ان سے محمد بن حسین بن ابی خطاب اور یعقوب بن یزید نے ان دونوں سے حماد بن عیسیٰ نے ان سے حمید بن عبداللہ نے ان سے محمد بن مسلم نے انہوں نے کہا کہ میں نے آیت "انما انت منذر و لكل قوم ہاد" کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق صلیہ السلام سے دریافت کیا۔ تو آپؑ نے فرمایا: ہر امام اپنی قوم کے لئے ان کے زمانے میں ہادی ہوتا ہے۔

۱۰۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے سعد بن عبداللہ نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے احمد بن محمد بن عیسیٰ نے ان سے ان کے والد نے ان سے ابن ابی عمیر نے ان سے عمر بن اذنیہ نے ان سے برید بن معاویہ عجمی نے انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت "انما انت منذر لكل قوم ہاد" کے معنی دریافت کئے تو آپؑ نے فرمایا: منذر سے مراد رسول اللہؐ اور ہاد سے مراد حضرت علی ابن ابی طالب ہیں۔ اور ہر وقت اور ہر زمانے میں ہم میں سے ایک امام ہوگا جو لوگوں کو رسول اللہ کی تعلیمات کی طرف بنائے گا۔

اس مفہوم کی کثرت سے روایت وارد ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرمؐ سے جو یہ فرمایا کہ "لتنذر

قوماً ما اتاهم من نذیر من قبلک " تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے پہلے ان کے درمیان کوئی رسول نہیں آیا۔ جس نے شریعت میں تبدیلی کی ہو اور ملت میں تغیر کیا ہو۔ اور نہ ان سے اوصیاء کی ہدایت اور دعوت کی نفی کی گئی ہے۔ اور اس بات کی نفی اللہ تعالیٰ کیسے کر سکتا ہے جبکہ اس نے ارشاد فرمایا: **واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاء ہم نذیر لیکونن اھذی من اھدی الامم فلما جاء ہم نذیر ما زادہم الا نفورا** (سورۃ فاطر آیات ۳۲) " اور انہوں نے اپنی قوت بھر خدا کی قسم کھا کر کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آئے گا تو ہم ہر پہلی امت سے زیادہ راہ راست پر آجانے والے ہو جائیں گے مگر جب ان کے پاس ڈرانے والا آیا تو ان کی نفرت اور زیادہ ہوئی۔"

اور اسی قسم کی دوسری روایات بھی ہم نے اس کتاب میں ذکر کی ہیں۔ **ولا قوۃ الا باللہ**۔

۱۱۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن موسیٰ بن متوکل نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے عبداللہ بن جعفر حمیری نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے حسن بن ظریف نے ان سے صالح بن ابی حماد نے ان سے محمد بن اسماعیل نے ان سے حضرت امام ابو الحسن الرضا علیہ السلام نے فرمایا: جو شخص مرجائے اس حالت میں کہ اس کا کوئی امام نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ میں نے عرض کیا: کیا ہر وہ شخص جو بغیر امام کے مرجائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ آپ نے فرمایا: ہاں اور واقف (رک جاننے والے) کافر ہیں۔ اور ناصبی مشرک ہیں۔

۱۲۔ علی بن حاتم نے مجھے خط کے ذریعے خبر دی انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے حمید بن زیاد نے ان سے حسن بن علی بن سماء نے ان سے احمد بن حسن پیشی نے ان سے سماء وغیرہ نے انہوں نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت امام قائم کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ **ولایکو نوا کالذین او تووا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقسست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون** (سورہ حدید آیت ۱۶) " اور ان لوگوں کی مانند نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی پھر ان پر ایک زمانہ گزر گیا پس ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔"

۱۳۔ انہی استاد کے ساتھ بیان کیا مجھ سے احمد بن حسن پیشی نے ان سے حسن بن محبوب نے ان سے مومن طاق نے ان سے سلام بن مستیر نے ان کا بیان ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اس آیت **اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتھا** (سورہ حدید آیت ۱۶) "جان رکھو کہ اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرجانے کے بعد کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ امام قائم کے ذریعہ مردہ زمین کو زندہ کرے گا۔ یہاں موت سے مراد زمین کے رہنے والوں کا کفر ہے کیونکہ کافر میت ہوتا ہے۔"

۱۴۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن ابراہیم بن اسحاق نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے عبدالعزیز بن یحییٰ جنودی بصری نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن زکریا جوہری نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن جعفر بن عمار نے ان سے ان کے والد نے ان سے سعد بن طریف نے ان سے اصبح بن نباد نے انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ افضل کلام "لا الہ الا اللہ" ہے اور اول افضل خلق وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے "لا الہ الا اللہ" کہا۔ کسی نے پوچھا کہ حضور وہ شخص کون تھا جس نے سب سے پہلے "لا الہ الا اللہ" کہا؟ آپ نے فرمایا وہ میں تھا۔ میں بصورت نور اللہ کے حضور موجود تھا اور اس کی تمجید و تسبیح و تحمید و تقدیس و تجید کرتا تھا۔ پھر میرے نور سے ایک شاہد کا نور پیدا کیا گیا۔ پوچھا گیا: حضور آپ کا شاہد کون ہے؟ آپ نے فرمایا۔ علی ابن ابی طالب جو میرا بھائی، میرا صفی، میرا وزیر، میرا خلیفہ، میرا وصی، میری امت کا امام، میرے کوثر کا ساتی اور میرے لوا۔ حمد کا اٹھانے والا ہے۔ پھر عرض کیا گیا: حضور ان کے نور سے کون خلق ہوا؟ فرمایا حسن اور حسین جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور ان کے بعد حسین کی نسل سے قیامت تک آنے والے امت۔

۱۵۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن حسن نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے حسین بن حسن بن ابان نے ان سے حسین بن سعید نے ان سے محمد بن حسن کنانی نے ان سے ان کے جد نے ان سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم پر ان کی موت سے پہلے ایک کتاب اتاری اور فرمایا: اے محمد! یہ کتاب دراصل جہادی وصیت ہے جو تم اپنے خاندان میں نبیب کو دے دو۔ حضور اکرم نے فرمایا: اے جبریل! میرے خاندان میں نبیب کون ہے؟ جبریل نے عرض کیا۔ علی ابن ابی طالب۔ اس کتاب پر سونے کی کئی مہریں لگی تھیں۔ پس حضور نے وہ کتاب حضرت علی ابن ابی طالب کو دی اور تاکید کی کہ ان مہروں میں سے ایک کو وہ توڑیں اور جو اس کتاب کے حصہ میں لکھا ہے اس پر عمل کریں۔ پس (حضور کے انتقال کے بعد) حضرت علی ابن ابی طالب نے ایک مہر توڑی اور کتاب میں تحریر ہدایت کے مطابق عمل کیا۔ پھر وہ کتاب اپنے فرزند حسن کو دی انہوں نے بھی ایک مہر توڑی اور اس میں تحریر ہدایت کے مطابق عمل کیا۔ پھر وہ کتاب امام حسین کے پاس آئی۔ آپ نے بھی اپنے حصہ کی مہر توڑی تو دیکھا کہ اس میں تحریر تھا کہ شہادت کے لئے خروح کریں اور جو آپ کی حمایت میں لڑے گا وہ بھی یہ مرتبہ پائے گا اور اپنا نفس اللہ کے حوالے کر دیں۔ پس اس کے مطابق عمل کیا۔ پھر حضرت علی بن حسین (امام زین العابدین) نے اپنے وقت میں اس کی ایک مہر توڑی تو آپ کے لئے ہدایت درج تھی کہ خاموشی اور گوشہ نشینی اختیار کریں۔ اور عبادت الہی کریں یہاں تک کہ یقین (موت) آجائے۔ پس آپ نے بھی اس کے مطابق عمل کیا۔ پھر وہ کتاب حضرت امام محمد باقر کے پاس پہنچی آپ نے مہر توڑی تو اس میں تحریر تھا کہ لوگوں کو احادیث بیان کریں۔ احکام شرعی بتائیں اور صرف

انہ سے ڈریں۔ کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر وہ کتاب میرے (امام جعفر صادق) کے پاس آئی۔ میں نے مہر توڑی تو میرے لئے یہ ہدایت درج تھی کہ میں لوگوں میں احادیث بیان کروں احکام شرعی بتاؤں اور علوم اہل بیت کی نشر و اشاعت اور اپنے آباء، صالحین کی تصدیق کروں اور صرف اللہ سے ڈروں اور میں مرزومان میں ہوں۔ پس میں نے اس کے مطابق عمل کیا اب یہ کتاب میں موسیٰ بن جعفر کو دوں گا اور وہ لہنے بعد کے امام کو۔ اس طرح یہ کتاب امام مہدی تک پہنچے گی۔

۱۶۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن موسیٰ بن متوکل نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے علی بن حسین سعد آبادی نے ان سے احمد بن ابی عبد اللہ برقی نے ان سے ان کے والد نے ان سے محمد بن ابی عمیر نے ان سے علی بن ابی حمزہ نے ان سے ابی بصیر نے انہوں نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت ہوا الذی ارسل رسولہ بالهدی و دین الحق لیظہر لا علی الدین کله و لو کرا المشرکون (سورۃ توبہ آیت ۳۳) "اسی نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر تاکہ اس کو تمام ادویان پر غالب کر دے گو مشرکوں کو برا لگے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اس آیت کی تاویل ابھی تک نازل نہیں ہوئی۔ اور نہ اس وقت تک ہوگی جب تک کہ امام قائم فروج نہ کر لیں۔ پھر کوئی کافر اور کوئی مشرک باقی نہ رہے گا یہاں تک کہ اگر کوئی کافر یا مشرک پہاڑ کے اندر بھی پناہ لے گا تو وہ پہاڑ آواز دے گا کہ اے مومن میرے بطن میں کافر (چھپا) ہے اس کو باہر نکال کر قتل کر دو۔

۱۷۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن علی ماجیلوی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن یحییٰ عطار نے ان سے محمد بن حسین بن ابی خطاب اور احمد بن محمد بن عیسیٰ نے ان دونوں سے محمد بن ستان نے ان سے ابی جارد زیاد بن منذر نے انہوں نے کہا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام قائم مکہ سے فروج کریں گے تو ایک منادی ندا دے گا کہ کوئی شخص اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان لے کر نہ چلے۔ آپ کے ساتھ وہ پتھر ہوگا جو موسیٰ بن عمران کے ساتھ تھا اس میں سے چشمہ جاری ہوگا۔ پس جو بھوکا ہوگا اس کا پانی پی کر اس کی بھوک ختم ہو جائے گی اور پیاسے کی پیاس۔ یہاں تک کہ آپ کو فوج کے قریب پہنچیں گے۔

۱۸۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن حسن بن احمد بن ولید نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن حسن صفار نے ان سے یعقوب بن یزید نے ان سے محمد بن ابی عمیر نے ان سے ابان بن عثمان نے ان سے ابان بن تغلب نے انہوں نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ امام قائم کی بیعت سب سے پہلے جبرئیل کریں گے۔ وہ سفید پرندہ کی صورت میں نازل ہوں گے اور بیعت کریں گے پھر ایک شخص کو بیت اللہ حرام پر اور ایک کو بیت المقدس پر چڑھایا جائے گا اور فصیح زبان میں ندا دی جائے گی جسے تمام مخلوق سنے گی اتی امر اللہ فلا تستعجلوا (سورۃ نحل

آیت ۱) - آپہنچا حکم اللہ کا سو اس کی جلدی مت کرو۔

۱۹ - انہی استاد کے ساتھ ابان بن تغلب سے مروی ہے کہ ان سے حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جلد ہی چہاری مسجد یعنی مکہ کی مسجد میں تین سو تیرہ افراد آئیں گے۔ اہل مکہ سمجھ لیں گے کہ ان لوگوں کو ان کے آباء اجداد نے نہیں جتا ہے (وہ مقامی نہیں ہیں)۔ وہ سب تلواریں لئے ہوئے ہوں گے جن میں ہر تلوار پر کلمہ لکھا ہوگا جس سے ہزار کلمے نکلنے ہوں گے۔ پس اللہ ایک ہوا بھیجے گا جو ہر وادی میں ندا دے گی۔ یہ مہدی ہے جو داؤد اور سلیمان کی طرح فیصلہ کرے گا اور اسے کسی گواہی کی ضرورت نہ ہوگی۔

۲۰ - انہی استاد کے ساتھ ابان بن تغلب سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جب امام قائمؑ خروج کریں گے تو ہر فرد کے لئے ایک نشانی ہوگی جس سے وہ پہچانا جائے گا کہ وہ صالح ہے یا بدکار۔ اس لئے کہ اس میں عقلمندوں کی پہچان ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے۔

۲۱ - انہی استاد کے ساتھ ابان بن تغلب سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دو خون اللہ عزوجل کی جانب سے حلال ہیں کہ کوئی ان کے بارے میں فیصلہ نہیں دے سکتا یہاں تک کہ اللہ عزوجل اہل بیت میں سے قائم کو مبعوث کرے گا اور وہ حکم خدا کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے۔ پس اس وقت گواہی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ شادی شدہ زانی کو سنگسار کیا جائے گا اور مانع زکوٰۃ کی گردن زدنی ہوگی۔

۲۲ - انہی استاد کے ساتھ ابان بن تغلب سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ امام قائمؑ مجھ کے قریب سیاہ، پتھرے گھوڑے پر سوار ہیں جس کی آنکھوں کے درمیان سفید نشان ہوگا۔ جب ان کا گھوڑا حرکت کرے گا تو کسی بھی شہر میں کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہے گا جو یہ گمان نہ کرے کہ وہ ان کے شہر میں موجود ہیں۔ پس جب آپ رسول اکرمؐ کے علم کو ہوا میں پھرائیں گے۔ تو آپ کے پاس تیرہ ہزار ملائکہ نازل ہوں گے۔ (ان میں) تیرہ فرشتے امام قائمؑ کے منتظر ہوں گے یہ وہ فرشتے ہیں جو جناب نوحؑ کے ساتھ سفینہ میں تھے، حضرت ابراہیمؑ کے ساتھ اس وقت تھے جب وہ آگ میں ڈالے جا رہے تھے اور حضرت عیسیٰؑ کے ساتھ اس وقت تھے جب وہ آسمان پر اٹھائے جا رہے تھے۔ اور چار ہزار جھنڈے اٹھائے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ تین سو تیرہ فرشتے وہ ہیں جو جنگ بدر میں تھے اور چار ہزار فرشتے وہ ہیں جو جنگ بدر میں تھے اور چار ہزار فرشتے وہ ہیں جو زمین پر حضرت امام حسینؑ کی معیت میں قتال کے لئے نازل ہوئے تھے مگر جب اجازت نہیں ملی تو واپس چلے گئے تاکہ وہ اللہ سے اجازت طلب کریں اور پھر نازل ہوتے تو امام قتل ہو چکے تھے چنانچہ وہ اب بال بکھرائے ہوئے، خاک آلود حالت میں قبر حسینؑ پر قیامت تک گریہ کریں گے۔ اور امام حسینؑ کی قبر اور آسمان کے درمیان ملائکہ کی آمد و رفت رہتی ہے۔

۲۳ - انہی استاد کے ساتھ ابان بن تغلب سے مروی ہے ان سے ابو حمزہ ثمالی نے کہا کہ حضرت امام محمد باقرؑ نے

فرمایا کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ امام قائم نجف میں ظاہر ہوں گے تو رسول اللہ کا علم لہرائیں گے اور اس کا عمود عرش کے عمود کے مساوی ہوگا اور اس جھنڈے کے ساتھ چلنے والا شخص اللہ عزوجل کی مدد کرے گا۔ جو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ خدا اس کو ہلاک کر دے گا۔ میں نے عرض کیا: یہ علم ان کے ساتھ ہوگا یا لایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا: جبرئیل امام قائم کے لئے لائیں گے۔

۲۴۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن علی ماجلیوٹی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے میرے چچا محمد بن ابی قاسم نے ان سے احمد بن ابی عبداللہ کوئی نے ان سے ان کے والد نے ان سے محمد بن سنان نے ان سے مفضل بن عمر نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ یہ آیت ابن ماتکونوا آیات بکم اللہ جمیعاً (سورۃ بقرہ آیت ۱۲۸) جہاں بھی تم ہو گے اللہ تم کو اکٹھا کر لے گا۔ امام قائم کے اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی وہ لوگ رات کو اپنے بستر پر سوئیں گے اور صبح کو اپنے آپ کو مکہ میں پائیں گے۔ ان میں سے بعض بادلوں پر سفر کریں گے امام ان کو ان کے ناموں، ان کی ولادت، ان کے حلیے اور نسب سے پہچانیں گے۔ میں نے عرض کیا: مولا میں آپ پر قربان ان میں سب سے زیادہ صاحب ایمان کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو دن میں بادلوں میں سفر کرے گا۔

۲۵۔ انہی اسناد کے ساتھ مفضل بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ امام قائم منبر کوفہ پر تشریف فرما ہیں اور ان کے گرد ان کے تین سو تیرہ اصحاب جمع ہیں جن کی تعداد اصحاب بدر کے برابر ہے۔ یہ ہی اصحاب ولایت ہوں گے اور یہ ہی زمین میں خلق پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکام ہوں گے۔ یہاں تک کہ آپ اپنی قبا سے ایک کتاب نکالیں گے جس پر سونے کی نیر ہوگی اس میں وہ عہد ہوگا جو رسول اکرم سے امام قائم تک پہنچا۔ پس وہ سب آپ کے پاس سے منتشر ہو جائیں گے اور صرف آپ کا ایک وزیر اور گیارہ نقیب رہ جائیں گے۔ جیسے حضرت موسیٰ کے پاس رہ گئے تھے بھر (آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ) زمین پر سفر کریں گے اور سب لوگ ایک مذہب میں داخل ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم میں اس کلام کو جانتا ہوں جو امام قائم لوگوں سے کریں گے اور لوگ اس کو جھٹلائیں گے۔

۲۶۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے سعد بن عبداللہ نے ان سے احمد بن حسین بن سعید نے ان سے محمد بن جمہور نے ان سے احمد بن ابی ہر اسہ نے ان سے ابو اسحاق ابراہیم بن اسحاق نے ان سے عبداللہ بن حماد انصاری نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے عمرو بن شمر نے ان سے جابر بن یزید نے ان سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ گویا (میں دیکھ رہا ہوں کہ) اصحاب قائم مشرق و مغرب کو گھیرے ہوئے ہیں اور ہر شے یہاں تک کہ چرند درند بھی ان کے مطیع ہیں۔ اور ہر شے ان کی خوشنودی کی خواستگار ہے حتیٰ کہ (ان میں سے) اگر کوئی ایک کسی راستے سے گزرتا ہے تو وہاں کی زمین یہ کہہ کر دوسری زمین پر فخر کرتی ہے کہ مجھ پر سے امام

قائم کے اصحاب میں سے ایک شخص گزرا ہے۔

۲۷۔ بیان کیا مجھ سے جعفر بن محمد بن مسرور نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے حسین بن محمد بن عامر نے ان سے ان کے چچا عبداللہ بن عامر نے ان سے عبداللہ نے ان سے محمد بن ابی عمیر نے ان سے ابن ابی حمزہ نے ان سے ابی بصیر نے ان سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت لوطؑ کا اپنی قوم سے فرمانا کہ لو ان لی بکم قوۃ او اوی الی رکن شدید (سورۃ صود آیت ۸۰) "کاش مجھ کو تمہارے مقابلہ میں زور ہوتا یا جا بے ہمتا کسی مستحکم پناہ میں" دراصل اس خواہش کا اظہار ہے کہ انہیں وہ قوت حاصل ہو جاتی جو حضرت امام قائمؑ کو حاصل ہوگی اور اس میں اس شدت کا اظہار ہے جو امام قائمؑ کے اصحاب کے لئے ہے۔ امام کے اصحاب میں ہر شخص کو پانچوں افراد کے برابر قوت جسمانی حاصل ہوگی اور ان کے دل لوہے سے زیادہ مضبوط ہوں گے۔ (طاقت کا یہ عالم ہوگا کہ) وہ لوہے کے پہاڑ کو اکھاڑ پھینکیں گے اور اس وقت تک اپنی تلواریں نہیں روکیں گے جب تک اللہ راضی نہ ہو جائے۔

۲۸۔ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن یحییٰ نے ان سے سلمہ بن خطاب نے ان سے عبداللہ بن محمد نے ان سے شیخ بن حجاج بصری نے ان سے مہاشع نے ان سے معلیٰ نے ان سے محمد بن فضیل نے ان سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: حضرت موسیٰ کا عماد اصل حضرت آدمؑ کا تھا جو حضرت شعیبؑ کو خا تھا اور شعیبؑ سے جناب موسیٰ بن عمران کے پاس پہنچا اور اب ہمارے پاس ہے۔ اور اب بھی میں اسے دیکھتا ہوں تو وہ اسی طرح سبز ہے جیسا کہ اس روز تھا جب کہ درخت سے الگ کیا گیا تھا۔ اس سے گفتگو کرو گے تو جواب دے گا۔ وہ قائم آل محمدؑ کے لئے رکھا گیا ہے۔ وہ اس سے وہی کام لیں گے جو موسیٰ بن عمران ایسا کرتے تھے ہم جب چاہتے ہیں وہ حرکت کرتا ہے اور جو اس کے پاس موجود ہوتا ہے اس کو اپنی زبان سے اچکھ پیتا ہے۔

۲۹۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن علی ماجیلوئی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن یحییٰ نے ان سے محمد بن حسین نے ان سے محمد بن اسماعیل نے ان سے ابی اسماعیل سراج نے ان سے بشیر بن جعفر نے ان سے مفصل بن عمر نے ان سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: کیا تم جناب یوسفؑ کی قمیض کا حال جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: جب حضرت ابراہیمؑ کو آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبریلؑ ان کے لئے ایک جامہ ہمشت لائے اور ان کو پہنایا۔ اس پر گرمی سردی کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ جب حضرت ابراہیمؑ کی وفات کا زمانہ قریب آیا تو انہوں نے اس کو تعویذ میں بند کر کے حضرت اسحاقؑ کے (گلے میں) لٹکا دیا۔ اسحاقؑ نے یعقوبؑ کے (گلے میں) لٹکا دیا اور جب حضرت یوسفؑ پیدا ہوئے تو یعقوبؑ نے ان کے گلے میں لٹکا دیا اور وہ ان کے گلے میں ان حالات میں بھی تھا جو ان پر گزر گئے۔ جب حضرت یوسفؑ نے پیراہن کو تعویذ کے درمیان سے مصر میں نکالا تو یعقوبؑ نے اس کی بو سونگھی اور یہی ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ (سورۃ یوسف آیت ۹۴)۔ اگر تم مجھے ناقص

العقل نہ جانو تو مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے۔" وہ یہی پیر بن تھا جو بہشت سے لایا گیا تھا۔ میں نے عرض کیا: میں آپ پر قربان۔ پھر وہ پیر بن کس کے پاس پہنچا۔ آپ نے فرمایا: اپنے اہل کے پاس ہے اور جب ہمارا قائم خروج کرے گا تو اس کے ساتھ ہوگا پھر فرمایا کہ ہر ایک پیغمبر نے کوئی علم یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو میراث چھوڑی سب رسول اللہ کو ملی۔

۳۰۔ انہی اسناد کے ساتھ مفضل بن عمر سے روایت ہے ان سے ابو بصیر نے بیان کیا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب صاحب امر قیام کریں گے (یعنی ان کی حکومت قائم ہو جائے گی) تو اللہ تعالیٰ ہر پست کو بلند اور ہر بلند کو پست کر دے گا۔ جہاں تک کہ دنیا منزلِ راحت بن جائے گی۔ پس تم میں سے کون اس بادل کے سامنے میں ہوگا جو دکھائی نہیں دیتا۔

۳۱۔ بیان کیا مجھ سے جعفر بن محمد بن مسرور نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے حسین بن محمد بن عامر نے ان سے مصلیٰ بن محمد بصری نے ان سے حسن بن علی وشاہ نے ان سے شئیٰ حنظلہ نے ان سے قتیبہ اعشی نے ان سے ابن ابی یعفور نے ان سے بنی ثیبان کے ایک غلام نے کہا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہمارا قائم ظہور کرے گا تو اپنے ہاتھ لوگوں کے سر پر رکھے گا جس کے باعث (اللہ تعالیٰ) ان کے شعور و فکر و تدبر کو زیادہ کر دے گا۔

۳۲۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن موسیٰ بن متوکل نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن یعقوب نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے ابو محمد قاسم بن علاء نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے قاسم بن مسلم نے ان سے ان کے بھائی عبدالعزیز بن مسلم نے نیز بیان کیا ہم سے ابو العباس محمد بن ابراہیم بن اسحاق الحائقی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے ابو احمد قاسم بن محمد بن علی مروزی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے ابو حامد عمران بن موسیٰ بن ابراہیم نے ان سے حسن بن قاسم رقم نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے قاسم بن مسلم نے ان سے ان کے بھائی عبدالعزیز بن مسلم نے کہا کہ ہم ایک زمانے میں مقام مرو میں حضرت امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ہم جمعہ کے روز جامع مسجد میں جمع ہوئے۔ ہمارے درمیان امامت کے موضوع پر بات چیت ہو رہی تھی اور اس بارے میں شدید اختلاف پایا جاتا تھا۔ میں حضرت امام رضا کی خدمت میں آیا اور امامت کے بارے میں لوگوں کے خیالات بیان کئے۔ آپ مسکرائے اور فرمایا: اے عبدالعزیز بن مسلم یہ قوم جہالت کا شکار ہے اور ان کے اذہان نے ان کو دھوکا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی روح کو اس وقت تک قبض نہیں کیا جب تک دین کو کامل نہیں کیا اور قرآن کو نازل کیا جس میں ہر شے کا بیان ہے اور اس میں طلال اور حرام، حدود اور احکام کو بتایا گیا ہے اور وہ تمام باتیں بھی جن کی طرف لوگ محتاج ہیں اور فرمایا: مافر طنفا فی الكتاب من شیء (سورہ انعام آیت ۱۳۸) ہم نے کتاب میں

کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ اور حضور اکرمؐ کی آخر عمر میں تحتہ الوداع میں یہ آیت نازل کی۔ **اليوم اكملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً** (سورۃ مائدہ آیت ۳) آج میں پورا کر چکا ہمارے لئے تمہارا دین۔ اور پوری کیں تم پر میں نے اپنی نعمتیں اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو دین کی حیثیت سے۔ اور امر امامت اتمام دین سے ہے۔ اور آپؐ نے رحلت فرمائی مہماں تک کہ اپنی امت پر دین کے احکام کو ظاہر کر دیا۔ اور اس کا راستہ واضح کر دیا اور ان کو حق کی راہ پر لگا کر چھوڑ دیا اور حضرت علیؑ کو ان کے لئے نشان ہدایت اور امام بنایا اور کسی ایسے امر کو نہیں چھوڑا جس کی طرف امت محتاج ہو مگر یہ کہ اس کو بیان کر دیا۔ پس جس نے یہ گمان کیا کہ خدا نے اپنے دین کو مکمل کئے بغیر چھوڑ دیا تو اس نے کتاب خدا کو رد کیا اور جس نے ایسا کیا اس نے اس سے کفر کیا۔ کیا لوگ قدر امامت اور محل امامت کو پہنچتے ہیں؟ کیا ان کو اس کے متعلق اختیار دے دیا گیا ہے؟

امامت از روئے قدر و منزلت بہت اہل و ارفع ہے اور از روئے شان بہت عظیم ہے۔ اور محل و مقام کے اعتبار سے بہت بلند ہے اور اپنی طرف غیر کے آنے سے مانع ہے۔ اور اس کا مفہوم بہت گہرا ہے لوگوں کی عقین اس تک نہیں پہنچ سکتیں اور ان کی رائیں اس کو پا نہیں سکتیں۔ وہ اپنے اختیار سے اپنے امام کو مقرر نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو امامت سے مخصوص کیا۔ نبوت اور خلعت کے بعد امامت کا تیسرا رتبہ ہے۔ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیمؑ کو اس کا شرف بخشا اور اس کا اس طرح ذکر کیا۔ **انی جاعلک للناس اماماً** (سورۃ بقرہ آیت ۱۲۴) "میں نے تجھ کو انسانوں کا امام بنایا۔" خلیل خدا نے خوش ہو کر کہا: اور میری اولاد کو امام بنائے گا؟ فرمایا کہ عالم میرے عہد کو نہ پاسکیں گے۔ اس آیت نے قیامت تک کے لئے ہر ظالم کی امامت کو باطل کر دیا۔ اور اس کو اپنے برگزیدہ لوگوں میں قرار دیا اور پھر ابراہیمؑ کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا اس طرح کہ ان کی اولاد میں پاکیزہ اور ظاہر لوگ پیدا کئے اور فرمایا: **و وہبنا لہ اسحق و یعقوب نافلۃ و کلا جعلنا صالحین ۵ وجعلناہم ائمة یهدون با مرنا و اوحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلوٰۃ و ایتاء الزکوٰۃ و کانوا لنا عابدین۔** (سورۃ الانبیاء آیت ۷۲-۷۳) ہم نے ابراہیمؑ کو اسحاق اور یعقوب عطا کئے جیسا کہ انہوں نے طلب کیا اور ان سب کو صالح بنایا اور امام بنایا کہ وہ ہمارے امر کی ہدایت کرتے اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کی، نثار قائم کرنے کی، اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔"

پس عہد امامت ان کی ذمت میں بطور میراث ایک دوسرے کی طرف چلا یہ سلسلہ صدیوں تک چلتا رہا یہاں تک کہ اس کے وارث حضور اکرمؐ ہوئے جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے: **ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوا و هذا النبی والذین امنوا واللہ ولی المومنین** (سورۃ آل عمران آیت ۶۸) "لوگوں میں زیادہ مناسبت ابراہیمؑ سے ان کو تھی جو ساتھ اس کے تھے اور ان کو بھی جو ایمان لائے اس نبی پر اور اللہ تعالیٰ والی ہے

مومنوں کا۔ پس یہ چیز حضور اکرمؐ کے لئے مخصوص ہو گئی۔ پھر یہ عمدہ حضرت علیؑ سے مخصوص ہوا خدا کے حکم سے اس رسم کی بناء پر جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی۔ پس ان کی اولاد میں وہ اصفیاء ہوئے جن کو اللہ نے علم و ایمان دیا۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے: **وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث فهذا یوم البعث ولكنکم کنتم لاتعلمون** (سورۃ روم آیت ۵۶) اور وہ لوگ جن کو علم اور ایمان دیا گیا تھا یہ کہیں گے کہ تم تو خدا کے نوشتے کے بموجب قیامت تک رہے تو آج تو یہ قیامت کا دن ہے لیکن تم کو (اس کا) علم و یقین ہی نہ تھا۔ پس یہ امامت اولاد علی علیہ السلام میں قیامت تک رہے گی کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو ان جاہلوں کو (امام بنانے کا) یہ اختیار کہاں سے حاصل ہو گیا؟

امامت بمنزلہ نبوت اور میراثِ اوصیاء ہے۔ امامت اللہ کی خلافت اور رسول اللہ کی جانشینی ہے یہ مقام امیرالمومنین علی ابن ابی طالب اور میراثِ حسن اور حسین ہے۔

امامت دین کی نگام اور نظامِ مسلمین ہے۔ اس سے امور دنیا کی درستی ہے اور مومنین کی عزت ہے امامت اسلام کا سر اور اس کی بلند شاخ ہے۔ امام ہی سے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور جہاد کا تعلق ہے۔ امام ہی مالِ غنیمت کا مالک ہے، صدقات کا وارث ہے۔ وہی حدود اور احکام کا جاری کرنے والا ہے۔ وہی سرحدوں اور اطراف کی حفاظت کرنے والا ہے۔ امام حلالِ خدا کو حلال اور حرامِ خدا کو حرام کرتا ہے۔ حدودِ اللہ کو قائم کرتا ہے۔ دشمنوں کو دینِ خدا سے دور کرتا ہے۔ اور لوگوں کو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دینِ خدا کی طرف بلاتا ہے وہ خدا کی حجتِ بالغہ ہے۔

امام چرھتا سورج ہے جو اپنی روشنی سے عالم کو جگمگاتا ہے۔ وہ ایسے مقامِ بلند پر ہے کہ لوگوں کے ہاتھ اور نگاہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتیں۔

امام روشن چاند اور ضیاءِ بارِ چراغ ہے۔ جگمگاتا نور ہے۔ ہدایت کرنے والا ستارہ ہے اور غلالت کی تاریکیوں میں شہروں، جنگوں اور سمندر کی گہرائیوں میں راہ بتاتا ہے۔

امام پیاسے کے لئے چشمِ آبِ شیریں ہے، ہدایت کا ناز ہے، ہلاکت سے نجات دینے والا ہے۔ وہ اس آگ کے مانند ہے جو کسی بلندی پر لوگوں کو راستہ دکھانے کے لئے روشن کی جائے، اس کے وجود کی گرمی سے رخِ بستہ موسم میں سکون ملتا ہے، وہ ہلاکت خیزوں میں صحیح راستہ بتانے والا ہے۔ جو اس سے الگ رہا ہلاک ہوا۔

امام برسنے والا بادل ہے وہ موسلا دھار بارش ہے۔ وہ آفتابِ درخششاں ہے وہ سایہ نگن آسمان ہے۔ وہ ہدایت کی کشادہ زمین ہے وہ ابلنے والا چشمہ ہے۔ وہ تلاب ہے۔ وہ باغ ہے۔

امام امانت دارِ ساتھی ہے۔ شفیق باپ اور سگ بھائی ہے۔ اور سخت مصیبت میں بندوں کا جائتے پناہ ہے۔

امام اللہ عزوجل کا اس کی مخلوق میں امین ہے۔ اس کے بندوں پر اس کی حجت ہے۔ امام شہروں میں خدا کا خلیفہ

ہے۔ اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ اور حرمِ خدا سے دشمنوں کو دور رکھنے والا ہے۔

امام خطاؤں سے پاک ہوتا ہے۔ وہ تمام میوب سے بری، علم سے مخصوص اور حلم سے موسوم ہوتا ہے۔ وہ دین کے نظام کو درست کرنے والا، مسلمانوں کی عزت، منافقوں کے لئے غیظ و غضب اور کافروں کے لئے ہلاکت ہے۔

امام اپنے زمانے میں پیدا ہوتا ہے۔ کوئی فضل و کمال میں اس کے قریب بھی نہیں ہوتا۔ نہ کوئی عالم اس کے

مقابلہ کا ہوتا ہے نہ اس کا کوئی بدل پایا جاتا ہے نہ اس کا کوئی مثل و نظیر ہوتا ہے۔ وہ بغیر اکتسابِ خدا کی مہربانی سے

ہر قسم کی فضیلت سے مخصوص ہے۔ یہ اختصاص اس کے لئے بہت فضل کرنے والے اور بہت عطا کرنے والے خدا کی

طرف سے ہوتا ہے۔ پس کون ہے جو معرفتِ امام حاصل کر سکے یا امام بنانا اس کے اختیار میں ہو۔ افسوس صد افسوس

لوگوں کی عقلیں گمراہ ہو گئی ہیں۔ عقول پریشان ہیں۔ بردباریاں سرگشتہ ہیں۔ فہمِ داوراک متحیر ہیں۔ آنکھیں تھک

گئی ہیں۔ عظیم المرتبت لوگ حقیر ہو گئے۔ حکماء حیران ہو گئے۔ خطیبوں کی زبانیں بند ہو گئیں۔ صاحبانِ حلم کمزور

ہو گئے۔ عقموں پر جہالت کا پردہ پڑ گیا، شعراء تھک گئے، اہل ادب عاجز ہو گئے اور صاحبانِ بلاغت ایسے عاجز آئے کہ امام

کی کسی شان کو بیان نہ کر سکے۔ اور اس کی کسی ایک فضیلت کی تعریف نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنے عجز کا اقرار کیا اور

اپنی کوتاہی کے قائل ہوئے۔ پس کیسے اس کی حقیقت کا وصف بیان ہو سکتا ہے یا اس کی تعریف ہو سکتی ہے یا اس امر

امامت کے متعلق کچھ سمجھا جاسکتا ہے۔ یا کوئی اس کی جگہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ یا اس سے مستغنی کر سکتا ہے۔ نہیں اور

کیسے، کیونکہ وہ سخاوت کے ہاتھوں اور توصیف کرنے والوں کے وصف سے اور شریا کی مانند بلند ہے۔ ایسی صورت میں

امام مقرر کرنے میں بندوں کا اختیار کیسا اور عقول کی رسائی کہاں، امامت جیسی چیز اور کونسی ہے؟ وہ خیال کرتے

ہیں کہ امامت آلِ محمد کے غیر میں پائی جاتی ہے۔ خدا کی قسم لوگوں کے نفسوں نے ان کو جھٹلایا ہے۔ اور ان کو باطل

شیانات میں بہلا کر دیا ہے۔ وہ صعوبت سے چڑھائی پر چڑھے تو ان کے قدم پستی کی طرف پھسل گئے۔ انہوں نے امام

بنانے کا ارادہ اپنی ناقص اور تباہ کن عقلوں اور گمراہ کن آراء سے کیا۔ پس حقیقی امام سے ان کا فاصلہ بڑھتا ہی گیا۔ خدا

ان کو ہلاک کرے یہ کہاں بچے جا رہے ہیں۔

انہوں نے ناممکن کام کا ارادہ کیا، جہوت کہا اور خوفناک گمراہی میں پڑ گئے اور حیرت کے بھنور میں پھنس گئے۔

انہوں نے اہم کو بصیرت سے جانتا چھوڑ دیا، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں فریبت دے دی اور ان کو

صحیح راستہ سے ہٹا دیا انہوں نے خدا اور رسول کے انتخاب سے نفرت کی اور اپنے انتخاب کو پسند کیا۔ حالانکہ قرآن

ان سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے: **وَرَبِّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ سُبْحَانَ**

اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (سورہ قصص آیت ۶۸) "تیرا رب جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے

منتخب کرتا ہے۔ لوگوں کی اس میں دخل اندازی نہیں۔ اللہ لائقِ تسبیح ہے شرک سے پاک ہے۔" نیز فرماتا ہے: **وَمَا**

كان لمومن ولامومنة اذا قضى الله ورسول امرأ أن يكون لهم الخبير لا من امرهم
(سورۃ احزاب آیت ۳۶)۔ جب اللہ اور اس کا رسول کسی امر کو طے فرمادیں تو کسی مومن، مومنہ کو اپنے معاملہ میں
کوئی اختیار حاصل نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا: مالکم کیف تحکمون ○ ام لکم کتاب فیہ
تدرسون ○ ان لکم فیہ لمتاخیرون ○ ام لکم ایمان علینا بالغة الی یوم القیامة
ان لکم لمتاحکمون ○ سلہم ایہم بذلک زعیم ○ ام لہم شرکاء فلیاتوا بشرکاء
نہم ان کانوا صادقین (سورہ قلم آیات ۳۶ تا ۴۱) "تمہیں کیا ہو گیا ہے تم خود کیسا حکم لگاتے ہو۔ آیا تمہارے
پاس قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے جس کا تم درس لیتے ہو۔ کہ جو کچھ تم پسند کرو گے وہ تم کو اس میں ضرور ملے گا
یا تمہارا ہم سے روز قیامت تک کے لئے کوئی معاہدہ ہے کہ تم اس کے متعلق حکم کرتے ہو۔ اے رسول! تم ان سے
پوچھو کہ کون ان عہدوں کا ضامن ہے۔ کیا ان کے لئے خدا کے شریک ہیں۔ پس اگر تم سچے ہو تو اپنے ان شریکوں کو
بلاؤ۔" نیز فرماتا ہے: افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب افعالہا (سورہ محمد آیت ۲۴) "کیا یہ لوگ
آیات قرآنی میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے قلوب پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔" یا طبع اللہ علی قلوبہم فہم
لا یعلمون (سورہ توبہ آیت ۹۳)۔ ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے کہ وہ نہیں سمجھتے "یا قالوا سمعنا وہم لا
یسمعون ○ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون ○ ولو علم اللہ
فیہم خیراً لاسمعہم ولو اسمعہم لتولوا وہم معرضون (سورہ انفال آیات ۲۱ تا ۲۳) کیا وہ کہتے
ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ خدا کے نزدیک روئے زمین پر بدترین چھٹنے والے گونگے بہرے ہیں جو سمجھتے
ہی نہیں۔ اگر اللہ جانتا کہ ان میں کوئی بہتری ہے تو ضرور ان کو سنا تا لیکن اگر وہ سنتے تو روگردانی کر کے بھاگ جاتے۔"
یا قالوا سمعنا و عصینا (سورہ بقرہ آیت ۹۳) "انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔" بلکہ یہ تو خدا کا
فصل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔

پس اس صورت میں امام کے متعلق ان کا کیا اختیار ہے۔ امام عالم ہوتا ہے۔ (کسی چیز سے) جاہل نہیں ہوتا۔
امامت کا محافظ ہوتا ہے۔ معدنِ قدس و طہارت و عبادت و زہد ہوتا ہے۔ اس کے علم و عبادت و دعوت رسول سے
مخصوص ہوتے ہیں۔ وہ نسلِ مطہرہ بتوں سے ہوتا ہے۔ اس کے نسب میں کوئی عیب نہیں ہوتا ہے۔ نہ کوئی حسب
میں اس کے قریب ہوتا ہے۔ قریش سے ہوتا ہے۔ خاندان بنو ہاشم میں سب سے بلند مرتبہ پر ہوتا ہے۔ عترت رسول
سے ہوتا ہے۔ رضائے انبی کا طلبگار ہوتا ہے۔ تمام اشرف کا شرف ہوتا ہے۔ عبد مناف کی نسل سے ہوتا ہے۔ علم کو
عروج دینے والا ہوتا ہے۔ جہلم سے پُر ہوتا ہے۔ شرائطِ امامت کا جامع ہوتا ہے۔ سیاست الہیہ کا عالم ہوتا ہے۔ اس کی
احاطت لوگوں پر فرض ہوتی ہے۔ امر الہی کا قائم کرنے والا ہوتا ہے۔ ہنگامِ خدا کو نصیحت کرنے والا ہوتا ہے۔ دین

خدا کا نگہبان ہوتا ہے۔

انبیاء اور ائمہ طاہرین کو اللہ کی جانب سے توفیق ہوتی ہے اور اس کے علم و حکمت کے طرائق سے جو چیز ان کو دی جاتی ہے ان کے غیر کو نہیں دی جاتی۔ ان کا علم تمام زمانہ کے علم سے زیادہ ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے:

افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدی فمالکم کیف تحکمون (سورہ یونس آیت ۳۵) "تو اب جو کوئی صحیح راہ بتائے اس کی بات ماننی چاہیے یا اس کی جو آپ راہ نہ پائے مگر جب کوئی اور اس کو راہ بتلائے۔ سو کیا ہو گیا تم کو کیسا انصاف کرتے ہو۔" نیز ارشاد خداوندی ہے: ومن یوت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یدکر الا اولوا الالباب (سورہ بقرہ آیت ۲۶۹) "اور جس کو سمجھ ملی اس کو بڑی خوبی ملی اور نصیحت دہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔" حضرت طاہرین کے قصہ میں ارشاد خداوندی ہے: ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطة فی العلم والجسم واللہ یوتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم (سورہ بقرہ آیت ۲۲۷) "بے شک اللہ نے پسند فرمایا اس کو تم پر اور زیادہ فراخی دی اس کو علم اور جسم میں اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہے دیتا ہے اور اللہ ہی فضل کرنے والا سب کچھ جانتے والا ہے۔" اور حضور اکرمؐ سے ارشاد ہوتا ہے۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما (سورہ نساء آیت ۱۱۳) "اور اللہ کا فضل تجھ پر بہت بڑا ہے۔"

اللہ نے ائمہ اہل بیت کے بارے میں ارشاد فرمایا: ام یحسدون الناس علی ما آتھم اللہ من فضله فقد اتینا آل ابراہیم الكتاب والحکمة واتینهم ملکا عظیما (سورہ نساء آیت ۵۴ تا ۵۵) یا لوگوں پر اس کا حسد کرتے ہیں جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے۔ بے شک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت عطا فرمائی اور ان کو بہت بڑی سلطنت دی۔ پھر عام لوگوں میں سے کچھ تو اس پر ایمان لے آئے اور کچھ اس سے رک گئے۔ اور ان رکنے والوں کے لئے) بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔

جب خدا کسی بندے کو اپنے بندوں کے امور کی اصلاح کے لئے منتخب کر لیتا ہے۔ تو اس کام کے لئے اس کے سینہ کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اور حکمت کے پختے اس کے قلب میں ودیعت فرماتا ہے۔ اور علم کا الہام کرتا ہے۔ پس وہ کسی سوال کے جواب میں عاجز نہیں ہوتا اور نہ وہ راہ صواب میں حیران ہوتا ہے۔ وہ معصوم، تائید یافتہ، باتوفیق، سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والا، خطاؤں، ذلتوں اور کمزوریات سے بچا ہوا ہوتا ہے۔ خدا اسے ان امور سے مخصوص کرتا ہے۔ تاکہ وہ اس کے بندوں پر اس کی حجت بانڈ ہو اور اس کی مخلوق پر اس کا گواہ ہو۔ ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم (سورہ حدید آیت ۲۱) "وہ اللہ کا فضل ہے۔ اس کو دے

مجھے چاہے اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔

پس کیا لوگ ایسا امام بنانے پر قادر ہیں کہ وہ اس کو انتخاب کر لیں اور ان صفات والے پر وہ کسی اور کو مقدم کر دیں۔ خانہ کعبہ کی قسم! انہوں نے کتاب خدا کو پس پشت ڈال دیا گویا وہ نہیں جانتے۔ حالانکہ کتاب خدا میں ہدایت اور شفاء ہے انہوں نے اسے پس پشت ڈال کر اپنی خواہشات کا اجماع کیا۔ خدا نے ان کی مذمت کی ان کو دشمن رکھا اور ان کے لئے ہلاکت ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَمَنْ اضلَّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هُوَ بغيرِ هدى من اللّٰه ان اللّٰه لا يهدى القوم الظالمين** (سورۃ قصص آیت ۵۰)۔ اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ بیشک اللہ نافرمان لوگوں کی رہبری نہیں فرماتا۔ نیز ارشاد خداوندی ہے **فتعسأ لهم و اضل اعمالهم** (سورۃ محمد آیت ۸)۔ گرے منہ کے بل اور ضائع ہو گئے۔ نیز پروردگار عالم کا ارشاد ہے **كبر مقتاً عند اللّٰه وعند الذّٰيين امنوا كذٰلك يطبع اللّٰه علىٰ كل قلب متكبر جبار** (سورۃ مؤمن آیت ۳۵)۔ اللہ کے نزدیک اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے نزدیک (یہ رویہ) بہت ہی ناپسند ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر چھاپا لگا دیتا ہے۔

الحمد لله كتاب كمال الدين و تمام النعمت کی جلد دوم کا ترجمہ اختتام کو پہنچا۔ و صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و سلم تسلیماً کثیراً۔

۱۳ ربیع الاول ۱۴۲۰ھ

۲۹ جون ۱۹۹۹ء

عَلَلُ الشَّرَائِعِ

اَرَوُا

لِلشَّيْخِ الصَّدُوقِ

تَأَلَّفَتْ

الشَّيْخِ الصَّدُوقِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ

ابْنِ أَبِي عِيَّاشٍ بِنِ مَوْحِبِ بْنِ أَبِي بَرزِئَةَ

الْمَشْرِفِيِّ السَّنَةِ ۳۸۱

مَوْلَانِي حَسْبُكَ حَسْبُكَ
مَوْلَانِي حَسْبُكَ حَسْبُكَ
مَنْشَرُ الْاَفْضَلِ

ناشر

الکتاب پبلیشرز



آر. ۱۵۹ سیکٹر ۵ بی ۲ نارتھ کراچی

التاس سورہ فاتحہ کے تمام مروجین

۱ [شیخ صدوق	۱۳ (سید حسین عباس فرحت	۲۵ (تیکم و اخلاق حسین
۲ [علامہ مجلسی	۱۴ (تیکم و سید جعفر علی رضوی	۲۶ (سید ممتاز حسین
۳ [علامہ سائبر حسین	۱۵ (سید نظام حسین زیدی	۲۷ (تیکم و سید اختر عباس
۴ [علامہ سید علی نقی	۱۶ (سیدہ زہرہ	۲۸ (سید محمد علی
۵ [تیکم و سید عابد علی رضوی	۱۷ (سیدہ رضویہ خاتون	۲۹ (سیدہ رضیہ سلطان
۶ (تیکم و سید احمد علی رضوی	۱۸ (سید نجم الحسن	۳۰ (سید مظفر حسین
۷ (تیکم و سید رضا امجد	۱۹ (سید مبارک رضا	۳۱ (سید باسط حسین نقوی
۸ (تیکم و سید علی حیدر رضوی	۲۰ (سید تنہیت حیدر نقوی	۳۲ (نظام محی الدین
۹ (تیکم و سید سید حسن	۲۱ (تیکم و مرزا محمد ہاشم	۳۳ (سید ناصر علی زیدی
۱۰ (تیکم و سید مردان حسین جعفری	۲۲ (سید باقر علی رضوی	۳۴ (سید وزیر حیدر زیدی
۱۱ (تیکم و سید چار حسین	۲۳ (تیکم و سید باسط حسین	۳۵ (ریاض الحق
۱۲ (تیکم و مرزا تو حید علی	۲۴ (سید عرفان حیدر رضوی	۳۶ (خورشید تیکم